

# مضامین قرآن حکیم

ترتیب:

زاہد ملک

بن قطب انٹرنیشنل



مترجم:

زاہد ملک

پن قطب انٹرنیشنل  
پاکستان

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, except the written permission from the Publisher.

Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claim for damages.

ISBN 978-969-9445-00-2

### HEAD OFFICE

BIN QUTAB INTERNATIONAL (PVT) LTD.  
407-A-I Gulberg-3 Lahore-54000 UAN: +92-42-111-637-637  
Tel: +92-42-5771961-68, Fax: +92-42-5771969-70.  
Email: qadeer.malik@binqutab.com or tauqeer.malik@binqutab.com  
Contact: Muhammad Qadeer Malik Mobile: 00-92-0300-4142503

### REGIONAL OFFICES

APC العرپرنٹرز۔ علی اکبر ہاؤس مرکز جی۔ 8، اسلام آباد  
+92-051-2852027-8

#### KARACHI

301-A 3th Floor Annam Classic Main Shahra-Faisal,  
Karachi-Pakistan: UAN: +92-21-111-637-637 Tel: +92-21-4321828-33  
Fax: +92-21-4390731 Mobile: 0300-415-4607

#### ISLAMABAD

Suite # 22nd Floor Taj Mahal Arcade F-10 Markaz Islamabad-Pakistan,  
UAN: +92-51-111-637-637 Tel: +92-51-2212261-2  
Fax: +92-51-2212263 Mobile: 0300-523-9820  
Email: tanveer.malik@binqutab.com

#### LAHORE

407-A-, Gulberg-3 Lahore-54000 UAN: +92-42-111-637-637  
Tel: +92-42-5771961-68 Fax: +92-42-5771969-70  
Mobile: 0301-439-9554 Email: abdul.alceem@binqutab.com

#### DUBAI

Plot # 369-579 Al-Quoz Industrial Area IV Sheikh Zayed Road  
P.O Box: 24146 Dubai UAE  
Tel: +971-4-3413704 Fax: +971-4-3413705  
Mobile: +971-502-0961-65 Email: wasim.malik@binqutab.com

#### SHAHRAJAH

No.6/LOB Hamriya Free Zone, Phase II  
PO.Box No. 42621  
Shahrjah Tel: +971-652-60764 Fax: +971-652-60795  
Mobile: +971-502-0961-65 Email: fahim.malik@binqutab.com

#### KABUL

Off # 2 1st Floor Habib Zakariya Building Opposite  
Park Restaurant Shahr-e-Nau, Kabul, Afghanistan.  
Tel: +93-786-001637, +93-777-651465  
Email: faisal.malik@binqutab.com

### BRANCHES

FAISALABAD:  
SIALKOT:  
PESHAWAR:  
QUETTA:  
CHAKWAL:

+92 41 872 2453  
+92 52 325 1596  
+92 91 527 7959  
+92 81 282 4023  
+92 543 540 523

+92 300 4142 503  
+92 300 2010 732  
+92 300 5887 028  
+92 321 8003 111  
+92 300 5472 091

# مضامین قرآن حکیم

جملہ حقوق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ————— مضامین قرآن حکیم

مرتب ————— زاہد ملک

ناشر ————— بن قطب انٹرنیشنل - پاکستان

باہتمام ————— محمد صبغۃ اللہ راشد

ہدیہ (پاکستان) ————— Pak Rupees Rs.850/-

ہدیہ (بیرون ملک) ————— US \$ 29.00

مطبع

تعداد ————— 5000

ایڈیشن ————— 39

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَفَلَا یَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ  
اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالٍ هَا

کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا  
(اُن کے) دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟

(سورۃ محمد: ۲۲)

## سرٹیفکیٹ

مضامین قرآن حکیم میں درج جملہ قرآنی آیات کو میں نے  
حرف بہ حرف پورے غور و خوض اور نظر عمیق سے دیکھا ہے اور میں  
تصدیق کرتا ہوں کہ ان میں کتابت، اعراب، صحت لفظی اور خوشخطی کو  
بطریق احسن ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اور تمام آیات کریمہ ہر قسم کی اغلاط  
سے مبرا ہیں۔

فجزاهم اللہ احسن الجزاء

محمد یونس

حافظ محمد یونس

سینئر پروف ریڈر، حکومت پاکستان

خطیب جامع مسجد الفرقان۔ سٹلائٹ ٹاؤن۔ راولپنڈی

## نظر ثانی

مولانا محمد اللہ دتہ بہاؤ پوری

فاضل جامعہ مدنیہ بہاؤ پور

فاضل وفاق المدارس العربیہ پاکستان

## فہرست مندرجات

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
6	امام کعبہ کا پیغام	1
7	مضامین قرآن حکیم کا پس منظر	2
11	مضامین قرآن حکیم کیا ہے؟	3
15	اظہار تشکر	4
17	کچھ اس ایڈیشن کے بارے میں	5
19	عرض ناشر	6
20	فہرست مضامین	7
37	قرآن کی عظمت و اہمیت	8
64	قرآن حکیم کی اصولی تعلیمات کا مختصر خاکہ	9
71	مضامین قرآن حکیم	10

# امام کعبہ کا پیغام

میرا محترم زاہد ملک سے اُن دنوں تعارف ہوا جب آپ 1970ء کی دہائی کے وسط میں وزارت مذہبی امور، حکومت پاکستان کے ایک پالیسی ساز عہدہ پر فائز تھے، پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکت کیلئے مجھے مدعو کیا گیا تھا۔ بعد میں یہ تعارف دوستانہ مراسم میں تبدیل ہو گیا۔ میں زاہد ملک صاحب کی پُر خلوص شخصیت، انکی مثبت سوچ اور اشاعتِ قرآن کی خواہش سے متاثر ہوتا گیا۔

انہوں نے جب 1980ء میں قرآن فہمی کو عام کرنے کا پروگرام شروع کیا تو میں نے انہیں مبارک باد کا خط لکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر موجودہ دور میں یعنی اکیسویں صدی میں جب کہ دنیا بھر میں لوگ اسلام کے قریب آرہے ہیں اور انکی اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کیلئے خواہش بڑھ رہی ہے۔ "مضامین قرآن حکیم" اس حوالے سے ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی منفرد کتاب ہے جو تلاشی حق کو انتہائی آسان، سہل اور فوری طور پر قرآن پاک کی تعلیمات تک لے جاتی ہے اور قاری کسی بھی موضوع پر جب ارشاداتِ ربّانی کو بغیر کسی ترجمانی کے اپنی اصل حالت میں دیکھتا ہے تو اللہ کے آخری کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یوں جناب زاہد ملک نے قرآن حکیم کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے اور اپنا نام خادمین قرآن کی فہرست میں لکھوا لیا ہے۔

اب مجھے اس امر سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اور خوشگوار حیرت بھی کہ جناب زاہد ملک، مضامین قرآن حکیم کے اردو، انگلش ایڈیشنوں کے بعد چینی، روسی، جرمن، فرانسیسی، سویڈش اور بعض افریقی زبانوں میں بھی اس کے ایڈیشن مرتب کرنے والے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اور کٹھن کام ہے، اس کیلئے بہت سے وسائل اور ایک بہت بڑے ادارے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے یقین ہے اور جیسا کہ میں جناب زاہد ملک کو جانتا ہوں، وہ انشاء اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے اس بہت بڑے اور عظیم پروجیکٹ کو اسی طرح پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس طرح انہوں نے مضامین قرآن حکیم (اردو، انگلش) ایڈیشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ میری دعائیں انکے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن فہمی کی مزید خدمت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ان کیلئے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔

الشیخ عبداللہ بن السبیل

امام کعبہ

سعودی عربیہ

# مضامین قرآن حکیم کا پس منظر

ایک مسلمان کی حیثیت سے میں ہر صبح جب نماز فجر کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرتا اور زیر تلاوت آیات مبارکہ کے معنی و مفہوم پر غور کرتا تو قلب کی گہرائیوں میں ایک عجیب سا طوفان بپا ہوتا محسوس کرتا۔ ایسا لگتا جیسے کوئی چیز قلب و جگر میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے (شاید اپنے گناہوں کی کثرت کے احساس سے) اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ اللہ کیا کتاب ہے۔ انداز بیان کا جادو اور خطابت کا دبدبہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ عقل و فکر اور قلب و جگر کی ان بدلی ہوئی کیفیات کے دوران نہ جانے کیوں اور کیسے کبھی کبھی دل میں یہ خیال جنم لیتا کہ میں بھی رب ذوالجلال کے اس عظیم کلام کی کچھ خدمت کروں اور اس کی اشاعت میں کچھ حصہ لوں۔ پھر جب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا اپنی بے علمی اور بے عملی کی طرف نظر دوڑاتا اور اپنے حالات و وسائل کا جائزہ لیتا تو کچھ سمجھ سا جاتا۔ اور سوچتا کہ اگر وسائل میسر آ بھی جائیں اور میں اپنی بے عملی پر قابو پا بھی لوں تو آخر قرآن حکیم کا وہ کونسا پہلو ہے جس پر ابھی تک خاطر خواہ کام نہ ہوا اور جس پر اب کسی نئے اور اچھوتے انداز سے کام کرنے کی گنجائش ہو۔ لیکن معاً یہ روشن خیال ذہن میں آتا کہ جس طرح اس وقت سے لے کر جب اسے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنا، قرآن حکیم کے پڑھنے اور ماننے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس کلام پاک کے تراجم، تفاسیر اور علوم کے ہر پہلو پر ہر ہر زبان میں قیامت تک کام ہوتا رہے گا۔ تذبذب کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ لیکن آہستہ آہستہ روشن خیالات نے ایک واضح شکل و صورت اختیار کر لی اور میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ انشاء اللہ قرآن حکیم کی تعلیمات کی وسیع تر اشاعت کے لئے بہر حال کچھ نہ کچھ کام ضرور کروں گا۔

قرآن حکیم کی اشاعت کے بجائے قرآن حکیم کی تعلیمات کی اشاعت کے متعلق میرے فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ ان دنوں میں بھی جب کہ میں تذبذب کا شکار تھا ہر صبح تلاوت قرآن کے دوران اپنی ذاتی سمجھ اور ضرورت کے لیے مختلف موضوعات پر درج آیات کریمہ کے ترجمہ کو الگ الگ اپنی ایک کاپی پر نوٹ کر لیا کرتا۔ اس طرح ہر روز ایک آدھ نئے موضوع کا اضافہ ہو جاتا اور اگر آیات کسی ایسے موضوع کے متعلق ہوتیں جو میں نے پہلے ہی اپنی کاپی پر درج کر رکھا ہوتا تو پھر اس آیت کو ترجمے کے ساتھ اسی پہلے سے موجود موضوع کے نیچے لکھ لیتا۔ ایک سال کے بعد ایک دن جو میں نے اپنی کاپی کی ورق گردانی کی تو یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ میری کاپی اسلامی نظریہ حیات اور ضابطہ حیات کی ایک دستاویز بن گئی تھی جس میں ایک طرف تخلیق کائنات اور زمین و آسمان کی ساخت سے لے کر



قیامت تک کے معاملات بلکہ قیامت کے بعد جنت و دوزخ کے تفصیلی احوال تھے اور دوسری طرف 'تمدن' سیاست، معیشت، اصول حکمرانی اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے راہنما اصول اور قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں موجود ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انسانی زندگی کی جزئیات یعنی حلال و حرام، کھانے پینے کے آداب، گفتگو کے آداب، میاں بیوی کے تعلقات، والدین کے حقوق اور وراثت جیسے مسائل کے ضابطے بھی اس میں موجود تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان تمام معاملات پر قرآنی تعلیمات کو یکجا، اپنی اصل، صاف ستھری اور خالص حالت میں اپنی کاپی میں دیکھا۔ اسی موقع پر مجھے یہ خیال آیا کہ قرآن حکیم کا حقیقی مفہوم و مدعا سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے قرآنی تعلیمات کو الگ الگ کر کے سمجھا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ قرآن فہمی کے لیے اس ذاتی، بے ترتیب اور نامکمل سی کوشش نے بالآخر ایک بہت بڑے منصوبے کی شکل اختیار کر لی جو مزید دو سالوں کی محنت، تین لاکھ روپے کے زرخیز اور دس ریسرچ سکالروں کے تعاون سے مضامین قرآن حکیم کی صورت میں آپ تک پہنچا۔ یہ سارا کام میری ذاتی صلاحیت کی بناء پر نہیں بلکہ محض لگن کی بنا پر مکمل ہوا۔

مضامین قرآن حکیم کیا ہے؟ قرآن فہمی پر یہ کتاب کس طرح ہر لحاظ سے منفرد ہے؟ اس کتاب سے کس طرح بھرپور استفادہ کیا جاسکتا ہے؟ ان سوالوں اور اسی طرح کے دوسرے سوالات کا جواب "حرف آغاز" کے بعد "مضامین قرآن حکیم کیا ہے" میں دیا گیا ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اصل کتاب سے بھرپور استفادے کی غرض سے پہلے میرا وہ مضمون جو دراصل کتاب کے "اجزائے ترکیبی" کی وضاحت اور اس کی "ترکیب استعمال" سے متعلق ہے ضرور مطالعہ کریں۔ اسی طرح اصل کتاب کے آغاز سے پہلے ایک اور مضمون قرآن کے نزول اور اس کی تدوین وغیرہ پر بھی دیا گیا ہے۔ تیس صفحات پر مشتمل اس مضمون کا مطالعہ بھی انشاء اللہ سود مند رہے گا۔

ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے لیکن اس پختہ عقیدے کے باوجود ہم لوگ اس "مکمل ضابطہ حیات" کے اصل سرچشمے یعنی قرآن حکیم کی حقیقی روح تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کریم ان معنوں میں ایک کتاب نہیں ہے جن معنوں میں ہم تاریخ، جغرافیہ، میڈیکل یا انجینئرنگ وغیرہ کی کتب کو لیتے ہیں۔ یہ کتابیں طالب علموں کی سہولت اور آسانی کے لیے چند ابواب، عنوانات اور ضمنی عنوانات کے تحت تقسیم کر دی جاتی ہیں اور ہر باب زیر نظر کتاب کے کسی ایک پہلو کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ مثلاً اسلامی تاریخ کی کتاب میں بنو عباس کی حکومت کے دور پر ایک الگ باب مخصوص ہوگا۔ اس باب کی بھی مزید تقسیم کر کے بنو عباس کے مختلف حکمرانوں کے برسر اقتدار آنے اور اقتدار سے ہٹنے یا ہٹائے جانے کے واقعات کا الگ الگ ذکر ہوگا اور باب کے آخر میں ایک الگ عنوان کے تحت اس خاندان کی مجموعی کارکردگی اور اس کے زوال کے اسباب کو لکھ دیا جائے گا۔ اب اگر کسی طالب علم کو اسلامی تاریخ کی اس کتاب میں سے صرف بنو عباس کے زوال کے اسباب کا مطالعہ کرنا مقصود ہے تو وہ کتاب کے شروع میں دی گئی "فہرست مضامین" کی روشنی میں براہ راست مطلوبہ عنوان تک پہنچ جائے گا اور

دو چار منٹوں میں بنو عباس کے زوال کے اسباب کا مطالعہ کر لے گا لیکن قرآن حکیم ایسی کتاب نہیں ہے یہ اپنی نوعیت کی ایک بالکل منفرد کتاب ہے۔ موضوع اور مضامین کے اعتبار سے بھی اور ترتیب و اظہار کے لحاظ سے بھی۔

جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم تیس برس کی مدت میں نازل ہوا۔ کبھی دو چار آیات، کبھی ایک ایک دو دو رکوع اور کبھی پوری پوری سورت۔ یعنی توزیّت کی طرح قرآن مجید مجموعہ کی صورت میں نہیں اترا بلکہ جیسے جیسے ضرورت لاحق ہوتی گئی ویسے ہی احکام نازل ہوتے گئے۔ نتیجتاً اگر ایک موضوع کا ذکر پہلی سورت میں ہے تو اسی موضوع کا ذکر قرآن کریم کی آخری سورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً قرآن حکیم میں بہتان تراشی کرنے والوں کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اب قرآن حکیم میں اس موضوع کا ذکر سورۃ النساء (سورۃ ۴) کی آیات نمبر ۱۱۱-۱۱۲ میں سورۃ النور (سورۃ نمبر ۲۴) کی آیت نمبر ۴، سورۃ الاحزاب (سورۃ نمبر ۳۳) کی آیت نمبر ۵۸ اور اسی طرح سورۃ الممتحنہ (سورۃ نمبر ۶۰) کی آیت نمبر ۱۲ میں بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ناظر بہتان تراشی کے متعلق احکام جاننا چاہے تو ظاہر ہے اسے تمام قرآن حکیم کی ورق گردانی کرنا پڑے گی اور ہر موضوع پر اس طرح کی تحقیق ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے عام مسلمان قرآن حکیم سے راہنمائی حاصل کرنے سے محروم اور اس کی حقیقی رُوح تک پہنچنے اور اس کے حقیقی مدعا کو جاننے میں بڑی مشکل محسوس کرتا ہے۔ بے شک قرآن حکیم کی محض تلاوت بھی کارثواب ہے۔ اس کی تلاوت آنکھوں کا نور دلوں کی شادابی، چین اور سکون و راحت ہے لیکن اصل بات تو قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کے لفظ لفظ میں چھپے ہوئے وسیع و عمیق معنوں پر غور و فکر کرنا اور اس میں بیان کی گئی ابدی ہدایات کی روشنی میں کامیاب (دینی و دنیاوی) زندگی بسر کرنا ہے۔ میں نے مضامین قرآن حکیم ان عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہی تیار کی ہے جو قرآنی تعلیمات سے متور ہو کر اپنے آپ کو صراطِ مستقیم پر لانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ قرآنی تعلیمات سے کس طرح استفادہ کریں۔

قرآن حکیم کو پہلے خود سمجھنا اور پھر دوسروں کو قرآنِ فہمی میں مدد دینا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو بڑے بڑے عارف اور کامل ہی کر سکتے ہیں۔ میں ایک بے علم بے عمل اور گنہگار انسان ہوں۔ اس لیے میں نے کسی مقام پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کتاب اللہ کی وسعتوں اور گہرائیوں کو جان گیا ہوں۔ میں تو ابھی سورۃ اخلاص کے مفہوم کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھ سکا لیکن اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہیں لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح مضامین قرآن حکیم کی تیاری کے دوران مجھے قرآنِ فہمی میں مدد ملی ہے اسی طرح قارئین کرام کو بھی مضامین قرآن حکیم کے مطالعہ سے قرآنِ فہمی میں مدد ملے گی۔

میں یہ دعویٰ بھی نہیں کروں گا کہ قرآنِ فہمی میں مدد دینے کے لیے دنیا بھر میں یہ پہلی کوشش ہے۔ قرآن حکیم کی وسیع تر اشاعت اور قرآن حکیم کے ہر علم پر دنیا میں جس قدر کام ہو چکا ہے بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ آج تک دنیا کی کسی اور کتاب پر نہیں ہوا۔ لیکن میں بڑی عجز و انکساری کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ مضامین قرآن حکیم دنیا بھر میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی

اس قسم کی جو کوششیں کی گئیں وہ یا تو مضامین کے لحاظ سے بہت مختصر تھیں یا ادھوری۔ حال ہی میں اسلام کے عظیم فرزند مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم نے اپنی شہرہ آفاق ”تفہیم القرآن“ کے آخر میں قرآن عظیم کا انڈکس دیا ہے جو بڑی عرق ریزی سے تیار کیا گیا ہے۔ مگر اپنی تمام تر افادیت کے باوجود بنیادی طور پر ان کی تفسیر کا انڈکس ہے اور پھر یہ انڈکس تفہیم کی چھ جلدوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی متلاشی حق دیکھنا چاہے کہ مثلاً ”زکوٰۃ“ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں تو پہلے تو چھ کی چھ جلدوں کا انڈکس دیکھے پھر اس انڈکس کی روشنی میں ”تفہیم“ کی چھ کی چھ جلدوں میں متعلقہ آیات کریمہ تلاش کرے پھر ان کا ترجمہ پڑھے۔ تب کہیں جا کر ”زکوٰۃ پر قرآنی آیات کا مفہوم سمجھ سکے گا۔ عہد حاضر کے ایک محقق جناب غلام احمد پرویز صاحب نے بھی ”ترویج القرآن“ کے نام سے تین جلدوں پر مشتمل قرآن حکیم کا ایک خوبصورت انڈکس تیار کیا ہے لیکن اس میں صرف مختلف موضوعات اور ان سے متعلقہ آیات کریمہ کے محض حوالے درج ہیں۔ ان حوالوں کو دیکھ کر آپ قرآن حکیم کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے متعلقہ آیات کریمہ اور پھر ان کا ترجمہ تلاش کریں۔ بہر حال ان انڈکسوں اور اسی طرح کے دوسرے انڈکسوں کی بڑی افادیت ہے اور ان انڈکسوں کے مرتبین مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے شانہ روز محنت سے یہ قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ تمام انڈکس مجھ جیسے ایک عام مسلمان کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے ناکافی ہیں۔ عام مسلمان قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر ہر ممکن حد تک عمل کرنے کا متمنی ہے لیکن اس پر کاروبار حیات کا بوجھ اس قدر ہے کہ تعلیمات کو ”تلاش“ کرنا اس کے بس میں نہیں۔ مضامین قرآن حکیم میں تعلیمات قرآنی کو ”تلاش“ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر موضوع پر آیات مبارکہ اور ان کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے۔

اگر میری یہ حقیر پیشکش حسب توقع مسلمانوں کو قرآن فہمی میں مددگار ثابت ہوئی تو یہ میری اور ادارہ مطبوعات حرمت کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی اور اگر مضامین قرآن حکیم کی مدد سے ایک مسلمان کا بھی قرآن حکیم سے حقیقی رابطہ پیدا ہو گیا اور وہ روح قرآن کے قریب ہو گیا تو مجھے اطمینان قلب ہوگا اور میں سمجھوں گا کہ میری بخشش کا سامان ہو گیا اور مجھے میری محنت کا ثمر مل گیا۔

اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعا ہے کہ وہ مجھ ناچیز کی محنت کو قبول فرمائیں مجھے اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی وسیع تراشاعت کی مزید توفیق عطا فرمائیں اور یہ التجا ہے کہ مضامین قرآن حکیم کی اشاعت کا ثواب میرے والدین کے نامہ اعمال میں ثبت فرمائیں۔

رَبَّنَا تَكَلِّبْ مَعَاطِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

زاہد ملک



## ”مضامین قرآن حکیم“ کیا ہے؟

مضامین قرآن حکیم میں خدائے ذوالجلال کے عظیم کلام کو آٹھ سواہم اور جامع عنوانات میں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر ایک موضوع پر ایک سوچوہ سورتمس یا تمس پاروں یعنی پورے قرآن حکیم میں تمام آیات مبارکہ کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اب اگر مجھ جیسا عام مسلمان یہ معلوم کرنا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثلاً تجارت کے متعلق کیا فرمایا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ قرآن پاک میں پھیلی ہوئی متعلقہ ہدایات اور احکامات کو تلاش کرتا پھرے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ”تجارت“ پر تمام آیات کریمہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح وہ پورا قرآن حکیم نہ سہی کم از کم متعلقہ موضوع یعنی ”تجارت“ پر قرآن حکیم کا مدعا ضرور سمجھ جائے گا۔ قرآنی تعلیمات تک یوں آسان اور سہل انداز میں دسترس سے عام مسلمانوں میں قرآنی ہدایات و احکامات کو براہ راست سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں مدد ملے گی۔

### حوالہ جات

قرآن حکیم کے بعض موضوعات اللہ تعالیٰ کو بڑے مرغوب ہیں۔ مثلاً توحید رسالت، آخرت اور جزا و سزا وغیرہ۔ ایسے موضوعات پر قرآن حکیم میں سینکڑوں آیتیں مل جائیں گی۔ ان موضوعات کے علاوہ دوسرے اہم موضوعات پر بھی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ آیتیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک ہی موضوع پر آیات کے اس تکرار سے مسلمانوں کو کوئی خاص بات ذہن نشین کرانا مقصود ہوتی ہے ظاہر ہے مضامین قرآن حکیم میں اس امر کی گنجائش نہ تھی کہ قرآن حکیم میں ایک موضوع پر دی گئیں تمام آیات متعلقہ عنوان کے نیچے درج کر دی جائیں۔ اگر ایسا کیا جاتا تو زیر نظر کتاب کا حجم دو ہزار صفحات سے بھی بڑھ جاتا۔ ادھر پرائیکٹ کی تکمیل کے دوران میری یہی کوشش رہی ہے کہ کتاب کا حجم آٹھ نو سو صفحات تک محدود رہے اور ایک ہزار صفحات سے ہرگز نہ بڑھنے پائے تاکہ قاری کو طوالت سے بچایا جائے اور کتاب کی قیمت اس کی قوت خرید سے باہر بھی نہ جانے پائے۔

لیکن کتاب کے مناسب حجم اور نتیجہ کتاب کی مناسب قیمت کے خیال سے یہ مراد نہ لی جائے کہ میں نے مضامین قرآن حکیم کو کسی بھی لحاظ سے ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ نہیں۔ ایسی بات نہیں۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل اور قرآن حکیم کی اکثر تعلیمات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ البتہ میں نے یہ کیا ہے کہ اگر ایک موضوع پر قرآن حکیم میں بارہ آیات ہیں تو ان میں سے پانچ چھ بڑی اور زیادہ واضح آیات لے لی ہیں اور باقی آیات کا نیچے حوالہ دے دیا ہے تاکہ اگر کوئی قاری کسی موضوع پر مختلف آیات کو پڑھنے کے بعد کچھ تشنگی محسوس کرے اور موضوع کی گہرائی میں جانا چاہے تو وہ پھر ان حوالوں میں مذکور متعلقہ سورتوں کے ناموں اور ان آیات کے نمبروں کی مدد سے قرآن پاک میں تفصیلی مطالعہ کرے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ ایک عام مسلمان کو مسائل اور ذہن میں پیدا ہونے والے طرح طرح کے سوالات کا جواب مضامین قرآن حکیم میں دی گئی آیات کریمہ ہی سے مل جائے گا۔

### نیز دیکھئے

چند بڑی بڑی اور مقابلہ زیادہ واضح آیات اور پھر ہر مضمون کے اختتام پر ”مزید حوالے“ دینے کے علاوہ بعض اہم مضامین کے آخر میں ان سے ملتے جلتے دوسرے مضامین کا ذکر ”نیز دیکھئے“ کے تحت کیا گیا ہے جس سے مقصد یہ ہے کہ قاری اگر چاہے تو زیر مطالعہ مضمون پر دی گئیں آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ”مزید حوالے“ دیکھ کر بھی ضرورت سمجھے اور اس مضمون سے متعلقہ دوسرے مضامین کا بھی مطالعہ کرنا چاہے تو ایسا کر سکے۔ مثلاً ”تجارت“ کے عنوان کے تحت درج کی گئیں آیات کریمہ اور ان کے ترجمے اور مزید حوالوں کے ذکر کے بعد مضمون کے اختتام پر لکھا ہے نیز دیکھئے: سود۔ بیع۔ ناپ تول۔ یہ تینوں مضامین قرآن حکیم کے الگ الگ عنوانات ہیں لیکن چونکہ ”سود“، ”بیع“ اور ”ناپ تول“ کا تعلق بنیادی طور پر تجارتی معاملات سے ہے اس لیے ان تینوں عنوانات کا ذکر ”تجارت“ کے آخر میں کر دیا گیا ہے تاکہ اگر آپ تجارت سے متعلق دوسرے امور پر بھی قرآنی آیات سے مستفید ہونا چاہیں تو آپ کو ایسا کرنے میں مزید سہولت ہو۔

### آیات کا ترجمہ

میں نے ان چار سو موضوعات پر محض آیات کریمہ کے انتخاب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ متن قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی دیا ہے اور کتاب کے صفحات پر یہ ترجمہ بڑی کاوش اور نفاست سے چسپاں کیا گیا ہے۔ صفحے کے ایک طرف آیات مبارکہ ہیں تو دوسری طرف ان کا ترجمہ۔ یعنی اگر آپ ان آیات کے ساتھ ان کا ترجمہ یا صرف ترجمہ ہی پڑھ کر آیات ربانی سے استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکیں۔

میں نے مضامین قرآن حکیم میں دی گئیں آیات کریمہ کا ترجمہ خود نہیں کیا۔ بلکہ یہ ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھریؒ کا ہے جو ”فتح

الحمید کے نام سے مشہور ہے اور سب سے پہلے ۱۹۰۰ء میں امرتسر میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں ”نور ہدایت“ کے نام سے جالندھر سے بھی شائع ہوا۔ پاکستان میں اس کی اشاعت کے حقوق تاج کمپنی کے پاس ہیں جس نے اس ترجمے کو بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ ممکن ہے زبان اور محاورے کے تغیر کے سبب مولانا فتح محمد جالندھری کے ترجمے میں بعض الفاظ اور ترکیبات موجودہ زمانے میں قدرے نامانوس محسوس ہوں اور اس طرح ترجمے کی روانی متاثر ہوتی نظر آئے لیکن میں نے اس ترجمے کو ترجیح دو جوہات سے دی ہے۔ پہلی یہ کہ یہ ترجمہ مستند اور معتبر ہے اور دوسری یہ کہ یہ ترجمہ اور اس کے مرتب ان مرئج امت مسلمہ کے تمام فرقوں اور طبقات کے نزدیک ایک غیر متنازعہ شخصیت ہیں۔ مولانا فتح محمد جالندھری ایک شریف النفس انسان تھے۔ وہ ایک سیدھے سادے مسلمان تھے جس طرح کہ ہم سب کو ہونا چاہئے۔ ان پر کوئی خاص چھاپ نہیں لگائی جاسکتی۔ میں نے اسی بنا پر ان کے ترجمے کو ترجیح دی ہے۔

### مضامین کے عنوانات

مضامین قرآن حکیم کے عنوانات میں سے بعض عنوانات تو ایسے ہیں مثلاً نماز، زکوٰۃ، توحید، شرک، دوزخ اور جنت وغیرہ جن کے تحت دی گئی ہر آیت اور اس کے ترجمے میں عنوان کا ذکر ملے گا یعنی اگر عنوان ”نماز“ ہے تو ہر آیت اور ہر آیت کے ترجمے میں لفظ ”نماز“ موجود ہوگا۔ لیکن بعض بعض ایسے عنوانات بھی ہیں جن کے نیچے دی گئیں آیات مبارکہ میں سے صرف ایک ہی آیت میں ذکر آئے اور باقی آیات میں وہ لفظ یا الفاظ نہ استعمال ہوئے ہوں۔ آپ یہ صورت دیکھ کر قدرے پریشان ہو سکتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے عنوان کے نیچے درج کی گئیں آیات کریمہ میں صرف ایک آیت میں تو عنوان کا ذکر ہے جب کہ باقی آیات میں عنوان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ صورت آپ کو ایسے مضامین میں نظر آئے گی جن کا عنوان آیات کریمہ کے مفہوم کو سامنے رکھ کر چنا گیا ہے۔ ایسی صورت میں آپ عنوان کی موزونیت یا ناموزونیت کے متعلق کوئی فوری رائے قائم نہ کریں بلکہ غور سے تمام آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ان مختلف آیات کریمہ کے مشترکہ مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے وہ عنوان ہی موزوں ہے۔

### فہرست مضامین

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے مضامین قرآن حکیم میں تمام قرآنی تعلیمات و ہدایات کو بڑی کاوش و عرق ریزی سے چار سو عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے اور یہ چار سو عنوانات کتاب کے شروع میں دی گئی ”فہرست مضامین“ میں حروف تہجی کے حساب سے اس طرح لکھ دیئے گئے ہیں کہ آپ کو جس مضمون کی بھی تلاش ہو فوراً مل جائے؛ تاہم بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب میں ایک مضمون جس عنوان کے تحت دیا گیا ہے قاری اسے کسی اور عنوان کے تحت تلاش کرے اور وہ مل جائے یا بعض صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب میں ایک مضمون جس عنوان کے تحت جو اس کے خیال کے مطابق اس مضمون کا ہونا چاہئے کچھ نہ ملے تو اسے قدرتی طور پر مایوسی

ہو۔ مثلاً کسی کتاب میں ایک مضمون ”جہنم“ کے عنوان کے تحت آیا ہے لیکن قاری اس مضمون کو ”دوزخ“ کے حوالے سے تلاش کر رہا ہے اور جب اسے ”د“ کی پٹی میں ”دوزخ“ کا عنوان نہیں ملتا تو اسے مایوسی ہوتی ہے مضامین قرآن حکیم میں اس مشکل کا حل بھی دے دیا گیا ہے۔ ”فہرست مضامین“ میں ہر اہم موضوع کے دو دو تین تین مترادفات دے دیئے گئے ہیں۔ مثلاً خاندانی منصوبہ بندی کے موضوع پر قرآن مجید کی آیات کا ذکر مضامین قرآن حکیم میں ”قتل اولاد“ کے عنوان کے تحت کیا گیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ اسے ”فہرست مضامین“ میں برتھ کنٹرول خاندانی منصوبہ بندی یا ضبط ولادت کے عنوان کے تحت تلاش کریں۔ لہذا کیا یہ گیا ہے کہ فہرست میں ”قتل اولاد“ کے علاوہ دوسرے ایسے تمام عنوانات بھی لکھ دیئے گئے ہیں جو اس موضوع پر قاری کے ذہن میں آ سکتے ہیں یعنی مضامین قرآن حکیم میں اس موضوع کا احاطہ تو ”قتل اولاد“ کے عنوان کے تحت ہی کیا گیا ہے لیکن فہرست میں لکھ دیا ہے: برتھ کنٹرول۔ دیکھئے قتل اولاد خاندانی منصوبہ بندی۔ دیکھئے قتل اولاد ضبط ولادت۔ دیکھئے قتل وغیرہ مقصد یہ کہ اس مضمون یا اسی طرح کے دوسرے مضامین کو آپ کسی بھی عنوانات کے تحت تلاش کریں تو آپ کو مطلوبہ موضوع ملنے میں مشکل پیش نہ آئے۔

### خلاصہ

مندرجہ بالا سطور میں مضامین قرآن حکیم کی صرف چند ایک بنیادی اور اہم خصوصیات کا مختصر سا ذکر کیا گیا ہے۔ بہر حال مضامین قرآن حکیم میں جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے میں نے کتاب میں اپنی طرف سے کوئی بحث نہیں کی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے آپ کی سہولت کی خاطر مختلف عنوانات کے تحت جمع کر دیا ہے۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ دے دیا گیا ہے۔ میرا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک عام مسلمان قرآن کا مفہوم خود سمجھ سکے اور تعلیمات قرآنی سے وہی نتیجہ اخذ کر سکے جو قرآن کا مدعا ہے۔



## اظہارِ تشکر

اللہ تعالیٰ کا:

جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھ جیسے گنہگار ناتواں کے ہاتھوں اس طرح کے عظیم کام کا پایہ تکمیل کو پہنچ جانا اس اٹل حقیقت کا ایک بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے جو کام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور پھر اس کے لئے ضروری محرکات اور وسائل بھی خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے سے کیا کام لیتے ہیں اور کسی بندے کو کسی کام کے لئے کیوں چن لیتے ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ میری انتہائی تمنا تھی (اور اب بھی ہے) کہ میں اپنے دین (اور اسی طرح ملک کے لیے بھی) کچھ کام کروں۔ بہر حال یہ مجھ گنہگار پر رب العالمین کا خصوصی انعام ہے کہ اس نے مجھ عاجز کی تمنا پوری کرنے کے کچھ سامان پیدا کر دیئے۔ گو بعض اوقات ایسے لمحات بھی آئے جب مایوسی میرے سامنے آکھڑی ہوتی اور میری ہمت پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات سے چند ہی لمحوں میں مایوسی کے پاؤں اکھڑ جاتے اور میں ویسا ہی مستعد اور کمر بستہ ہو جاتا۔ لیکن مجموعی طور پر اس سارے کام کے آغاز سے لے کر انجام تک میں نے جس دوست کو بھی مضامین قرآن حکیم کے منصوبے سے آگاہ کیا وہ ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہو گیا۔ جن جن دوستوں اور ساتھیوں نے بھی اس منصوبے میں کام کیا محض مالی منفعت کی خاطر نہ کیا بلکہ کار خیر سمجھ کر مشنری جذبے اور جوش سے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور یوں سب کے مل جل کر کام کرنے سے یہ کتاب آپ تک پہنچی۔ بہر حال میں سب سے پہلے انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے پروردگار کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے قرآن فہمی کے لیے مجھ غریب سے یہ خدمت لی اور اس طرح مجھے اطمینان قلب بخشا۔



لیکن اگر مجھے چند ایک مخلص سکالروستوں کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو اس ارادے اور منصوبہ بندی کے ہوتے ہوئے بھی ابتدائی کارروائیاں محض کارروائیاں ہی رہتیں اور بات آگے نہ بڑھ پاتی۔ میرے اس خواب کو حقیقت بنانے میں سب سے زیادہ حصہ ان سکالرحضرات ہی کا ہے۔ شروع شروع میں جب میں نے اس منصوبے پر باقاعدہ کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس سلسلے میں جتنا کچھ خود کر چکا تھا وہ دکھایا تو جن تین سکالروں نے اس منصوبے کو آگے بڑھانے میں عملی تعاون کی پیش کش کی ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

۱۔ جناب ڈاکٹر امین اللہ و شیر ڈائریکٹر جنرل وزارت مذہبی امور۔ حکومت پاکستان

۲۔ جناب ڈاکٹر خالد مسعود ریڈر ادارہ تحقیقات اسلامی۔ اسلام آباد

۳۔ جناب حافظ محمد یونس ریسرچ فیلو ادارہ تحقیقات اسلامی۔ اسلام آباد

ان تینوں دوستوں نے مضامین قرآن حکیم کی عمارت کی بنیاد اٹھائی لیکن بعد میں حافظ محمد یونس صاحب کچھ دوسری اہم ذمہ داریوں میں زیادہ مصروف ہو گئے اور سارا بوجھ ڈاکٹر امین اللہ صاحب اور ڈاکٹر خالد مسعود صاحب پر آن پڑا۔ جب عمارت کا بنیادی ڈھانچہ تیار ہونے کو آ گیا تو پھر مدد کے لیے چند اور سکالربھی میدان میں آ گئے۔ ان دوستوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

۱۔ جناب عبدالرحمن قریشی قرآن سیل وزارت مذہبی امور اسلام آباد

۲۔ جناب وصی الحسن انصاری سابق جج افسر جدہ۔ سعودی عرب

۳۔ جناب عبدالرحیم اشرف بلوچ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد

ان تین ریسرچ سکالروں کے علاوہ جناب محمد میاں صدیقی صاحب نے مضامین قرآن حکیم میں قرآن کے نزول اور کئی مدنی سورتوں وغیرہ کے متعلق دیئے گئے پچیس صفحات پر مشتمل مضمون کے لیے بنیادی مواد فراہم کرنے میں مدد دی۔ میں ان سب ریسرچ سکالروں اور خاص طور پر اپنے عزیز دوستوں جناب ڈاکٹر امین اللہ و شیر صاحب اور جناب ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امر کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان مخلص ساتھیوں کے تعاون کے بغیر یہ کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچ پاتا۔

## کچھ اس ایڈیشن کے بارے میں

میں اعتراف ندامت کرنا چاہوں گا کہ میں نے 1980ء کی دہائی کے آغاز میں قرآن مجید کو عام کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اس پر کما حقہ عمل درآمد کرنے میں قدرے کوتاہی کا مرتکب ہوا ہوں۔ بے شک "مضامین قرآن حکیم" جسے اس دور میں "ایک حیرت انگیز کارنامہ" قرار دیا گیا تھا مرتب کرنے کے بعد میں نے مضامین احادیث نبوی مرتب کی اور پھر مضامین قرآن حکیم انگریزی ترجمہ (Subjects of Quran) بھی شائع کیا جو کہ ایک بہت بڑا اور محنت طلب کام تھا۔ علاوہ ازیں ادیبوں اور شاعروں کو قرآن حکیم کے قریب لانے کیلئے ایک مختصر سی کتاب "قرآن اور ادیب" بھی لکھی لیکن میں جس بڑے پیمانے پر قرآن کی تعلیمات کو اہل اور عام فہم انداز میں عام پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا اور اسکے مختلف زبانوں میں تراجم شائع کرنا چاہتا تھا، اسے جاری نہ رکھ سکا۔ دراصل میرا زیادہ وقت صحافت کی نذر ہوتا گیا۔ تاہم میں یہ محسوس کرتا ہوں اور اپنے معزز قارئین کرام کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمد للہ میری صحافت کا بھی اور میری تمام فکر اور سوچ کا محور اور مرکز قرآن حکیم ہی ہے۔

دریں اثنا پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی بعض ناشران کتب مضامین قرآن حکیم کے درجنوں ایڈیشن میری اجازت کے بغیر شائع کرتے رہے اور بلا مبالغہ کتاب اب تک لاکھوں کے حساب سے شائع ہو چکی ہے میں ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہ کرتا تھا اس لئے کہ وہ بھی قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ یوں "مضامین قرآن حکیم" کو غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوتی گئی۔ گذشتہ چند برسوں میں مجھے تین چار مرتبہ بھارت جانا پڑا تو میں نے دہلی کی ہرنندہ ہی کتب فروخت کرنے والی دکان میں مضامین قرآن حکیم کی کاپیاں دیکھیں۔ پاکستانی والدین بیرون ملک مقیم اپنے بچوں کو اس کتاب کا تحفہ ارسال کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو جہیز میں اس کا خوبصورت جہیز ایڈیشن دیتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ کائنات کے خالق و مالک نے مجھ جیسے سمبھلے سے قرآن کی جو خدمت لی ہے وہ حریدہ شرا اور ہوتی گئی۔

اب کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کی تعلیمات کو منظم طریقے سے عام کرنے کے پھر سامان پیدا کر دیئے ہیں۔ میں بن قلم انٹرنیشنل جو مختلف رفاہی اور تجارتی سرگرمیوں میں معروف ہے کے روح رواں جناب محمد بشیر ملک کا اہل ممنون ہوں کہ انہوں نے مضامین قرآن حکیم کے نہ صرف اردو اور انگریزی تراجم کو از سر نو بہتر انداز میں شائع کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے بلکہ وہ دنیا کے کئی ایک ممالک میں اپنے رابطوں کی بنا پر اسے دیگر زبانوں میں بھی شائع کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جناب محمد بشیر ملک ایک پر خلوص اور نیک نیت شخصیت ہیں اور وہ واقعی قرآنی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کا مشن رکھتے ہیں۔ انکی از خود میرے پاس تشریح اور کام ربی ہے۔ نئی کمپوزنگ اور خوبصورت طباعت لئے ہوئے یہ ایڈیشن بن قلم

انٹرنیشنل کی قرآن اور مضامین قرآن حکیم میں گہری دلچسپی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد بشیر ملک صاحب کو جزائے خیر دے اور قرآن کی تعلیمات کو وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت میں ان کی دلچسپی کو قبول فرمائے۔

اسی طرح میں جناب محمد صبغۃ اللہ راشد کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی سے اور شب و روز کی محنت سے اس ایڈیشن کی اشاعت کا اہتمام کیا۔

”مضامین قرآن حکیم“ میں نئے نئے موضوعات کا احاطہ کیا جانا ضروری تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ آج سے ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والے حالات و مسائل اور واقعات کے حوالے سے جو نئے موضوعات سامنے آئیں گے اور اُس وقت ذہنوں میں جو سوالات اُنھیں گے ان کا بھی قرآن کے صفحات میں جواب موجود ہوگا۔ اس لئے کہ جس ذات پاک نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے اپنی آخری کتاب ہدایت نازل کی زمانہ اسی کی منشاء سے کروٹ لے گا بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے اس لئے اس میں ہر آنے والے دور کے مسائل کے حوالے سے راہنمائی ہوگی مثلاً جب میں نے آج سے 28 برس قبل ”مضامین قرآن حکیم“ مرتب کی تھی اس وقت ”دہشت گردی“ کا عنوان میرے سامنے نہیں تھا۔ آج یہ موضوع دنیا بھر میں سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ قرآن اس حوالے سے بھی جواب دیتا ہے۔ (دیکھئے سورۃ الحج آیت نمبر ۷۸ العنکبوت آیت نمبر ۶ سورۃ التحریم آیت نمبر ۹ سورۃ الرعد آیت نمبر ۲۵ سورۃ الروم آیت نمبر ۴۱ سورۃ المائدہ آیت نمبر ۳۲) شاید اسی ایک نئے دلخراش موضوع کی وجہ سے ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے علاوہ اب غیر مسلم بھی اسلام میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ غیر مسلم اس لئے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا دین ہے جسکے ماننے والے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ”مضامین قرآن حکیم“ کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں مسلمانوں کی دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم احيائے دین کے ایک نئے دور میں داخل ہونے والے ہیں۔

اے رب کریم۔ لوگوں نے قرآن پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔

زاہد ملک

## عرضِ ناشر

میں ایک دن اپنی بیٹی مسز اقصیٰ توقیر (طالبہ تفسیر قرآن مجید) کے کمرے میں گیا۔ نظر اس کی کتابوں کی شلف پر پڑی۔ ان میں زاہد ملک صاحب کا مرتب کردہ مضامین قرآن حکیم کا نسخہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کتاب آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ میری پروفیسر نے اس کتاب کے بارے میں مجھے تلقین کی تھی چنانچہ میں نے یہ کتاب خرید لی۔

بیٹی سے گفتگو کے بعد میں نے اسے بغور پڑھا اور پسند کیا۔ حسن ترتیب انوکھی چیز تھی۔ یہ نادر کتاب میرے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھی۔ دل نے گواہی دی کہ کتاب کو طبع کروا کے دنیا کی زبانوں میں پھیلا یا جائے۔ میں اس جستجو میں لگ گیا کہ اس کی طباعت کے جملہ حقوق کیسے حاصل کئے جائیں۔ میرے پاس موجود کتاب پرائیڈریس دہلی کا تھا۔ میں نے اس پتہ پر رابطہ کیا، وہاں سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب پاکستان کے سکا لرجناب زاہد ملک کی مرتب کردہ ہے۔ ان سے رابطہ کیجئے۔ انتہائی کوشش کے بعد ملک صاحب سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کمال محبت سے اجازت مرحمت فرمادی۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اس کتاب کے انگلش ایڈیشن (Subjects of Quran) اور اسی طرح کی دنیا کی دیگر تمام زبانوں (مثلاً فرانسیسی، جرمن، چائینز، جاپانی وغیرہ) کے اپنے زیر ترتیب ایڈیشنوں کی اشاعت کے حقوق بھی عطا فرمادیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اس کتاب کی اشاعت سے میرا مقصد کوئی کاروبار نہیں، اس کی آمدنی "بیگم نور میموریل ہسپتال چکوال (جو کہ بن قطب فاؤنڈیشن (پاکستان) کا پراجیکٹ ہے) کے لیے وقف ہوگی۔ میں کلام اللہ کو دنیا کی زبانوں میں پھیلا نا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اس کاوش میں کامیاب فرمائے۔ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کی دعاؤں اور تعاون کا طلب گار ہوں۔ میری اس کوشش میں اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو۔ آمین!

محمد بشیر ملک

بانی اور وائس چیرمین

بن قطب فاؤنڈیشن (پاکستان)

E-mail: bashir.malik@binqutab.com  
www.binqutabfoundation.com

# فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
				<b>الف</b>	
82	احسان جتنا	14			
	دیکھئے: احوال قیامت	15	73	انتظار آزمائش	1
82	احوال قیامت	16		حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھئے: انبیاء کے نام	2
	دیکھئے: دنیا و آخرت	17		ابلیس دیکھئے: شیطان	3
89	اخلاق	18		دیکھئے: آخر کفر	4
95	اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	19		دیکھئے: اطاعت رسول	5
	دیکھئے: بھائی چارہ	20	77		6
	دیکھئے: حسن سلوک	21		دیکھئے: اتحاد	7
	دیکھئے: قرآن	22		دیکھئے: سیر و سیاحت	8
96	آداب گفتگو	23	79		9
96	آداب مجلس	24		دیکھئے: فلکیات	10
	حضرت ادریس علیہ السلام دیکھئے: انبیاء کے نام	25		دیکھئے: موت	11
	دیکھئے: انبیاء کے نام	26		دیکھئے: حج و عمرہ	12
	دیکھئے: قرض	27	81		13

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
	دیکھئے: جنگی قیدی	47	97	اذان	28
	دیکھئے: مقام انسانیت	48		دیکھئے: آمر کفر	29
111	دیکھئے: سبت	49	97	ارتکاز دولت	30
	دیکھئے: سبت	50	98	آزادی فکر و مذہب	31
112		51		دیکھئے: ظلم	32
114		52	98	استعانت	33
	دیکھئے: تعمیر و تبدل	53		دیکھئے: توبہ	34
	دیکھئے: اللہ اور رسول کی اطاعت	54	99	استقامت	35
				دیکھئے: انبیاء کے نام	36
115		55		دیکھئے: معراج	37
116		56	100	دیکھئے: انسان اللہ کا نائب ہے	38
	دیکھئے: ذکر الہی	57		دیکھئے: اصول حکمرانی، اقتدار	
119		58		دیکھئے: اطاعت میر ہار المبروف	
	دیکھئے: قرآن کا اعجاز	59		دیکھئے: چوری۔ حدود۔ دیت	39
119		60		دیکھئے: ذمیت۔ زنا۔ شراب	
121		61		دیکھئے: قصاص۔ گواہی۔ قسم افحانہ	
122		62		دیکھئے: امت مسلمہ	40
123		63		دیکھئے: بیع۔ تجارت۔ سود۔	41
	دیکھئے: فراخی اور تنگی	64		دیکھئے: زکوٰۃ عشر بدین قرض	
124		65		دیکھئے: انبیاء کے نام	42
	دیکھئے: صلوٰۃ	66	101	اسماء و صفات باری تعالیٰ	43
124		67	107	آسمان	44
126		68	109	آسمانی کتابیں	45
127		69		دیکھئے: سیرت نبویؐ	46

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
70	الزام تراشی	دیکھئے: بہتان	93	امثال قرآن	158
71	اللہ اور رسول کی اطاعت		94	امر بالمعروف ونہی عن المنکر	165
72	اللہ اور رسول کی نافرمانی		95	امن وسلامتی	167
73	اللہ سے محبت	دیکھئے: حب الہی	96	امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن	169
74	اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا		97	آمی	131
75	اللہ کی حاکمیت			دیکھئے: سیرت نبوی۔	
76	اللہ کی مہلت			معجزات رسول	
77	اللہ کی نشانیاں		98	انبیاء کے نام	172
78	اللہ کی نعمتیں		99	انتہاء	
79	اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا			دیکھئے: صحیحہ	
80	اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے		100	انتقام	184
81	اللہ مومنوں کا دوست ہے		101	انجیل	184
82	اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے		102	انسان	186
83	اللہ والوں کی پہچان	دیکھئے: مومنوں اور مشفقوں کی صفات	103	انسان اللہ کا نائب ہے	189
84	الہامی کتابیں	دیکھئے: آسمانی کتابیں	104	انصار مدینہ	190
85	حضرت الیاس علیہ السلام	دیکھئے: انبیاء کے نام	105	انصاف الہی کے اصول	191
86	حضرت الیسع علیہ السلام	دیکھئے: انبیاء کے نام	106	انعام الہی	
87	امام		107	انقلاب	194
88	امامت		108	انکسار	
89	امت		109	اولاد	195
90	امتحان	دیکھئے: ابتلاء آزمائش	110	اولیاء اللہ	197
91	امت مسلمہ		111	اوپہام جاہلیت	198
92	امت وسطہ	دیکھئے: امت مسلمہ	112	اہل بیت	200
			113	اہل کتاب	201
			114	آئینہ کفر	203

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
115	آیاتِ الہی		137	بدگمانی	221
116	ایامِ اللہ	206	138	بدلہ	دیکھئے: انتقام۔ جزا
117	ایفائے عہد	207	139	بدو	222
118	ایلاء		140	بدی	224
119	ایمان	207	141	بد	دیکھئے: نیکی
120	حضرت ایوب علیہ السلام	دیکھئے: انبیاء کے نام	142	برتھ کنٹرول	دیکھئے: نقل اولاد
<b>ب</b>					
121	بادل	210	143	بزحایا	226
122	بارش	212	144	بُرج	227
123	باطل	دیکھئے: حق و باطل	145	برزخ	227
124	باغ	213	146	برق	دیکھئے: بجلی
125	بانجھ پن	214	147	برکت	228
126	باکس بازو والے	دیکھئے: دائیں بازو والے	148	بُردی عادت	229
127	بت پرستی	215	149	بزدلی	231
128	بتوں کے نام	217	150	بشارت	232
129	بجلی	218	151	بشر	234
130	بچپن	219	152	بعثت	دیکھئے: رسالتِ نبویؐ
131	بُخُل	دیکھئے: کنبھوی	153	بغارت و سرکشی	235
132	بددیانتی	دیکھئے: خیانت	154	بلا تحقیق باتیں	دیکھئے: بدگمانی
133	بدظنی	دیکھئے: بدگمانی	155	بنی آدم	دیکھئے: انسان
134	بدعت	219	156	بنیادی حقوق	دیکھئے: آزادیِ فکر و مذہب
135	بدکاری	220	157	بنی اسرائیل	دیکھئے: قوموں کا ذکر
136	بدکلامی	دیکھئے: آدابِ گفتگو	158	بنی نوع انسان	دیکھئے: انسان
			159	بھائی چارہ	236



صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
	ت		237		160
255	دیکھئے: قوموں کے نام	180 تاریخی		دیکھئے: جنت	161 بہشت
256	دیکھئے: روٹھیٹ	181 تیج		دیکھئے: کعبہ	162 بیت اللہ
259		182 تبلیغ		دیکھئے: مسجد الاقصیٰ	163 بیت المقدس
261	دیکھئے: قبلہ	183 مٹھیٹ		دیکھئے: فاشی	164 بے حیائی
262		184 تجارت	239		165 بیچ
264		185 تحریف	241		166 بیست
		186 تحویل قبلہ	242		167 بین الاقوامی تعلقات
		187 تخلیق انسان		دیکھئے: نکاح	168 بیواؤں کا نکاح
		188 تخلیق کائنات		دیکھئے: میاں بیوی کے حقوق	169 بیوی کے حقوق
	دیکھئے: غور و فکر	189 تدبیر	243		170 بے ہودہ لٹریچر
	دیکھئے: رہبانیت	190 ترک دنیا			
	دیکھئے: وراثت	191 ترکہ			
268		192 تزکیہ نفس	244		171 پاک دائمی
269		193 تسبیح		دیکھئے: طہارت	172 پاکیزگی
271		194 تفسیر کائنات	245		173 پانی
	دیکھئے: امثال قرآن	195 تشبیہات قرآن	248		174 پردہ
273		196 تعدد ازواج	249		175 پرندے
273		197 تعلیم			
274		198 تعمیر و تبدل	251		176 پرہیزگاری
	دیکھئے: دین میں فرقہ بندی	199 تفرقہ	252	دیکھئے: تقویٰ	177 پہاڑوں کے نام
	دیکھئے: غور و فکر	200 تفکر	253		178 پہلوں کے نام
					179 پیغمبر کا ادب و احترام

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
	دیکھئے: قوموں کے نام	219	275	تقدیر	201
	دیکھئے: تسبیح-ہر	220	277	تقویٰ	202
298		221	280	تقویم	203
	<b>ج</b>		281	تکبیر	204
	دیکھئے: سحر	222	283	تلاوت	205
	دیکھئے: آئمہ کفر	223		تثانیات قرآن	206
299		224		دیکھئے: امثال قرآن	
302		225		دیکھئے: مذاق اڑانا	207
	دیکھئے: سعی	226	284	تسمیہ	208
304		227	285	توبہ	209
305		228	288	توحید	210
306		229	292	تورات	211
307		230	294	توکل	212
309		231		دیکھئے: ادبام جاہلیت	213
309		232	295	تہجد	214
311		233		دیکھئے: بہتان	215
315		234	297	تہم	216
317		235		<b>ٹ</b>	
318		236		دیکھئے: زکوٰۃ-عشر-	217
319		237		مال نسیئت (نفس)	
	دیکھئے: طوفان لوح	238		<b>ث</b>	
320		239		دیکھئے: استقامت	218
				غابت قدی	

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
346		258 حد	321		240 مجاز پھونک
347		259 حسن سلوک	322		241 جہالت
351		260 حسن و جمال	323		242 جہنم
352		261 حسن و جمالِ نفرت	330		243 جھوٹ
	دیکھئے: احوال قیامت	262 حشر و نشر	<b>چ</b>		
	دیکھئے: طہارت	263 حفظِ صحت	330		244 چاند
	دیکھئے: کسمان حق	264 حق کو چھپانا		دیکھئے: نسیبیت	245 چغل خوری
353		265 حق و باطل	332		246 چوری
	دیکھئے: میاں بیوی کے حقوق	266 حقوق زوجین	333		247 چوٹی
356		267 حقوق العباد	<b>ح</b>		
	دیکھئے: دانائی	268 حکمت	334		248 حب
	دیکھئے: اقدار	269 حکومت		دیکھئے: اطاعت رسول	249 حب رسول
358		270 طلال		دیکھئے: پردہ	250 حجاب
362		271 حجر	335		251 حج و عمرہ
	دیکھئے: جنت	272 حوریں	338		252 حدود
364		273 حیات بعد الموت	341		253 حدیث
367		274 حیض		دیکھئے: ذمہ داری	254 حایہ
<b>خ</b>					255 حرام
	دیکھئے: ملازمین	275 خادم	342		256 حرم
367		276 خاندان اور اس کے حقوق	344		257 حسب و نسب
	دیکھئے: ضبط و ولادت	277 خاندانی منصوبہ بندی	345		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	و			خاوند کے حقوق و فرائض دیکھئے: میاں بیوی کے حقوق و فرائض	278
387		299	370	ضمیث و طیب	279
388		300	371	ختم نبوت	280
	حضرت داؤد علیہ السلام دیکھئے: انبیاء کے نام	301		خرید و فروخت دیکھئے: بیع	281
388		302	371	خشیت الہی	282
390		303	374	حضرت خضر	283
390		304		خلافت دیکھئے: انسان اللہ کا نائب ہے۔	284
391		305	376	خلع	285
	دیکھئے: کوڑوں کو سزا	306		قمر دیکھئے: شراب	286
393		307		شمس دیکھئے: مال قیمت	287
395		308	377	خواب دیکھنا	288
397		309	379	خواتین کا ذکر	289
400		310	380	خواب پرستی	290
	دیکھئے: جہنم	311	382	خودکشی	291
400		312	382	خوشبو	292
403		313		خوشخبری دیکھئے: بشارت	293
	دیکھئے: الجاہل	314		خوف خدا دیکھئے: تقویٰ	294
404		315		خون بہا دیکھئے: دیت	295
	دیکھئے: امانت	316	383	خیانت	296
404		317	384	خیرات	297
405		318		خیر و شر دیکھئے: نیکی بدی	298
406		319			

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
428		رسالت محمدیؐ 336	411		دین فردوسی 320
431		رسالت انبوت 337			دین میں جبر و کراہتیں دیکھئے: آزادی فکر و مذہب 321
434		رشتہ دار 338	413		دین میں فرقہ بندی 322
436		رشوت 339			
436		رضاع و نفقہ 340			
437		رضاع الہی 341			
438		رمضان 342	414		ڈاکر زنی دیکھئے: ڈکیتی 323
439		روح 343			
	دیکھئے: روح القدس	روح الامین 344	414		ذبح 325
440		روح القدس 345	415		ذکر الہی 326
441		روزہ 346	417		ذوالقرنین 327
	دیکھئے: رزق	روزی 347			
	دیکھئے: نور	روشنی 348			حضرت ذوالکفل علیہ السلام دیکھئے: انبیاء کے نام 328
	دیکھئے: دیدار الہی	رویت باری 349			
445		رہبانیت 350	419		رات اور دن 329
446		رہن 351			
446		ریا 352			ریوا دیکھئے: سود 330
					رجوع الی اللہ دیکھئے: توبہ 331
			421		رحمت 332
447		زبور 353	423		رد عملیت 333
447		زراعت 354	425		رد شرک 334
	دیکھئے: ارتکاز دولت	زر پرستی 355	427		رزق 335
	دیکھئے: انبیاء کے نام	حضرت زکریا علیہ السلام دیکھئے: انبیاء کے نام 356			



صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
	دیکھئے: شعائر اللہ	418 صفا و مردہ	482	شفا	397
	دیکھئے: طہارت	419 صفائی	483	شفاعت	398
506		420 صلح	483	شق القمر	399
	دیکھئے: امن و سلامتی	421 صلح جوئی	484	شکار	400
507		422 صلوات	484	شکر	401
513		423 صلہ رحمی	486	شوری	402
514		424 صور اسرافیل	487	شہاب ثاقب	403
	دیکھئے: روزہ	425 صوم	488	شہادت	404
	<b>ض</b>		490	شہد	405
	دیکھئے: قتل اولاد	426 ضبط و ولادت		شہید	406
	دیکھئے: نفس	427 ضمیر	491	شیاطین	407
	<b>ط</b>		492	شیطان	408
				<b>ص</b>	
515		428 طاغوت	495	صابی	409
517		429 حضرت طاہوت		حضرت صالح	410
519		430 طعام اہل کتاب	496	صبح و شام	411
519		431 طلاق	496	صبر	412
	دیکھئے: حرص	432 طمع	498	صحابہ کرام کا ذکر	413
	دیکھئے: حج و عمرہ	433 طواف		صحیفہ	414
	دیکھئے: پہاڑوں کے نام	434 طور		صدق	415
524		435 طوفان نوح	502	صدقات	416
526		436 طہارت	505	صراط مستقیم	417

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
				<b>ظ</b>	
	دیکھئے: پاک دامنی	457 عصمت			437 ظلم
	دیکھئے: پاک دامنی	458 عفت	527		438 ظلمت
545		459 حوالہ الہی		دیکھئے: تاریکی	439 ظن
546		460 غفور و کریم		دیکھئے: بدگمانی	440 ظہار
548		461 عقل	527		
549		462 علم		<b>ع</b>	
550		463 علم فریب		دیکھئے: قوموں کے نام	441 عاد
	دیکھئے: حج و عمرہ	464 عمرہ	528		442 عبادت
552		465 عمل	529		443 عبرت
	دیکھئے: عمل	466 عمل صالح	530		444 بجز و انکسار
554		467 عورت		دیکھئے: دشمنی	445 عداوت
	دیکھئے: خلع	468 عورت کا حق طلاق	531		446 عدت
556		469 عورت سے حسن سلوک	533		447 عدل
	دیکھئے: ایفائے عہد	470 عہد کی پابندی	534		448 عدل و انصاف
	دیکھئے: بری عادت	471 عیب جوئی	535		449 عذاب الہی
	دیکھئے: انبیاء کے نام	472 حضرت عیسیٰ		دیکھئے: برون	450 عذاب قبر
	<b>غ</b>		538		451 عرش
	دیکھئے: تکبر	473 غرور		دیکھئے: شعائر اللہ	452 عرفات
557		474 غزوات	539		453 عزت و دولت
568		475 غسل	543		454 عزت و ذلت
568		476 غصہ		دیکھئے: انبیاء کے نام	455 حضرت عزیز
569		477 غفلت	544		456 عشر



نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
478	غلامی	570	500	نہم و فراست دیکھئے: فور ونگر	
479	غلامان		501	نے	589
480	غور ونگر	571			
481	غیب		502	قارون دیکھئے: آئہ کفر	
482	غیبت	572	503	قانون شہادت دیکھئے: گواہی	
			504	قانون میراث دیکھئے: وراثت	
			505	قانون نکاح و طلاق دیکھئے: طلاق۔ نکاح	
483	غجر	573	506	قبائل دیکھئے: قوموں کا ذکر	
484	غسق		507	قبر	590
485	غصہ	574	508	قبلہ	591
486	غصہ		509	قتل	592
487	غشاش	574	510	قتل اولاد	594
488	غفر		511	قرأت دیکھئے: تلاوت	
489	غزالی ونگلی	575	512	قرآن	594
490	غزٹے	576	513	قرآن اور سائنس	599
491	غزومون	579	514	قرآن کا اعجاز	607
492	غریب		515	قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج	608
493	فساد	582	516	قرآن کی لاشن گوئیاں	609
494	فسق	583	517	قرآنی دعائیں	611
495	فطرت	586	518	قربانی	615
496	فقر		519	قرض	616
497	فقد	586	520	قریش دیکھئے: قوموں کا ذکر	
498	فلاح		521	قسم اشخاص	619
499	فکلیات	587			

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
657	کن عورتوں سے نکاح جائز ہے	544	621	قصاص	522
	دیکھئے: پرندے	545		تھاوتدر	523
658	کوزوں کی سزا	546	623	قلب	524
	دیکھئے: سہی	547	624	قلم	525
	دیکھئے: تقویم	548		قمار بازی	526
	گ			دیکھئے: جو	
				دیکھئے: توکل	527
658	گالی گلوچ	549	624	توسوں کا ذکر	528
659	گداگری	550	626	توسوں کا عروج و زوال	529
	دیکھئے: رہیں	551		ک	
660	گناہ	552	627	کافروں کی بیروی	530
661	گناہ کبیرہ	553	628	کافروں کی سرکشی	531
662	گواہی	554	632	کامیاب لوگ	532
665	گمر	555	634	کائنات	533
	ل		636	کستان حق	534
666	لباس	556	637	کرانا کاتبین	535
668	لعان	557	638	کسب و اختیار	536
669	لعنت	558	640	کعبہ	537
671	لقمان	559	641	کنارے جنگ	538
671	لوح محفوظ	560	645	کنارہ شریکین	539
	دیکھئے: انبیاء کے نام	561	651	کمر	540
	دیکھئے: رحمتیں	562	652	کلچر	541
672	لہو و لہب	563	654	کنجوسی	542
	دیکھئے: امام	564	656	کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں	543

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
693	مساوات کا تصور	587	673	لیڈر اور عوام	565
694	مسجد الحرام	588	675	لیلت القدر	567
697	مسجد الاقصیٰ	589	م		
697	مسجد قبا	590	676	مال غنیمت	567
698	مسکین	591	677	مہابہ	568
699	مسلمانوں کے باہمی تعلقات	592	678	متحلی	569
700	مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات	593	679	مٹی گارا	570
701	مسح	594		مجلس کے آداب	571
	مشرکین	595		دیکھئے: آداب مجلس	
	مشورہ	596	680	مجلس کے آداب	572
	مشیت ایزدی	597	680	مجلس	573
703	معاشرتی درجہ بندی	598		مجلس	574
706	معجزات انبیاء	599		دیکھئے: احسان	
708	معجزات رسول اکرم ﷺ	600	681	مجلس	575
719	معراج	601		حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ	576
721	معصیت	602	682	دیکھئے: انبیاء کے نام	
	دیکھئے: بغاوت و سرکشی			مدینہ منورہ	577
	اللہ اور رسول کی نافرمانی		683	مناق اڑانا	578
722	مغفرت	603		مدہب	579
723	مقام انسانیت	604	684	دیکھئے: دین	
725	مکر و فریب	605	685	مدہب پیشوا	580
727	مکہ مکرمہ	606	687	مدہب تعصب	581
728	ملازمین	607	688	مرد	582
729	ملائکہ	608		مرد و زن کی درجات میں برابری	583
	دیکھئے: فرشتے			مریم	584
	ملکہ سبا	609	690	دیکھئے: خواتین کا ذکر	
			692	ساجد	585
				مسافر	586

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
760		632	732		610
	دیکھئے: بغاوت و سرکشی	633	737		611
762		634	738		612
764		635		دیکھئے: خطبہ	613
	دیکھئے: رسالت و نبوت	636	738		614
	دیکھئے: معفرت	637		دیکھئے: حیات بعد الموت	615
765		638		دیکھئے: انبیاء کے نام	616
	دیکھئے: لیلۃ القدر	639	741		617
	دیکھئے: بتوں کے نام	640	743		618
766		641		دیکھئے: ہجرت	619
	دیکھئے: یہود و نصاریٰ	642	749		620
766		643	750		621
767		644	751		622
	دیکھئے: خواہش پرستی	645	752		623
768		646	753		624
	دیکھئے: صلوة	647	754		625
	دیکھئے: ریا	648		دیکھئے: صلوة	626
771		649		دیکھئے: ناپ تول	627
772		650		<b>ن</b>	
774		651	756		628
	دیکھئے: انبیاء کے نام	652	757		629
			758		630
			759		631
	دیکھئے: دراشت	653			

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
787		669	775	والدین کے حقوق	654
790		670	777	وحدت نسل انسانی	655
790		671	777	وحی	656
	دیکھئے: انبیاء کے نام	672		دیکھئے: بتوں کے نام	657
			779		658
			781		659
792		674	782		660
793		675	783		661
	دیکھئے: انبیاء کے نام	676		دیکھئے: ایقائے عہد	662
	دیکھئے: انبیاء کے نام	677		دیکھئے: اولیاء اللہ	663
	دیکھئے: انبیاء کے نام	678			
	دیکھئے: انبیاء کے نام	679	784		664
	دیکھئے: انبیاء کے نام	680		دیکھئے: انبیاء کے نام	665
	دیکھئے: انبیاء کے نام	681		دیکھئے: آئمہ کفر	666
797		682	785		667
				دیکھئے: پرندے	668

## قرآن کی عظمت و اہمیت

تخلیق کائنات کے ابتدائی مرحلے سے لے کر انسان کی پیدائش تک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا وہ انسان کی فلاح و بہبود اور نفع رسانی کے لیے پیدا کیا، پھر انسان کو بے شمار ظاہری اور باطنی جسمانی و روحانی نعمتیں عطا کیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام و اکرام، رشد و ہدایت کا وہ نظام ہے جو رسولوں کی بعثت اور آسمانی صحیفوں کے ذریعے قائم کیا کیونکہ اگر پیغمبروں اور آسمانی صحیفوں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کا انتظام نہ کیا جاتا تو یہی انسان جو آج اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر اور گم کردہ راہ ہوتا۔ چنانچہ جن لوگوں نے خدا کے پیغام کو سننے سے انکار کیا، اس کے رسولوں کی دعوت سے منہ موڑا اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے رُوگردانی کی، قرآن ان کو جانوروں اور چوپایوں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے:

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا لَهُمُ الرِّسَالَٰةَ ۗ (الاعراف ۱۷۹)

یہ لوگ (منکر بہن ہدایت) چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔

جب اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہوا کہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے، کائنات کی رہنمائی اور فلاح و سعادت کے لیے ایک ایسا صحیفہ نازل کرے جو رہتی دنیا تک رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتا رہے، جو ابد تک کے لئے روشنی کا مینار ہو، جس سے آنے والی قومیں رہ نمائی حاصل کرتی رہیں، جس کا پیغام اور جس کی رہنمائی قوم و وطن، جغرافیہ، حتیٰ کہ زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہو، تو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین و دنیا کی فلاح و سعادت اور رشد و ہدایت کا ایک جامع اور کامل ترین دستور نازل کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے علمی اور عملی کمالات اور فضائل و محاسن کا مجموعہ بنایا اور کمالات نبوت کو آپ کی ذات پر ختم کر کے ”خاتم الانبیاء“ کے منصب پر فائز کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس دستور ہدایت

اور آئین فلاح و سعادت کو تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور الہی علوم و معارف کا خلاصہ لب لباب اور سنج گراں مایہ بنایا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (نہی اسرائیل ۹)

بلاشبہ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی نشان دہی کرتا ہے۔

نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، سب اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کے لئے آئے، ان کی نبوت و رسالت کسی خاص قوم اور خاص علاقے تک محدود تھی، ان کو جو آسمانی صحیفے دیئے گئے وہ بھی مخصوص اور محدود علوم کے حامل تھے، ان میں یہ استعداد اور صلاحیت ہرگز نہ تھی کہ وہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی وسعتوں میں بسنے والی مختلف نسلوں اور قوموں کو ایک مرکز پر جمع کر سکیں، ان صحیفوں کا پیغام زمان و مکان کی حدوں سے ماوراء نہ تھا، ان صحیفوں کے ذریعے ممکن نہ تھا کہ مختلف عقیدے رکھنے والی قوموں، مختلف زبانیں بولنے والے قبیلوں اور نوع بنوع بلکہ متضاد رسم و رواج کے حامل لوگوں کو ایک عقیدے اور ایک مسلک کا قائل کیا جائے۔ مگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فہرست انبیاء ختم کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عالم گیر اور دائمی نمونہ عمل کا مقام عطا کیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی کتاب کو بھی اسی شان اور بلند مرتبہ سے نوازا گیا۔ اس میں تمام الہی علوم کو جمع کیا گیا، اس کو ایک جامع اور ابدی دستور حیات کی حیثیت دی گئی تاکہ ہر دور اور ہر علاقے کے لوگ ہر زمانے میں اس کے ذریعے دین و دنیا کی فلاح اور سعادتیں حاصل کرتے رہیں۔ افراد انسانی اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کی اصلاح کرتے رہیں اور انسانیت اس پر عمل پیرا ہو کر اخلاق و کردار کی بلندیوں کو چھو سکے۔

اس میں انفرادی مشکلات و مصائب کا حل بھی ہے اور اجتماعی مسائل کا بھی، کوئی پہلو ایسا نہیں، چاہے وہ معاش و اقتصاد سے متعلق ہو یا اصلاح معاشرہ سے، یا اس کا تعلق امور مملکت سے ہو جس کے لیے اس کتاب ہدایت (قرآن) میں کامل رہنمائی موجود نہ ہو۔ مشہور اور بلند پایہ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ:

”تمام آسمانی صحیفوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لانا تمام آسمانی صحیفوں پر ایمان لانے کے مترادف ہے“

اور قرآن کا انکار تمام الہامی کتابوں کا انکار ہے۔“ (۱)

اللہ کے اس آخری اور ابدی دستور اور کامل ترین کتاب ہدایت کے بارے میں خود اس کا نازل کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اس کا جاننا بہت ضروری ہے، متکلم سے بہتر اپنے کلام کی مراد اور مفہوم کون بیان کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ سچے تلے انداز میں اس کے رتبے

(۱) مقدمہ تفسیر کبیر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ

کا تعین کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کے کلام پر اللہ کی جو شہادتیں ہمارے سامنے ہیں ہم ان پر جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا ہی ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی جائے گی ”ما فرطنا فی الکتاب من شیء“ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑا۔  
اپنی کتاب اور کلام کے بارے میں اللہ کی پہلی شہادت یہ ہے:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرہ)

یہی کتاب حقیقت میں کتاب ہے۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔

یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے، یہ تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں کے متفرق و منتشر علوم اور مضامین کی جامع ہے اسی باعث اس کی پیروی تمام آسمانی کتابوں اور حکموں کی پیروی ہے۔

کہیں قرآن کے داعی حق و صداقت اور کتاب رشد و ہدایت ہونے کی گواہی ان الفاظ میں دی گئی:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا ۗ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا (سورہ کہف آیت: ۲۱)

”تمام خوبیاں اس پروردگار کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے بندے (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر کتاب نازل فرمائی اس میں ذرہ برابر کجی نہیں رکھی۔ نہایت ہی استقامت اور سیدھے پن کے ساتھ موصوف کیا، تاکہ وہ ایسے سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا اور ان ایمان لانے والوں کے لئے خوشخبری سنائے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہت ہی نیک اجر ہے۔“ (کہف: ۲۱)

یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف اور شکر کا مستحق وہی خدا ہو سکتا ہے جس نے اپنے مخصوص اور مقرب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے کامل اور اعلیٰ کتاب اتاری اور اس کے ذریعے زمین والوں کو سب سے بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بے شک اس کتاب میں کوئی میڑھی ترچھی بات نہیں۔ اس کی عبارت دیکھو تو فصاحت و بلاغت کا مرقع، انداز بیان مؤثر اور گلگفتہ جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تعلیم ایسی سادہ اور معتدل جو ہر زمانے اور ہر طبیعت کے مناسب، حکم ایسے سچے تھے کہ عقل سلیم کے مطابق، جن پر عمل کسی کے لیے بھی دشوار نہیں، غرض ہر طرح کی افراط و تفریط سے پاک۔

ایک مقام پر پوری بنی نوع انسان کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (سورہ بقرہ: ۱۰۵)

(اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور شفا دلوں کے روگ کی، اور ہدایت و رحمت ہے مسلمانوں کے لیے)

یہ سب قرآن کریم کی صفات ہیں۔ قرآن اول سے آخر تک نصیحت ہے، جو لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے روکتا ہے، اللہ کی



خوشنودی اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے اپنے ماننے والوں کو دین و دنیا کی رحمتوں کا مستحق گردانتا ہے۔ مفسرین اور صوفیہ اس آیت کی روح یہ قرار دیتے ہیں کہ اس میں نفس انسانی کے مراتب کمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو شخص قرآن کے منشاء اور مقصدنا پر عمل کرے، وہ ان مراتب پر فائز ہو سکتا ہے۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ”نور مبین“ سے تعبیر کرتے ہیں جو لوگوں کو شرک و بدعت کی تاریکی میں روشنی دکھاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (النساء ۱۷۴)

لوگو! یقیناً تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک صاف اور واضح نور نازل کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو برہان، یعنی دلیل کہا اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے اخلاق کریمانہ آپ کے معجزات اور آپ پر قرآن کا نزول یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی روشن دلیلیں ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن کو ”نور“ فرمایا۔ روشنی کا کام لوگوں کو راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں اگر روشنی کا سامان نہ ہو تو ایک قدم چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفر و شرک کی تاریکیاں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان تاریکیوں اور ظلمتوں سے انسان قرآن ہی کے ذریعے نجات حاصل کر سکتا اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

قرآن کس درجے کی کتاب ہے اس کا کیا مقام ہے۔ شاید انسانوں کو سمجھ میں یہ بات نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت اور بلندی کا بیان ایک واضح مثال کے ذریعے کرتے ہیں:

الْحِكْمَةُ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۝ (المشر ۲۱)

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے مخاطب، تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ خدا کے خوف سے دب جاتا اور کھڑے کھڑے ہو جاتا

اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ ٹکرو تامل سے کام لیں۔

یعنی قرآن اپنی عظمت و جلال کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا، اور اس پہاڑ کو احساس و شعور عطا کیا جاتا تو وہ یقیناً اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن منکروں اور کج روؤں کا حال یہ ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، قرآن سنتے ہیں اور ان کے دلوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ بار بار یہ مثالیں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ لوگ سمجھیں، غور و فکر سے کام لیں، اور پھر عمل کریں، کیونکہ قرآن صرف اسی صورت میں دین و دنیا کی فلاح کا ضامن ہے جب اس کو سمجھا جائے، اور سمجھ کر اس کے مقصدنا اور منشاء پر عمل کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے ایمان اور حسن عقیدہ کے بعد سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا ہے وہ نیک عمل

قرآن کریم کے بارے میں حامل قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا یقیناً ایک بسیط اور جامع تبصرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”اللہ ہی کی کتاب، کتاب ہدایت ہے۔ اس میں ان لوگوں کے حالات بھی ہیں جو تم سے پہلے گذر چکے اور ان لوگوں کے واقعات کا بھی ذکر ہے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، یہ کتاب الہی (قرآن) قانونِ محکم ہے تمہارے مابین پیش آنے والے جھگڑوں کا فیصلہ اس میں موجود ہے۔ یہ کوئی بے مقصد اور فضول دستاویز نہیں ہے، جو شخص تکبر اور کج روی کے سبب اس کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جو شخص اس کے سوا کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا، یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ اللہ کا محکم ذکر و بیان ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔“

قرآن اللہ کی ایسی ہدایت ہے کہ لوگوں کی خواہشات اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتیں، اس کی پیروی کرنے والے بے راہ رو نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کی زبانیں اس کو خلط ملط نہیں کر سکتیں کہ اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق و امتیاز نہ کیا جاسکے۔ یا یہ کہ زبانیں قرآن کے تلفظ میں ملتحمس نہیں ہو سکتیں، جو زبان قرآن کا صحیح تلفظ کر رہی ہے وہ حق ہے۔

قرآن ایسا کلام ہے جس سے علماء کبھی سیر نہیں ہو سکتے، بار بار پڑھنے سے وہ پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر بار جب اس کی تلاوت کی جائے گی تو قاری زیادہ لطف اور حلاوت محسوس کرے گا۔ اس کے علوم اور حقائق و معارف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جتنا نے سنا تو صبر نہ کر سکے اور بول اٹھے کہ یہ کیا ہی عجیب و غریب کلام ہے، اس کے مضامین کی فصاحت و بلاغت، گہرائی اور گیرائی دنیا کو حیرت و استعجاب میں ڈالنے والی ہے۔ حق بولتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

جس نے قرآن کا کوئی لفظ یا فقرہ بولا، اس نے سچ بولا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا، اس نے عدل و انصاف کیا۔ جس نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اس نے حق و راستی کی طرف دعوت دی۔“ (۱)

بلاشبہ قرآن دین و دنیا کی تمام سعادتوں کا ضامن ہے، کامل ترین ضابطہ ہدایت اور دستور حیات ہے، اس کتاب میں نے انسان کے لیے سعادت داریں کی تمام راہیں کھول دیں۔ تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مملکت کے تمام علوم سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ جو قرآن پر عمل کرے گا وہی ابدی سعادت سے ہمکنار ہوگا اور جو قومیں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گی وہی غالب و

برتر ہوں گی۔

## لفظ قرآن کے معنی

اس جامع اور کامل ترین دستور ہدایت کو جس مخصوص نام سے پکارا گیا وہ 'قرآن' ہے۔ یوں کہنا چاہئے کہ کتاب اللہ کے پچاس سے زائد ناموں میں 'قرآن' کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔

لفظ قرآن کے کیا معنی ہیں۔ یہ اسم مشتق ہے یا اسم علم غیر مشتق اس بارے میں علماء ماہرین لغت اور مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔

”امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ: ”قرآن‘ علم غیر مشتق ہے، جس طرح توریت، زبور اور انجیل، علم غیر مشتق ہیں اور ان آسمانی صحیفوں کے نام ہیں جو حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام پر نازل ہوئے۔“ اسی طرح قرآن اللہ کے اس کلام کا نام ہے جو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس صورت میں یہ لفظ غیر مہوز پڑھا جائے گا۔

بعض ائمہ لغت اور مفسرین کہتے ہیں کہ: قرآن مشتق ہے۔ بعض قرن سے مشتق مانتے ہیں، جس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے کہا جاتا ہے قدرت الشیء بالشیء میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا۔ قرآن میں بھی آیتیں رکوع اور سورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے قرآن کو قرآن کہا جانے لگا۔

مشتق ماننے کی صورت میں ایک جماعت کہتی ہے کہ: قرآن قرء سے مشتق ہے جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ قرن الماء فی الحوض۔ حوض میں پانی جمع کیا اس صورت میں قرآن فعلان کے وزن پر صفت کا صیغہ ہوگا۔

بعض ماہرین لغت کہتے ہیں کہ: قرآن، غفران کی طرح مصدر ہے جس کا مادہ ”قرأت“ ہے بمعنی پڑھنا اور یہ بات خاصی معروف ہے کہ مصدر مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے معنی ہوں گے۔ پڑھا گیا، جو بہت پڑھا جائے، جس کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ قرآن اسی معنی کی تائید کرتا ہے۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (سورہ القمہ: ۱۷)

یعنی اس کا جمع کرانا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔

## قرآن کا اصطلاحی مفہوم

گذشتہ سطور سے یہ معلوم ہوا کہ ”قرآن“ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لیکن اس سے زیادہ یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کا اصطلاحی

مفہوم کیا ہے۔ اور شریعت کی زبان میں قرآن کسے کہتے ہیں؟

امام بیہقی کتاب الاعتقاد میں کہتے ہیں:

”قرآن“ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے جس طرح اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت نہ مخلوق ہے اور نہ حادث اسی طرح اس کی صفت کلام بھی قدیم ہے۔“

جس جگہ بھی کلام خداوندی کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اپنے آپ کو اس کا متکلم فرمایا ہے۔ تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے ساتھ متصف ہونے کی بنا پر قدر ہے اسی طرح صفت تکلم کے ساتھ متصف ہونے کی بنا پر متکلم بھی ہے۔ ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِيَشْرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

(سورہ الشوریٰ ۵۱)

کسی انسان کے لیے نہ ممکن ہے کہ وہ (براہ راست) اللہ سے کلام فرمائے، مگر اس صورت میں کہ وحی کے ذریعہ ہو یا از پس پردہ یا کسی قاصد (فرشتے) کے ذریعے یا قاصد اللہ کا پیغام اللہ کے حکم سے پہنچا دے، جو بھی پیغام اللہ بھیجنا چاہے۔ اصولیین نے کتاب اللہ (قرآن) کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

قرآن کریم وہ کلام الہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ نقل متواتر کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جس میں کسی شبہ کا امکان نہیں اور وہ لفظ یعنی تعبیر اور معنی دونوں کا نام ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور عام علماء کے قول کے مطابق یہی تعریف صحیح ہے۔

قرآن حکیم کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں یہ بہت مختصر سا عرض کیا ہے۔ ورنہ متکلمین اور محدثین کے ہاں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اس موضوع پر خاصی طویل اور فنی بحثیں ہیں۔ بہر حال اجمالی طور پر اتنا جان لینا کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ مخلوق ہے اور نہ حادث اللہ کی صفت ہے اور جس طرح اللہ کی دوسری تمام صفتیں قدیم ہیں اسی طرح یہ صفت کلام یعنی قرآن بھی قدیم ہے۔

اسمائے قرآن کریم

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایسی محکم اور بلند پایہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن کی یہ شہادت ہے:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم السجده: ۴۲)

اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے (اور) دانا (اور) خوبیوں والے (خدا) کی اتاری ہوئی ہے۔

جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام اس کی صفتوں اور عظمتوں کے عنوان ہیں اسی طرح اس کے کلام پاک کے بھی متعدد نام ہیں جو اس

کی خوبیوں اور خصوصیتوں پر دلالت کرتے ہیں۔

اللہ نے اپنی کتاب کا نام ”قرآن“ ایسا عجیب اور بے مثال رکھا کہ نہ صرف عرب کے ادیبوں نے کبھی اپنی کسی کتاب

اور مجموعے کا یہ نام نہیں رکھا بلکہ تاریخ یہ گواہی دینے سے قاصر ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی کتاب کا نام ”قرآن“ رکھا گیا ہو۔

امام راغب اصفہانی کہتے ہیں:

نہ ہر مجموعے کو قرآن کہتے ہیں اور نہ ہی ہر شخص کے یا ہر قسم کے کلام کے مجموعے کو قرآن کہا جائیگا۔ بلکہ صرف کلام الہی کے

مجموعے کو قرآن کہا جائے گا کیونکہ اس میں پچھلی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نتائج و ثمرات جمع ہیں یا اسے اس بنا پر قرآن کہا جائے گا

کہ یہ جملہ اقسام کے علوم و معارف کا مجموعہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

علماء اور مفسرین نے خود قرآن سے قرآن کریم کے جو نام اخذ کیے ہیں ان کی تعداد پچپن ہے۔ مناسب ہوگا اگر ان کی تفصیل

دے دی جائے اور ہر نام کے ساتھ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر کر دی جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ نام کس قرآنی آیت سے ماخوذ ہے۔

وہ سورۃ اور آیت جس سے یہ نام اخذ کیا گیا

نام	وجہ تسمیہ	سورۃ اور آیت جس سے یہ نام اخذ کیا گیا
۱۔ القرآن	بہت پڑھا جاتا ہے	سورۃ بنی اسرائیل آیت: ۹
۲۔ القرآن الکریم	بڑی کرامت اور بزرگی والا ہے	سورۃ الواقعة آیت: ۷۷
۳۔ القرآن العظیم	عظمت اور بڑی شان رکھتا ہے	سورۃ الحجر آیت: ۸۷
۴۔ القرآن الحکیم	حکمت اور دانائی کی باتوں سے	سورۃ یسین آیت: ۲
	بھرا ہوا ہے۔	
۵۔ الفرقان	حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔	سورۃ الفرقان آیت: ۱
۶۔ السبع الثانی	آیات قرآنی بار بار تلاوت کی	سورۃ الحجر آیت: ۸۷

	وجہ تسمیہ	نام
	جاتی ہیں، خصوصاً سورۃ فاتحہ	
سورۃ الزخرف آیت: ۲	حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔	۷۔ الکتاب الہمین
سورۃ الواقعة آیت: ۷۷	سر تاپا کرامت ہے۔	۸۔ الکریم
سورۃ التوبہ آیت: ۶	اللہ کا کلام ہے	۹۔ کلام اللہ
سورۃ المائدہ آیت: ۱۵	اللہ کا نور ہے	۱۰۔ نور
سورۃ یونس آیت: ۵۷	رحمت و ہدایت ہے	۱۱۔ ہدی و رحمۃ
سورۃ یونس آیت: ۵۷	روحانی شفاء ہے	۱۲۔ شفاء
سورۃ یونس آیت: ۵۷	نصیحت ہے	۱۳۔ موعظۃ
سورۃ الانبیاء آیت: ۵۰	ذکر و نصیحت ہے	۱۴۔ ذکر
سورۃ الانبیاء آیت: ۵۰	برکت والا ہے	۱۵۔ مبارک
سورۃ الزخرف آیت: ۴	بلند ہے، عظمت والا ہے	۱۶۔ علی
سورۃ القمر آیت: ۵	سر تاپا حکمت و دانائی ہے	۱۷۔ حکمت
سورۃ یونس آیت: ۱	سر اپا حکمت والا ہے۔	۱۸۔ الکریم
سورۃ المائدہ آیت: ۲۸	نمکبان و گواہ ہے، تمام عالم کے لیے برکت ہے۔	۱۹۔ مہین
سورۃ الانعام آیت: ۱۵۲	کائنات کے لیے سیدھا راستہ ہے	۲۰۔ صراط مستقیم
سورۃ الکہف آیت: ۱۲	اس کی ہر ہدایت اور تعلیم عالم کی نگرانی و محافظہ ہے	۲۱۔ قیم
سورۃ الاعلیٰ آیت: ۱۳، ۱۴	اس کی ہر بات محکم اور اٹل ہے	۲۲۔ قول فیصل
سورۃ ص آیت: ۶۷	اس کی ہر خبر اہم ہے	۲۳۔ نباء عظیم
سورۃ الزمر آیت: ۲۳	بہترین باتوں پر مشتمل ہے	۲۴۔ احسن الحدیث

	وجہ تسمیہ	نام
	جاتی ہیں، خصوصاً سورۃ فاتحہ	
سورۃ الزخرف آیت: ۲	حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔	۷۔ الکتاب الہمین
سورۃ الواقعة آیت: ۷۷	سر تاپا کرامت ہے۔	۸۔ الکریم
سورۃ التوبہ آیت: ۶	اللہ کا کلام ہے	۹۔ کلام اللہ
سورۃ المائدہ آیت: ۱۵	اللہ کا نور ہے	۱۰۔ نور
سورۃ یونس آیت: ۵۷	رحمت و ہدایت ہے	۱۱۔ ہدی و رحمۃ
سورۃ یونس آیت: ۵۷	روحانی شفاء ہے	۱۲۔ شفاء
سورۃ یونس آیت: ۵۷	نصیحت ہے	۱۳۔ موعظۃ
سورۃ الانبیاء آیت: ۵۰	ذکر و نصیحت ہے	۱۴۔ ذکر
سورۃ الانبیاء آیت: ۵۰	برکت والا ہے	۱۵۔ مبارک
سورۃ الزخرف آیت: ۴	بلند ہے، عظمت والا ہے	۱۶۔ علی
سورۃ القمر آیت: ۵	سر تاپا حکمت و دانائی ہے	۱۷۔ حکمت
سورۃ یونس آیت: ۱	سر اپا حکمت والا ہے۔	۱۸۔ الکریم
سورۃ المائدہ آیت: ۲۸	نمکبان و گواہ ہے، تمام عالم کے لیے برکت ہے۔	۱۹۔ مہین
سورۃ الانعام آیت: ۱۵۲	کائنات کے لیے سیدھا راستہ ہے	۲۰۔ صراط مستقیم
سورۃ الکہف آیت: ۱۲	اس کی ہر ہدایت اور تعلیم عالم کی نگرانی و محافظہ ہے	۲۱۔ قیم
سورۃ الاعلیٰ آیت: ۱۳، ۱۴	اس کی ہر بات محکم اور اٹل ہے	۲۲۔ قول فیصل
سورۃ ص آیت: ۶۷	اس کی ہر خبر اہم ہے	۲۳۔ نباء عظیم
سورۃ الزمر آیت: ۲۳	بہترین باتوں پر مشتمل ہے	۲۴۔ احسن الحدیث

		حجۃ مبینہ	۲۷
سورة الزمر آیت: ۲۳	اسے بار بار دہرایا گیا ہے۔	تقشابہ	۲۵
سورة الشعراء آیت: ۱۹۲	آسمان سے اتارا گیا۔	تنزیل	۲۶
سورة الشوریٰ آیت: ۵۲	قلب انسانی کے لیے حیات ہے روح ہے	روح	۲۷
سورة الانبیاء آیت: ۲۵	وحی الہی ہے	وحی	۲۸
سورة یوسف آیت: ۲	عربی زبان میں ہے	عربی	۲۹
سورة الجاثیہ آیت: ۲۰	عبرت و بصیرت کا مجموعہ ہے	بصائر	۳۰
سورة آل عمران آیت: ۱۳۸	اس کی ہر تعلیم واضح ہے	بیان	۳۱
سورة البقرہ آیت: ۱۲۰	علم و معرفت کا خزانہ ہے	العلم	۳۲
سورة یونس آیت: ۱۰۸	سراسر حق و راستی ہے۔	الحق	۳۳
سورة بنی اسرائیل آیت: ۹	عالم کے لیے رہ نما ہے۔	ہادی	۳۴
سورة الجن آیت: ۱	اس کے علوم و معارف دنیا کو حیرت و تعجب میں ڈالنے والے ہیں	عجب	۳۵
سورة ق آیت: ۸	لوگوں کے لیے بصیرت ہے	تبصرة	۳۶
سورة ق آیت: ۸	ذکر و فکر کا سامان ہے	ذکرای	۳۷
سورة البقرہ آیت: ۲۵۶	ہدایت اور عمل کیلئے مضبوط حلقہ ہے	العروة الوثقی	۳۸
سورة الحجرات آیت: ۲۲	سچائی ہے	صدق	۳۹
سورة الانعام آیت: ۱۱۵	عدل و انصاف ہے	عدل	۴۰
سورة الطلاق آیت: ۵	حکم الہی ہے۔	امر	۴۱
سورة آل عمران آیت: ۱۹۳	حق کا اعلان کرنے والا ہے	منادی	۴۲



نام	حجرتسمیہ	وہ سورۃ اور آیت جس سے نام اخذ کیا گیا
۴۳- ہدی و بشری	اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہے	سورۃ البقرہ آیت: ۹۷
۴۴- مجید	بزرگی والا ہے۔	سورۃ البروج آیت: ۲۲
۴۵- زبور (۱)	علوم و ہدایت اس میں جمع کر دیئے گئے ہیں	سورۃ الانبیاء آیت: ۱۰۵
۴۶- بشیر	مومنوں کو اجر و ثواب کی خوشخبری سنانے والا ہے	سورۃ البقرہ آیت: ۱۱۹
۴۷- نذیر	کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔	ایضاً
۴۸- عزیز	غالب ہے عزت والا ہے	سورۃ حم السجدہ آیت: ۴۱
۴۹- بلاغ	ایسا پیغام جو ہر ایک تک پہنچا دیا گیا	سورۃ ابراہیم آیت: ۵۲
۵۰- قصص	پچھلی امتوں کے واقعات اس میں مذکور ہیں۔	سورۃ البقرہ آیت: ۶۲
۵۱- صحف مکرمتہ	جن اور اوراق پر لکھا جاتا ہے ان کی عزت کی جاتی ہے	سورۃ العنکبوت آیت: ۱۲
۵۲- مرفوعہ	اور اس کو سروں پر اٹھایا جاتا ہے	سورۃ العنکبوت آیت: ۱۲
۵۳- مطہرہ	پاکیزہ ہے	سورۃ العنکبوت آیت: ۱۲
۵۴- الکتاب	صحیح معنی میں کتاب کہلانے کی مستحق یہی کتاب (قرآن) ہے	سورۃ البقرہ آیت: ۲

(۱) بعض مفسرین نے یہاں ”زبور“ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مراد نہیں لی بلکہ قرآن حکیم مراد لیا ہے۔ اس لئے ”زبور“ کو اسمائے قرآن میں ذکر کیا۔ (البرہان زرکشی)



پورا قرآن نازل کر کے محفوظ کیا گیا، اس جگہ کا نام ”بیت العزرة“ ہے۔ اس کے بعد ”بیت العزرة“ سے تھوڑا تھوڑا حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔ کبھی دو دو، چار چار آیتیں، کبھی ایک ایک، دو دو رکوع اور کبھی پوری سورۃ۔ ضرورت اور حکمت و مصلحت کے مطابق نازل ہوتی رہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

”قرآن کریم پہلے بیک وقت پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر ضرورت و مصلحت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نبی کریم علیہ السلام پر اتارا جاتا رہا۔“

اتارنے اور نازل کرنے کے معنی میں ایک اور لفظ آتا ہے اور وہ ہے ”تنزیل“ اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے تو نزل اور تنزیل کہیں گے۔ چنانچہ جہاں اس حقیقت کو نمایاں کرنا مقصود ہوا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، بیک وقت اس کا نزول نہیں ہوا، وہاں نزل اور تنزیل کا لفظ استعمال کیا۔ مثلاً:

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (المومن)  
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ (النحل)

جب منکروں نے اعتراض کیا کہ قرآن ایک بارگی کیوں نازل نہ کیا گیا، دو دو چار چار آیتیں کیوں نازل کی جاتی ہیں تو اس کا جواب یوں دیا گیا:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ  
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (الفرقان ۳۲)

کافر لوگ کہنے لگے یہ قرآن نبی پر ایک ہی دفعہ میں کیوں نہ نازل کر دیا گیا (فرمایا) ہماری طرف سے یہی طے ہوا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں

تاکہ اس قرآن کے ذریعے حضور کے قلب کو تقویت پہنچائیں، اور ہم ترتیل و خوبی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں (یعنی بتدریج نازل کریں)

تاکہ آپ کے لیے اس کی تلاوت اور یاد کرنا آسان ہو۔

قرآن کریم کے بتدریج نازل کرنے میں بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ تھیں، منکرین کوئی اعتراض کرتے، اس کا جواب

نازل ہو جاتا۔ مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہوتے، ان کا حل بتا دیا جاتا، آنے والے اہم واقعات و حوادث سے نبی علیہ السلام کو آگاہ

کیا جاتا، مسلمانوں کو پیش آمدہ مشکلات کے حل کے ساتھ صبر و تسلی کے پیغامات سے نوازا جاتا۔ غرض اسی طرح بہت سی حکمتیں تھیں جو

قرآن کے بتدریج اور مرحلہ وار نزول سے حاصل ہوئیں۔

## قرآن کیسے نازل ہوا؟

نزول قرآن کی کیا کیفیت تھی۔ جبرئیل امین بارگاہ ایزدی اور لوح محفوظ سے اللہ کا کلام لے کر کس طرح حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے؟ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ کلام کس طرح منعکس ہوتا تھا اور پھر اسے کیسے احاطہ تحریر میں لایا جاتا تھا؟

علماء نے اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں:

اول یہ کہ: جبرئیل امین پہلے اس کلام کو باطنی اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے اخذ کر لیتے ہوں اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر اترتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے ہوں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ: جبرئیل امین کی نظروں کے سامنے قرآن منعکس کر دیا جاتا ہو وہ اسے یاد کر لیتے ہوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہوں۔

پہلی صورت کا حاصل یہ ہے کہ کسی واسطہ کے بغیر جبرئیل امین یہ کلام اللہ تعالیٰ سے اخذ کریں اور پھر اس کلام کو اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق حضور علیہ السلام کو سنا دیں اور یاد کرا دیں۔ آج کے سائنسی دور میں ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بغیر کسی صورت کے ایک آواز اور خطاب ٹیپ کر لیا جاتا ہے اور وہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ علماء اور محققین نے اسی صورت کو ترجیح دی ہے۔ اگرچہ اس بارے میں قطعی اور حتمی توجیہ و تعبیر ممکن نہیں۔ قرآن کی اس آیت اور تعبیر سے اسی صورت کو تقویت ملتی ہے۔ ارشاد ہے:

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۹۳﴾ عَلَى قَلْبِكَ (الشعراء۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴)

جبرئیل امین آپ کے قلب پر اللہ کا کلام اللہ کے حکم سے لے کر اترتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ:

”وحی الہی کا نزول نبی کریم علیہ السلام پر دو طرح ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام جبرئیل امین کے ذریعے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے کہ آپ یہ کام کیجئے۔ اس کام سے لوگوں کو منع کر دیجئے، اس کام کا حکم دیجئے، لیکن اس میں کوئی تعبیر اور مخصوص عبارت نہ ہوتی۔

دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جبرئیل امین کو حکم دیتے کہ تم یہ کلام (اور حکم) ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا دو، جبرئیل امین وہ کلام لیکر اترتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے۔“

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وحی کی یہ دوسری قسم ہی کلام اللہ اور قرآن ہے اور پہلی قسم سنت رسول ہے (۱)

نبی علیہ السلام پر وحی مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی نیز مختلف حالات میں وحی کا نزول ہوتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے اور کبھی بیٹھے ہوتے، کبھی اپنے گھر میں ہوتے اور کبھی کسی دوسرے کے گھر میں اور کبھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر پر۔

جس وقت نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ اس کے ثقل کے باعث مشقت اور اعصاب پر دباؤ کی کیفیت محسوس کرتے جیسا کہ خود قرآن اس کی شہادت دیتا ہے:

إِنَّا سَأَلْنَاكَ عَلَيْنَا قَوْلًا نَقِيلاً ﴿المومل: آیت نمبر: ۵﴾

ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔

حدیث عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ میں ہے کہ ”نبی علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شدت کرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔“ (۲)

مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوتے اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو اونٹنی وحی کے ثقل (بوجھ) سے بیٹھ جاتی۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے اور ان کی ران میری ران پر رکھی ہوئی تھی کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ زید کہتے ہیں کہ نزول وحی کے بوجھ سے میری ران کا یہ عالم ہوا جیسے چوراچورا ہو جائے گی۔ (۳)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا۔ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”کبھی تھنی کی آواز کی طرح آتی ہے، یہ صورت مجھ پر زیادہ گراں گذرتی ہے، جب منقطع ہوتی ہے تو میں اسے سمجھ اور یاد کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی فرشتہ کسی آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔“ (۴)

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ”میں نے شدید سردی میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک سے پسینہ ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا۔“ (۵)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے طویل روایت ہے:

سب سے پہلے وحی کی ابتدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبارک اور سچے خوابوں سے ہوئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح روشن اور واضح ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت و تنہائی محبوب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزریں ہو کر عبادت فرمانے لگے، آپ گھر والوں کی طرف لوٹنے سے پہلے کئی کئی راتیں عبادت میں مشغول رہتے اور اس کے لیے توشہ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس آتے پھر توشہ لے کر چلے جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک حق آ گیا (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت و رسالت سے سرفراز فرمائے گئے) اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ پڑھئے۔! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب دبایا جس سے بے حد تکلیف ہوئی پھر مجھ کو چھوڑا اور کہا۔ پڑھئے! میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرمایا۔ اس نے مجھ کو پکڑا اور اتنا زور سے بھیجا کہ تکلیف انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے! میں نے پھر یہی کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر تیسری بار انتہائی شدت سے بھیجا۔ یہاں تک کہ تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ گئی پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ  
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ

ان آیات کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت خدیجہ کی طرف لے کر لوٹے اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک (وحی) کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کبل اڑھا دو، مجھے کبل اڑھا دو۔! انہوں نے کبل اڑھا دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ ہیبت جاتی رہی۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس مشہور اور طویل حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت و رسالت عطا ہونے کے ساتھ سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئیں، امام بیہقی ”دلائل النبوت“ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت نقل کی ہے:

اول سورة نزلت في القرآن اقر با اسم ربك

سب سے پہلی سورۃ جو قرآن کریم میں نازل ہوئی وہ ”اقرا“ ہے۔

قرآن کریم نبی علیہ السلام پر واقعات اور ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی مکمل ایک سورۃ نازل ہوئی جیسے سورۃ فاتحہ، سورۃ مدثر اور سورۃ انعام، سورۃ انعام پوری مکہ میں نازل ہوئی، صرف تین آیتیں بعد میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ کبھی دس آیتیں نازل ہوئیں جیسے واقعہ فک میں اور سورۃ مومنون کا ابتدائی حصہ، کبھی پانچ آیتیں نازل ہوئیں اور ایسا اکثر و بیشتر ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ ایک آیت دو حصوں میں نازل ہوتی، آیت کا ایک حصہ ایک دفعہ نازل ہو جاتا اور دوسرا حصہ بعد میں نازل ہوتا۔ مثلاً پہلے آیت کا یہ حصہ نازل ہوا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اس کے بعد نازل ہوا غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ایسے ہی پہلے آیت کا یہ حصہ نازل ہوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا اس کے بعد یہ حصہ نازل ہوا وَإِنْ يَحْتَمِبْ غَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اسی طرح قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ شریعت مکمل ہوگئی۔

علماء نے قرآن حکیم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کے مختلف وجوہ بیان کیے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ حصہ حصہ کر کے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ نبی علیہ السلام کے قلب میں پوری طرح راسخ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ لیں اور یاد کر لیں کیونکہ نبی علیہ السلام امی تھے نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا، برخلاف پچھلے انبیاء کہ وہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی ان کے لیے کسی لکھے لکھائے صحیفہ کو پڑھنا اور یاد کرنا آسان تھا۔ اس لیے ان پر جو خدائی کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل کر دیئے گئے۔ اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سمجھنے، قلب میں محفوظ رکھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔

بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں وقتاً فوقتاً جو واقعات رونما ہوں اور جو مسائل پیدا ہوں ان کا حکم بتلایا جاتا رہے اور صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے اپنی ضروریات کے مطابق جو سوالات کریں ان کے جوابات سے حضور کو مطلع کیا جاتا رہے۔ کیونکہ انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ اس کو جب کوئی الجھن پیش آئے یا یا مسئلہ درپیش ہو اگر اسی وقت اس کا جواب دے دیا جائے اور اسے حل کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ موثر ہوتا ہے۔ اس طرح بات آدمی کے ذہن نشین ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سوالوں کے جواب سے مطمئن ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب قرآن وقتاً فوقتاً حسب ضرورت نازل کیا جاتا۔ ایک دم نازل کر دینے میں لوگوں کے سوالات، اشکالات اور جملہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ بندوں کو جن احکام کا پابند کرنا

تھا وہ ان کو گاہے گاہے بتائے جاتے رہے اس طرح ان کو عمل میں سہولت ہوگئی اور لوگ احکام خداوندی بجالانے کے عادی ہو گئے۔

قرآن کو کلکڑے کلکڑے کر کے تیس سال کی طویل مدت میں نازل کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کی زندگی قطعاً غیر مہذب اور غیر مجتمع تھی۔ آزاد روی اور مطلق العنانی لوگوں کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ اگر ایک دم کوئی مکمل قانون اور ضابطہ حیات اہل عرب کے سامنے پیش کیا جاتا تو ان کے لیے اس پر عمل کرنا ناممکن ہوتا وہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اس کا انکار کر دیتے۔ اللہ جل شانہ نے اہل عرب کے اس مزاج اور افتاد طبع کی یہاں تک رعایت کی ہے کہ جو چیزیں اہل عرب کی طبیعت میں اتنی رچ بس گئی تھیں کہ ایک دم انہیں چھوڑنا ان کیلئے مشکل تھا۔ ان کو ایک دم حرام قرار نہیں دیا گیا۔ شراب جیسی چیز جس کی اسلام نے بعد میں پینے کی اجازت تو درکنار مسلمانوں کے لیے خرید و فروخت بھی ممنوع قرار دے دی ایک مرتبہ میں حرام قرار نہیں دی۔ تین مختلف مرحلوں میں مسلمانوں کو مے نوشی سے روکا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی افتاد طبع اور نفسیات کو پورے طور پر ملحوظ رکھا اور ان کو اس وقت تک احکام و مسائل کا پورے طور پر پابند نہیں کیا جب تک ان کے دلوں میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ نہیں ہوگئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں:

”قرآن میں سب سے پہلے جو سورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ تھا۔ پھر جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو پھر اللہ نے حلال و حرام کے احکام نازل کیے۔ اگر شروع ہی میں شراب کو حرام قرار دے دیا جاتا تو عرب کے آزاد طبع لوگ یقیناً یہ کہہ دیتے کہ ہم تو شراب نہیں چھوڑ سکتے اور اسی طرح اگر ان سے کہا جاتا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ تو وہ کبھی اس برائی اور فحاشی سے باز نہ آتے۔“ (بخاری)

قرآن کیسے لکھا گیا؟

اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اہل عرب ان پڑھ تھے ان میں تعلیم و تعلم کا رواج بالکل نہ تھا۔ علوم و فنون درس و تدریس اور کتابت سے نا آشنا تھے اسی سبب انہی (ان پڑھ) کہلاتے تھے۔ خود قرآن حکیم نے اس حقیقت کو آشکارا کیا۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (جمعة)

وہ اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا تا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کو انہی حالات میں اسی خطے اور اسی طبقے میں اپنے برگزیدہ رسول پر اپنی آخری کتاب ہدایت بھی نازل کرنا تھی



قبیلوں میں ممتاز مقام حاصل تھا یہ لوگ اپنے قبیلوں کی نمائندگی اور سفارت کی خدمات انجام دیتے تھے۔

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ O سے وحی الہی کا آغاز ہونا اس بات کی علامت تھی کہ عرب میں کچھ لوگ قلم اور قلم کے ذریعے علوم و معارف کی نشر و اشاعت اور کتابت کو پہچانتے تھے۔ علم، فن اور کتابت سے آشنا اسی طبقے کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ ان کو حضور علیہ السلام نے خدا کی آخری وحی یعنی قرآن پاک کی کتابت کے لیے مخصوص کیا۔

الطبقات الکبریٰ لابن سعد تاریخ طبری، روضۃ الاحباب اور بعض دوسری کتابوں میں مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے چالیس صحابہ کرام، کتابت وحی کی خدمات پر مامور تھے ان میں مشہور صحابہ کرام یہ ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ	حضرت علی کرم اللہ وجہہ
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ
حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ	حضرت عبداللہ بن سلول رضی اللہ عنہ
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ	حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ	حضرت جہم بن الصلتہ رضی اللہ عنہ
حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ	حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ	حضرت عبداللہ بن ابی السرح رضی اللہ عنہ
حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ	حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن ارقم زہری رضی اللہ عنہ	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

### عہد رسالت میں محفوظ قرآن

حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور میں بہت سے صحابہ قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ قرآن کریم جس طرح ازل سے لوح محفوظ میں محفوظ تھا اسی طرح اللہ کی مشیت یہ طے کر چکی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد اب تک اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ گویا اللہ نے امت محمدیہ کے سینوں کو دنیا میں لوح محفوظ کا نمونہ بنا دیا۔ انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

امت کی علامات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ صدورہم انا جملہم ان کے سینے ان کی انجیلیں ہوں گی۔ قرآن نے اس کی گواہی یوں دی:

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (العنکبوت ۴۹)

بلکہ وہ تو کھلی نشانیاں ہیں (جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں) اور علم والوں کے سینے میں محفوظ ہیں۔ مراد یہی ہے کہ وہ کتاب الہی کو یاد کریں گے کتاب الہی کا حفظ ایک معجزہ ہوگا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اسے آسان بنا دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا:

”اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تم کو آ زمانے والا ہوں اور تمہارے ذریعے امت کو بھی آزمائشوں کا اور تم پر ایک کتاب اتارنے والا ہوں جس کو دنیا کا کوئی پانی نہ دھوسکے گا۔ سوتا ہوا بھی اس کو پڑھے گا اور جاگتا ہوا بھی۔“ (مسلم)

جو حروف اور اوراق پر لکھے ہوئے ہوں انہیں پانی مٹا سکتا ہے۔ لیکن جو حروف و کلمات سینوں پر نقش ہو گئے، جنہیں لاکھوں افراد نے اپنے حافظوں کا حصہ بنا لیا۔ انہیں نہ کوئی پانی دھوسکتا ہے اور نہ کوئی آگ جلا سکتی ہے۔

امام حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہ بات امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے حفظ کی نعمت سے نوازا، پچھلی تمام امتیں اس نعمت سے محروم رہیں۔

حفظ قرآن کا سلسلہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی سے شروع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کے حافظوں اور قاریوں کی تعداد اس حد تک ہو گئی تھی کہ عام مسلمانوں کی تعلیم کے لیے حضور علیہ السلام ایک ایک شہر اور بستی میں چالیس چالیس حافظ اور قاری بھیجا کرتے تھے۔

بیر معونہ کا واقعہ سن چار ہجری کا ہے جس میں منافقین نے ستر (۷۰) حافظ قرآن کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ:

”یوں تو عہد نبوت میں صحابہ کی بڑی تعداد نے قرآن حفظ کر لیا تھا، مگر سات صحابہ ایسے ہیں جن کی سند حفظ و قرأت میں پوری دنیا میں مسلم ہے اور سلسلہ حفظ کی سند انہی سے ملتی ہے وہ سات حضرات یہ ہیں: حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابوالدرداء، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم (۱)

روایات کی چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرامؓ میں حفاظ قرآن کی تعداد دس ہزار تھی۔ خواتین بھی قرآن کریم حفظ کرتی تھیں۔ صحابیات میں بہت سی خواتین نے پورا قرآن کریم حفظ کیا۔ مثلاً:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ ام المومنین حضرت حفصہؓ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ حضرت ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہن  
قرآن کی جمع و تدوین کیسے ہوئی؟

علامہ جلال الدین سیوطیؒ مستدرک حاکم کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ قرآن کی جمع و تدوین تین مرحلوں میں مکمل ہوئی۔

### پہلا مرحلہ

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ”الاتقان“ میں حضرت زید بن ثابتؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت قرآن حکیم ایک جلد میں جمع نہیں تھا۔

قرآن کو ایک جگہ کتابی صورت میں جمع نہ کرنے کی کیا وجہ تھی اس بارے میں بھی صاحب اتقان ہی نے اٹھارویں فصل میں خطاب کا یہ قول نقل کیا ہے:

”نبی علیہ السلام نے قرآن کو ایک جگہ مصحف میں اس لیے جمع نہیں کیا تھا کہ ممکن ہے کسی آیت کا حکم یا تلاوت منسوخ ہو جائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے دل میں قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا خیال اور جذبہ پیدا کر دیا کیونکہ یہ اللہ کے اس سچے وعدہ کی تکمیل کا ایک ذریعہ تھا جو اس نے امت کے لیے قرآن کی حفاظت کا خوذہ لے کر کیا تھا۔“

اگرچہ قرآن حکیم نبی علیہ السلام کے عہد مبارکہ میں کسی مصحف میں جمع نہیں تھا لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مطلقاً جمع ہی نہیں کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بے شمار صحابہ اکرمؓ ایسے تھے جو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ لیکن ایسے صحابہ کی تعداد بھی کافی تھی جنہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ شارح بخاری حافظ بدر الدین عینی لکھتے ہیں۔

”جن لوگوں نے نبی کریم کے عہد میں قرآن جمع کیا ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔“

امام بخاری نے فضائل صحابہ کے باب میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے تم قرآن چار اشخاص سے پڑھا کرو سب سے پہلے عبداللہ بن مسعودؓ

کا نام لیا۔ پھر سالم موسیٰ حدیفہؓ کا پھر ابی بن کعبؓ کا اور اس کے بعد معاذ بن جبلؓ کا۔

مختلف صحابہؓ نے اپنی اپنی معلومات کے مطابق نبی علیہ السلام کے عہد میں قرآن جمع کرنے والوں کے نام بتائے ہیں۔

بخاری میں حضرت انسؓ کی روایت ہے:

”نبی علیہ السلام کے زمانے میں چار شخصوں نے قرآن جمع کیا تھا۔ سب کے سب انصار تھے۔

ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، ابو زید اور زید بن ثابتؓ۔ انسؓ سے پوچھا گیا۔ ابو زید کون ہیں؟

بولے۔ میرے ایک چچا کا نام ہے۔“

ابن عمرؓ کی روایت کے بارے میں شارحین حدیث نے یہ تصریح کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خصوصیت سے جو چار صحابہؓ

کا ذکر کیا اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ ان چار کے علاوہ صحابہؓ میں کسی اور نے قرآن کو جمع نہیں کیا تھا، ان چار کو مخصوص کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ

چار حضرات الفاظ قرآن کے ضبط و حفظ میں ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین طریقہ سے تلاوت کرنے والے تھے۔ ورنہ ان کے علاوہ

بھی دوسرے متعدد صحابہؓ نبی علیہ السلام کے عہد ہی میں قرآن کے حافظ بھی تھے اور جمع کرنے والے بھی۔ جیسا کہ انس بن مالکؓ کی روایت

اس کی نشان دہی کرتی ہے۔

پہلی بار نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں صحابہؓ نے قرآن جمع کیا اس بارے میں مذکورہ بالا روایتوں کے علاوہ کئی واضح

اور صریح روایتیں بھی موجود ہیں۔

قرآن کی جمع و کتابت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصحف میں جمع

نہیں کرایا اس خیال سے کہ کوئی حکم یا آیت منسوخ نہ ہو جائے اور پھر وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ (۱)

تمام ائمہ محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہؓ کو تمام قرآن پڑھا دیا تھا۔ حفظ کرا دیا تھا۔

لکھا دیا تھا۔ لیکن وحی کا سلسلہ جاری تھا اس لیے ایک جامع نہیں کرایا تھا۔ انسان کی اپنی تصانیف کا یہ قاعدہ ہے کہ ختم ہونے کے بعد ترتیب

قائم کرتے ہیں اور کتابی صورت دیتے ہیں اور ایسی کتاب جو کلمے کلمے ہو کر اللہ کی طرف سے ایک شخص پر نازل ہو رہی ہو اس میں ناسخ

و منسوخ کا سلسلہ بھی جاری ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کب اس کی تکمیل ہوگی ایسی صورت میں اس کی قطعی ترتیب قائم کرنا اور اسے کتاب

اور مجموعہ کی شکل دینا کیسے ممکن ہو سکتا! جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تب قرآن کی قطعی اور حتمی

ترتیب قائم کی گئی اور مجموعہ اور مصحف کی صورت میں جمع کیا گیا۔

## دو اسرارِ مرحلہ

جمع قرآن کے دوسرے مرحلہ کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ہوا۔ جیسا کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ زید بن ثابتؓ کہتے ہیں :

”مجھے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جنگ یمامہ کے بعد بلا بھیجا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عمر بن خطابؓ ان کے پاس بیٹھے ہیں ابو بکرؓ نے فرمایا۔ یہ عمرؓ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قراء شہید ہو گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر اسی طرح دوسری جنگوں میں قراء شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ لہذا میری رائے ہے کہ میں (ابو بکرؓ) قرآن کو جمع کرنے کا حکم دوں میں نے عمرؓ کو یہ جواب دیا کہ ہم اس کام کی ابتداء کیسے کریں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمرؓ نے کہا۔ خدا کی قسم یہ نہایت ضروری اور اہم کام ہے، عمرؓ اس معاملہ میں مجھ (ابو بکرؓ) سے کافی بحث و اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری دست گیری کی اور اس کام کے لیے مجھے پورے طور پر اطمینان اور شرح صدر ہو گیا اور میری رائے بھی وہی تھی جو عمر فاروقؓ کی تھی۔“

پھر زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا :

”تم جوان اور عقل مند آدمی ہو تم پر کسی قسم کی تہمت نہیں لگائی جاسکتی۔ نیز تم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ لہذا میری خواہش ہے کہ تم قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔“ خدا کی قسم ابو بکرؓ اگر مجھے کسی پہاڑ کو نخل کرنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اتنا گراں نہ گزرتا جتنا جمع قرآن کا حکم مجھ پر گراں گزرا۔ میں نے ابو بکرؓ سے عرض کیا۔ آپ وہ کام کیسے کرنا چاہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن ابو بکرؓ نے فرمایا۔ اب میں نے جو سوچا ہے خدا کی قسم وہی بہتر ہے۔ ابو بکرؓ مجھ سے بہت بحث و اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی پورے طور پر اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ میں نے قرآن کو کھجور کے درخت کی چھالوں سے پتھر کی تختیوں سے اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کر دیا۔ البتہ سورہ توبہ کا آخری حصہ (مکتوبہ شکل میں) مجھے صرف ابو خزیمہ انصاریؓ کے پاس سے ملا ان کے سوا کسی کے پاس نہ تھا یعنی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ سے ختم سورہ تک، پس یہ صحیفے ابو بکرؓ کے پاس ان کی وفات تک رہے پھر حضرت عمرؓ کے پاس جب حضرت عمرؓ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ صحیفے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہؓ کے سپرد کر دیئے۔ (۱)

ابن ابی داؤد نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ مسجد نبوی میں آئے اور اعلان کیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی قرآن حاصل کیا ہو وہ لے کر آئے اور وہ لوگ قرآن کو تختیوں پر اور کھجور کی چھالوں پر لکھ لیا کرتے تھے، حضرت عمرؓ کسی شخص کی تحریر قبول نہیں کرتے تھے تا وقتیکہ دو آدمی اس کی گواہی نہ دیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زید بن ثابتؓ صرف تحریر کے پائے جانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے جب تک ایسا کوئی شخص گواہی نہ دیتا جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر قرآن حاصل کیا ہو حالانکہ زید بن ثابتؓ خود بھی مکمل قرآن کے حافظ تھے لیکن ان کا یہ عمل انتہائی احتیاط کی بنا پر تھا۔

نیز ابن ابی داؤد نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے روایت کی ہے کہ ان (ہشام) کے والد نے بیان کیا کہ ابو بکرؓ نے عمرؓ اور زید بن ثابتؓ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی کے دروازہ پر بیٹھ جائیں اور جب کوئی شخص کتاب اللہ کی کسی آیت پر دو گواہ لائے تب اس کو لکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حکم دینے سے کہ جب تک دو گواہ نہ ہوں، اس وقت تک کوئی قرآنی آح نہ لکھی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے یا یہ مراد تھی کہ وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ ان وجوہ میں سے ہے جن پر قرآن کا نزول ہوا۔ (۱)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے۔

”اللہ تعالیٰ ابو بکرؓ پر رحم فرمائے، وہ اولین شخص تھے جنہوں نے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا۔“ (۲)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ قرآن پر پوری امت مسلمہ کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، اس کو تو اتر کا درجہ حاصل

(بقیہ حاشیہ) کئے ہوئے صحیفے نے امیر اور خلیفہ کی تحویل میں کیوں نہیں دیئے۔ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہؓ کے سپرد کیوں کئے؟ حضرت عمرؓ کے اس عمل کی کئی وجوہ ہیں۔ اڈل یہ کہ حضرت حفصہؓ پورے قرآن کی حافظہ تھیں، کثرت سے تلاوت کیا کرتی تھیں اور لکھتی تھیں، زوجہ رسول ہونے کا شرف ان کو حاصل تھا۔ دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمرؓ کی حیات میں نئے خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا تھا اور نہ ہی حضرت عمرؓ نے (ابو بکرؓ کی طرح) کسی خاص آدمی کے لئے خلافت کی وصیت کی تھی بلکہ آپ نے چھ آدمیوں کی مشاورتی کمیٹی بنا دی تھی جس نے بعد میں خلیفہ منتخب کیا۔ ان امور کی بنا پر ام المومنین حضرت حفصہؓ ہی دوسرے لوگوں کی نسبت مصحف کی زیادہ حفاظت کر سکتی تھیں۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے دور صدیقی کا دون شدہ قرآن حضرت حفصہؓ کے سپرد کیا۔

ہے۔ علماء کی رائے ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کو ابھی فراموش نہ ہو جانے کے ساتھ مدون کیا جن کے مطابق وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے جمع کردہ قرآن اور بعد رسالت میں مرتبہ قرآن میں قطعاً کوئی فرق نہیں، ان میں کامل ہم آہنگی موجود ہے۔ (۱)

### تیسرا اور آخری مرحلہ

حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان بن عفانؓ خلیفہ ہوئے، بہت سے نئے شہر اور ملک مسلمانوں کے قبضے میں آئے اس وقت تمام ملکوں اور قوموں میں اسلام اور قرآن پہنچ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تمام مفتوحہ علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ قرآن ناظرہ پڑھنے والوں، حفظ کرنے والوں اور لکھنے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی حضرت عثمان بن عفان نے تدوین قرآن کے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور قطعی صورت دینے کا فیصلہ کیا، جس کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیقؓ کر چکے تھے۔ حضرت انس بن مالکؓ کی طویل روایت ہے :

”حذیفہ بن الیمانؓ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں آئے۔ ان دنوں حضرت حذیفہؓ آرمینیا کی فتح میں اہل شام کے ساتھ اور آذربائیجان کی فتح میں اہل عراق کے ساتھ جہاد میں شریک رہے تھے۔ حضرت حذیفہؓ ان دنوں علاقوں میں مسلمانوں کا قرآن میں قرأت کا اختلاف دیکھ کر گھبرا اٹھے۔ جب حضرت عثمانؓ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنینؓ! اس امت کی خبر لیجئے قبل اس کے کہ وہ کتاب اللہ میں اس طرح اختلافات کرنے لگیں جس طرح یہود اور نصاریٰ نے کیا“ حضرت عثمانؓ نے ام المؤمنینؓ حضرت حفصہؓ کے پاس آدمی بھیجا کہ حضرت ابو بکرؓ کے جمع کردہ صحیفے میرے پاس بھیج دیں، ہم ان کی نقلیں کرا کے اصل آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہؓ نے یہ صحیفے حضرت عثمان بن عفانؓ کو بھیج دیئے۔“

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابتؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، سعید بن العاصؓ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم کو مامور کیا کہ وہ صحیفوں سے نقل کر کے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر دیں حضرت عثمان غنیؓ نے تینوں قریشی صحابہؓ (حضرت زید بن ثابتؓ کے علاوہ) سے کہا کہ : جب تمہارے اور زید کے مابین قرآن کی کسی آیت (قرءات و تلفظ) کے بارے میں اختلاف ہو تو قریش کی زبان، لہجہ اور تلفظ کو ترجیح دینا اور اسی کے مطابق لکھنا کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا جب یہ چاروں حضرات، امیر المؤمنین

(۱) علوم القرآن۔ سچی صالح (اردو) ص: ۱۱۳

کے حکم کی تعمیل کر چکے تو حضرت عثمانؓ نے حضرت حصہؓ کے صحیفے ان کو واپس بھجوادئیے۔ اس کے علاوہ جو حصے (قرآن کے) مختلف لوگوں کے پاس لکھے ہوئے تھے انہیں نذر آتش کر دیا گیا۔ (۱)

حضرت عثمانؓ نے جو نسخہ مرتب کرایا وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مرتبہ قرآن کے عین مطابق تھا اور عہد صدیقی کے نسخے عہد رسالت کے نسخہ قرآن کے مطابق تھے اس طرح قرآن کریم کی صحت شک و شبہ سے بالا ہو گئی۔

حضرت عثمانؓ نے قرآن کے جو نسخے مرتب کرا کے ملک کے مختلف علاقوں اور صوبوں میں بھجوائے تھے ان کے بارے میں اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ ان کی تعداد چار تھی اور ایک نسخہ اپنے پاس محفوظ رکھا جسے ”مصحف امام“ کہا گیا۔ (۲)

بعض روایات کی بناء پر ایسے نسخوں کی تعداد چھ یا سات ہے۔ حضرت عثمانؓ کے اس اقدام کو سب نے بڑی وقعت اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے:

”عثمانؓ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو۔ بخدا انہوں نے مصاحف کے بارے میں جو کچھ کیا“

ہمارے مشورے سے کیا اور ہماری موجودگی میں کیا۔“ (۳)

ایک بار حضرت علیؓ نے فرمایا: ”اگر میں اس وقت مسدِ خلافت پر ہوتا تو مصاحف کے بارے میں وہی کرتا جو حضرت عثمانؓ نے کیا۔“ (۴)

حافظ ابن کثیر جو آٹھویں صدی ہجری کے مشہور علماء میں شمار ہوتے ہیں، جنہیں تفسیر قرآن لکھنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ اپنی کتاب ”فضائل القرآن“ میں لکھتے ہیں:

حضرت عثمانؓ کے جمع کردہ مصاحف میں سے مشہور تر وہ مصحف ہے جو آج کل دمشق میں موجود ہے، یہ مصحف پہلے طبرہ میں تھا۔ ۵۱۸ھ میں اسے وہاں سے دمشق لایا گیا۔ یہ جلیل القدر نسخہ نہایت دیدہ زیب و دلکش ضخیم اور جلی خط میں ہے۔ اس کی جلد بڑی مضبوط ہے۔ میرا خیال ہے کہ اونٹ کے چمڑے سے باندھی گئی ہے۔ (۵)

قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟

قرآن زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر مرحلے پر انسانیت کی ہدایت کے

(۱) بخاری۔ باب فضائل القرآن نیز الاتقان (۲) البرہان زرکشی۔ ج: ۱، ص: ۲۳۰ (۳) البرہان زرکشی۔ ج: ۱، ص: ۲۳۰ نیز الاتقان

(۴) البرہان زرکشی۔ ج: ۱، ص: ۲۳۰ نیز الاتقان (۵) علوم القرآن۔ سبکی صالح (اردو) ص: ۱۲۸



لیے اس میں ابدی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو ضرور مد نظر رکھنا چاہئے کہ قرآن کس صورت میں نجات کی راہ دکھاتا ہے، مکمل ضابطہ حیات کیوں کر ہے؟ اور اس میں بنی نوع انسان کی تمام مشکلات کا حل کیسے پنہاں ہے؟ اس کا بہت مختصر اور واضح جواب ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب ہدایت کو پڑھ لینا کافی نہیں؛ بجا کہ وہ بھی باعثِ صدمہ و ثواب ہے۔ مگر اس سے اگلی منزل اس کا سمجھنا ہے پہلے پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے، اس کے بعد سمجھے اور پھر حقیقی منزل یہ ہے کہ اس پر عمل کرے۔ قرآن کریم، محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں کہ آدمی آرام سے بیٹھ کر اس کو پڑھے، دنیا کی دوسری عام مذہبی کتب کی طرح ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں کہ کسی مدرسہ یا خانقاہ میں اس کے اسرار و موزن حل کر لیے جائیں۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر قرآن، ایک عالمگیر اور ابدی تحریک و دعوت ہے۔ اس نے ایک گوشہ نشین انسان کو کنج عافیت سے نکال کر خدا سے پھری ہوئی، اور راہِ حق سے بھٹکی ہوئی دنیا کے بالقابل لاکھڑا کیا، وہ باطل کے خلاف نبرد آزما ہو گیا، اس تحریک اور دعوت پر گھر گھر سے ایک ایک سعید اور پاکیزہ نفس کھنچا چلا آیا، اور داعیِ حق کے پرچم تلے جمع ہو گیا، اسی دعوت اور تحریک نے اپنے ماننے والوں کو گمراہی اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے خلاف میدان جنگ میں لاکھڑا کیا، ایک ایک فرد نے عمل کے میدان میں اپنا فرض ادا کیا۔ یہاں تک کہ ۲۳ سال کی جاں گسل کوشش کے بعد اللہ کی زمین پر اس کے ماننے والوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ تھا عمل کے میدان میں قرآن کا اولین نقش، جس نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوا کہ اس کو پڑھ کر سمجھا گیا، اور سمجھ کر اس پر پورے خلوص کے ساتھ عمل بھی کیا گیا۔

موجودہ دور میں امتِ مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس نے قرآن پر عمل تو کجا، اسے سمجھ کر پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا وہ کون سا میدان ہے جس میں قرآن انسانیت کی مکمل رہنمائی نہیں کرتا؟

## قرآن حکیم کی اصولی تعلیمات کا مختصر خاکہ

قرآن کی تعلیمات کو بنیادی طور پر ہم چار عنوانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ۱- عقائد ۲- عبادات ۳- معاملات ۴- حسن معاشرہ زندگی اصولی طور پر انہی چار عنوانوں کے گرد گھومتی ہے۔

### عقائد

عقائد انسان کے تمام اعمال و افعال اور حرکات کا محور ہیں، عقائد ہی سے انسان کے اعمال سدھرتے ہیں اور عقائد ہی سے

بگڑتے ہیں۔

ہر انسان کے ذہن میں چند پختہ اور غیر متزلزل نظریات ہوتے ہیں، جن پر اس کے عام خیالات کی عمارت کھڑی ہوتی ہے انہی پختہ اور اصولی نظریات کو عقائد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خط نکلتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط اسی نقطہ پر ختم ہوتا ہے۔

ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عمل، تصور و فعل اور عقلیت و عملیت کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم قرار دیا ہے۔ چند سیدھے سادے اصول جو تمام ذہنی سچائیوں اور واقعی حقیقتوں کا جوہر اور خلاصہ ہیں، ان کا نام ”عقیدہ“ اور ان پر یقین کرنے کا نام ”ایمان“ رکھا۔ عقیدے کی خشیت اول تو حید“ کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

☆ خدا بے مثل ہے:

”اس کے مثل کوئی شے نہیں“ (شوریٰ ۱۱)

☆ اللہ یکتا اور بے نیاز ہے:

”کہہ دو۔ اللہ ہی یکتا ہے اللہ ہی بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہم سر ہے۔“

(اعلام ۱-۲)

☆ اگر دو خدا ہوتے:

”اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرا خدا ہوتا۔ تو ان دونوں کا نظام تباہ ویراں ہو جاتا“ (انبیاء ۲۳)

### نبوت و رسالت

☆ نبوت و رسالت وہی چیز ہے:

”اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ منصب

☆ ہر امت میں رسول آئے:

”ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا“ (یونس-۴۷)

☆ تمام رسول انسان تھے:

”اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔“ (نمل-۴۳)

☆ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے:

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے

ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے درمیان ایک (نئی راہ) نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب کچھ کافر ہیں

اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔“ (نساء-۱۵۰-۱۵۱)

☆ منکرین رسالت کا انجام:

بلاشبہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی کھال

گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔“ (نساء-۵۶)

☆ آخرت

آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔

”جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہی کتاب الہی پر ایمان لاتے ہیں۔“ (نمل:۳۲)

☆ آخرت کا انکار خدا کا انکار ہے۔

”اگر آپ تعجب خیز بات چاہیں تو سب سے زیادہ تعجب خیز ان لوگوں کا قول ہے کہ ”جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم

نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟“ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں۔“ (رعد-۵)

منکرین آخرت کے اعمال بے سود ہیں:

”اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، ان کے سارے اعمال اکارت ہیں۔ کیا لوگ اس کے

سوا کچھ اور جزا پاسکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں۔“ (اعراف-۱۳۷)

☆ قیامت کے ہولناک مناظر:

”جب آسمان پھٹ جائے گا جب تارے جھڑ پڑیں گے جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھڑ جائیں گی اس وقت

ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔“ (انفطار-۱-۵)

”جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ (قیامت کے دن) اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے

گا۔“ (زوال-۷-۸)

## عبادات

قرآن کی رو سے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ”میں نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں بسر ہو، اسلام نے چار عبادتیں فرض کی ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اسی بنا پر ان کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے۔

## نماز

☆ نماز برائیوں سے روکتی ہے:

”نماز قائم کیجئے۔ یقیناً نماز بخش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔“ (عکبوت ۴۵)

”پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔“ (توبہ-۱۰)

”جہنمی مجرموں سے اہل جنت پوچھ رہے ہوں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا۔ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہ پڑھتے

تھے۔“ (مذثرہ-۳۰-۳۳)

## زکوٰۃ

☆ زکوٰۃ فلاح کا ذریعہ ہے:

”یقیناً وہ ایمان والے فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، بے ہودہ باتوں سے منہ موڑ لے رکھتے ہیں

اور زکوٰۃ دینے میں پابندی کرتے ہیں۔“ (مومنون-۱-۴)

”جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات

بالیں نکلیں اور ہر بال میں سودا نے ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔“ (بقرہ-۳۶)

☆ زکوٰۃ اور سود کا فرق:

”اللہ تعالیٰ سود (کے مال) کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ صدقات کو نشوونما بخشتا ہے۔“ (بقرہ-۲۷۶)

## روزہ

روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے:

”اے ایمان والو! تم پر بھی روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے پھلی امتوں پر کیا گیا تھا۔“ (بقرہ-۱۸۳)

☆ روزہ کا

تا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔“ (بقرہ-۱۸۳)

☆ روزوں کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے :

”رمضان کا مہینہ وہ (مبارک) مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام انسانوں کے لیے سر تا پا ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق ظاہر کر دینے والی ہیں۔ پس تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔“ (بقرہ-۱۸۵)

حج

☆ فرضیت

”اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر (خانہ کعبہ) تک پہنچنے کی وسعت اور قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔“

(آل عمران ۹۷)

☆ حج کے مہینے:

”حج کے چند مہینے ہیں جو سب کو معلوم ہیں۔“ (بقرہ-۱۹۷)

معاملات

انسانی معاملات میں جائز و ناجائز کی حدیں قائم کرنا اور حلال و حرام کے متعلق حکم دینا خدا ہی کا حق ہے۔ خدا کے اس حق میں اس کا کوئی شریک و سہم نہیں۔ توحید کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ عبادت صرف خدا کی ہو۔ سر نیاز صرف اسی کے آگے جھکایا جائے وہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ معاملات میں صرف اسی کے احکام اور قوانین کی پیروی کی جائے۔ قرآن نہ صرف یہ کہ تمام معاملات کے لیے واضح اور اٹل قوانین پیش کرتا ہے بلکہ ان کی پیروی کو ایمان کی کوئی قرار دیتا ہے۔

☆ قرآن کا نظریہ حلال و حرام:

”لوگ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال کیا گیا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاک چیزیں

حلال کر دی گئی ہیں۔“ (مائدہ-۳)

☆ قانون حلال و حرام اللہ کا حق ہے :

”انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی، حالانکہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک ہی خدا کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے

جو یہ لوگ کرتے ہیں) (توبہ۔ ۳۱)

☆ شراب اور جو احرام ہیں:

”اے مومنو! شراب، جو اور پانے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچے رہو تا کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔“ (مائدہ۔ ۹)

☆ کسی کو قتل نہ کرو:

”اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مگر حق کے ساتھ۔“ (اعراف۔ ۱۲۵)

”جس نے دانستہ کسی مسلمان کو قتل کیا۔ اس کی سزا جہنم کا دائمی عذاب ہے۔“ (نساء۔ ۹۳)

☆ چوری کی سزا:

”چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کے کئے ہوئے جرم کی سزا ہے۔ اور خدا کی طرف سے

عبرت تاکہ سزا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔“ (مائدہ۔ ۳۸)

### حسن معاشرت

قرآن نے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کو جو اہمیت دی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انسان کی سعادت اور فلاح و کامرانی کے لیے ایمان کے بعد جس چیز کو ضروری قرار دیا گیا وہ حسن اخلاق اور حسن معاشرت ہے۔ قرآن اخلاق حسنہ کو اپنی تعلیم کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ قرار دیتا ہے اور اس بارے میں انتہائی جامع، متوازن اور موثر تعلیم اور نظریات کا حامل ہے کیونکہ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ایک بہتر، متوازن، صالح اور اطمینان بخش معاشرے کی تعمیر اخلاق حسنہ ہی پر ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے رذائل اخلاق کو ایمان کے مناسب کہا ہے اور ان سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے۔

### اخلاقیات

☆ سچائی:

”اے ایمان والو! اللہ کا خوف رکھو اور سچوں کے ساتھ رہو۔“ (توبہ۔ ۱۱۹)

☆ صبر:

”اے ایمان والو! صبر اختیار کرو اور صبر میں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو اور مقابلہ کے لئے مستعد رہو اللہ

کا خوف رکھو تا کہ تم فلاح پاسکو۔“ (آل عمران۔ ۲۰۰)

☆ غفور و درگزر

☆ ایثار:

”اور ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص تنگ دلی سے بچا لیا گیا، تو ایسے ہی لوگ

مراد پانے والے ہیں۔“ (حشر ۹)

☆ وعدہ خلافی:

”نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لئے نفاق کا روگ ہو گیا۔ جو خدا کے حضور پیشی کے دن تک ان کا پچھانہ چھوڑے گا

یہ اس لئے کہ انہوں نے خدا سے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔“ (توبہ ۷۷)

☆ جھوٹ:

”اور جھوٹ کہنے سے بچتے رہو۔“ (حج ۳۳۰)

☆ تکبر:

”زمین پر اکر کر نہ چلو۔ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔“ (بنی اسرائیل ۲۷)

☆ بخل:

”جس نے مال اکٹھا کیا اور اسے بار بار گنتا رہا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس کا مال اسے زندہ و جاوید کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ یقیناً

حکمہ میں ڈالا جائے گا۔“ (حمرہ ۲۰)

☆ عیب جوئی:

”طعنے دینے اور عیب لگانے والے کے واسطے ہلاکت و بربادی ہے۔“ (حمرہ ۱)

☆ غیبت:

”ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا مت کہو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت

کھائے۔“ (حجرات ۱۲)

(ب) معاشرت

☆ نکاح:

”اور اے محمد! ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔“ (رعد ۲۸)

☆ قیام تمدن کی بنیاد:

”اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں جو نیک ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ نادار ہوں گے تو اللہ

ان کو غنی کر دے گا اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں ان کو چاہئے کہ پاک دامنی اختیار کیے رکھیں۔ یہاں تک کہ اللہ ان کو مالدار

☆ بقائے نسل انسانی کا ذریعہ:

”لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا“ پھر ان دونوں نے بہت

سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیئے۔ (نساء۔ ۱)

☆ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں:

”خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے“ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے

اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے۔“ (نور۔ ۲۶)

☆ مہر دینا فرض ہے:

”عورتوں سے ازدواجی زندگی کا لطف اٹھانے کے عوض ان کے مہر بطور فرض ادا کرو۔“ (نساء۔ ۲۳)

☆ زوجین کے حقوق:

”عورتوں کے لئے بھی معروف طریقہ پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔“

☆ شوہر کے فرائض:

عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر

اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ (نساء۔ ۱۹)

☆ بیوی کے فرائض:

”وہ مرد کی اطاعت شعار ہوتی ہے اور مردوں کے پیچھے اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق اور امانتوں کی حفاظت کرتی ہے۔“

(نساء۔ ۳۴)

☆ والدین سے سلوک:

اگر ان (والدین) میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں۔ تو تم انہیں اُف تک نہ کہو اور نہ انہیں

جھڑکیاں دو اور عاجزی اور انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کرو کہ پروردگار ان کے حال پر رحم فرما۔ جس طرح ان دونوں نے

بچپن میں میری پرورش کی تھی۔“ (بنی اسرائیل۔ ۲۳۔ ۲۴)







## ابتلا و آزمائش

۱۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کر نیوالوں کو (خدا کی خوشنودی کی) بشارت سنا دو ۵

ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ۵  
یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷﴾ ---

۲۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ (یوں ہی) بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی (مشکلیں) تو پیش آئی ہی نہیں۔ ان کو (بڑی بڑی) سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ (صعبتوں میں) ہلا دیئے گئے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی۔ دیکھو خدا کی مدد (عین) قریب (آیا چاہتی) ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳﴾ ---

۳۔ (اے اہل ایمان) تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو

۱- وَتَسْبَلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْعُرْسِ ۗ وَبِكَبْرِ الضَّرْبِ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۗ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

۲- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ۗ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

۳- تَسْبَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَتَسْمَعُونَ مِمَّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا ۗ وَإِنْ نَصَرُوا وَنَفَقُوا فَوَاقِنِ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ الْأُمُورِ ۝

۴- وَمَنْ يُؤَدِّ اللَّهُ فَتْنَةً فَلَئِن تَمَّلَكَ لَهٗ مِنَ اللَّهِ هَيْبَةٌ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُؤَدِّ اللَّهُ أَنْ يَكْفُرَ قُلُوبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی اہمیت کے کام ہیں ۵  
--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۸۶﴾ ---

۳۔ خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لئے تم کچھ بھی خدا سے (ہدایت کا) اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا۔ ان کے لئے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۴۱﴾ ---

۵۔ مومنو! کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا (یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے) تاکہ معلوم کرے کہ اس سے عاقبتاً کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لئے دکھ دینے والا عذاب (تیار) ہے ۵

﴿سورة المائدہ آیت ۹۲﴾

۶۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے پھر (ان کی نافرمانیوں کے سبب) ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں ۵

تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے۔ مگر ان کے تودل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو (ان کی نظروں میں) آراستہ کر دکھاتا تھا ۵

﴿سورة الانعام آیت ۲۲-۲۳﴾

۷۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بیشک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے ۵

﴿سورة الانعام آیت ۱۶۵﴾

۸۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ

۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسُوْا لَكُمْ اللهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصِّدْقِ تَنَالَةً  
أَيُّدِيكُمْ وَمَا حَكْمُ لِيَعْلَمَ اللهُ مَن تَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَن  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۶- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَ  
الصَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۝ فَلَئَآ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا  
تَضَرَّعُوا وَ لَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۷- وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَآِيفَ الْآرْضِ وَ رَفَعَهُ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَسُوْا لَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ  
الْعِقَابِ ۚ وَ إِنَّهُ لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۸- وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ ۚ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ  
أَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

۹- أَوْلَادُ يَتَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ  
لَا يَتُوبُونَ وَ لَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

۱۰- فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

کہ خدا کے پاس (نیکوں کا) بڑا ثواب ہے ۵

﴿سورة انفال آیت ۲۸﴾

۹۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیئے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں ۵

﴿سورة التوبہ آیت ۱۲۶﴾

۱۰۔ تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال ۵

اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش ۵

﴿سورة یونس آیت ۸۶﴾

۱۱۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لئے آزمائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الکہف آیت ۷﴾ ---

۱۲۔ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی (زندگی میں) آزمائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پروردگار کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے ۵

--- ﴿سورۃ طہ آیت ۱۳۱﴾ ---

۱۳۔ ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے ۵

--- ﴿سورۃ انبیاء آیت ۳۵﴾ ---

۱۴۔ اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر (کھڑا ہو کر) خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی (دنیاوی) فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے (یعنی پھر کافر ہو جائے) اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی تو نقصان صریح ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۱۱﴾ ---

۱۵۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ (صرف) یہ کہنے سے کہ

وَجَعَلْنَا بَرَكَّتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۵

۱۱۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ رِبْحًا لِّهَا لِيَتْلُوهُمْ اَنْهُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۵

۱۲۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِیْهَا وَرِزْقٌ رَّبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْسَطُ ۵

۱۳۔ كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ لِّلْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالْشَرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ۵ وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۵

۱۴۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّبْعُدُ اللّٰهَ عَنِ حَرْفٍ ۵ فَاِنْ اَصَابَتْهُ حَيْرٌ اِطْمَآنَ بِهِ ۵ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلٰی وَجْهِهِ ۵ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ۵ ذٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ السَّيِّئُ ۵

۱۵۔ اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يُّزَكَّوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۵ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لْيَعْلَمَنَّ الَّذِيْنَ كٰذَبُوْا ۵

۱۶۔ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَاكَ ثُمَّ اِذَا حُوْلُوْهُ نِعْمَةً وَّ نَعْلًا ۵

ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی ۵

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا (اور ان کو بھی آزمائیں گے) سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو (اپنے ایمان میں) سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۲۳﴾ ---

۱۶۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔

پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو

کہتا ہے کہ یہ تو مجھے (میرے) علم (ودانش) کے سبب ملی ہے  
(نہیں) بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے ۵  
جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے تو جو کچھ وہ  
کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا ۵

ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے اور جو لوگ ان میں سے ظلم  
کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں  
گے اور وہ (خدا کو) عاجز نہیں کر سکتے ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۲۹﴾ ۵۱ ---

۱۷۔ وہ (خدا) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت  
والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۵

اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے  
کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست (اور) بخشنے  
والا ہے۔ اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے ۵

--- ﴿سورة الملك آیت ۳۱﴾ ---

۱۸۔ مگر انسان (عجیب مخلوق ہے کہ:) جب اس کا پروردگار اس کو

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ بَلْ هِيَ قِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ  
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۖ وَالَّذِينَ  
ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۖ وَمَا هُمْ  
بِمُعْجِزِينَ ۝

17- تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ  
18- قَالَتَا لِلإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ ۖ  
فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ وَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ  
رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ



آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشا ہے تو کہتا ہے کہ

(آبا) میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی ۵

اور جب (دوسری طرح) آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا

ہے تو کہتا ہے کہ (ہائے) میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا ۵

--- ﴿سورة النجم آیت ۱۶﴾ ---



مزید حوالے: ۳۹-۱۰۲-۱۲۳-۲۱- آل عمران: ۴-۱۳۰-۱۵۲-۱۵۳-۱۴۵-۱۴۸- السماء: ۶-۱۰۲-۹- المائدہ: ۲۸-۱- الانعام: ۲۳-۵۳-

الاعراف: ۲۴-۱۵۵-۱۲۳-۱۶۸- الانفال: ۱۴-۳۹-۳۷-۱۶- التوبہ: ۱۶-۳۷-۳۹-۵۵- یونس: ۲۱-۳۰-۸۳- ہود: ۱۴- ابراہیم: ۶- النحل: ۹۲-۱۱۰-

بنی اسرائیل: ۶۰-۷۳- طہ: ۳۰-۸۵-۹۰- الانبیاء: ۱۱۱- الحج: ۵۳- المؤمنون: ۳۰- النور: ۶۳- الفرقان: ۲۰- النمل: ۳۰-۳۷- العنکبوت: ۱۰-

الاحزاب: ۱۱-۱۴- الصافات: ۶۳-۱۰۶-۱۶۲- ص: ۲۳-۲۴-۳۳- الدخان: ۱۷-۳۲- محمد: ۳-۳۱- الزاریات: ۱۳-۱۴- القمر: ۲۴- الحجر: ۱۳- المتحفہ: ۵-

التغابن: ۱۵- القلم: ۶-۱۷- الجن: ۱۶-۱۷- المدثر: ۳۱- البروج: ۱۰- الطارق: ۹-

## اشحاد

۱۔ (پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو خدا نے (انکی طرف) بشارت دینے والے اور ڈرسانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی نہیں تھے ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودیکہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھادی اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے ۵

— ﴿سورة البقرہ آیت ۱۳۳﴾ —

۲۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اہل کتاب نے جو (اس دین سے) اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا (اور سزا دینے والا) ہے ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۱۹﴾ —

۳۔ اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک

۱۔ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِيْنَ  
وَمُنذِرِيْنَ ۗ وَانزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ  
فِيْ مَا اختلفُوْا فِيْهِ ۗ وَ مَا اختلفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اوتُوْهُ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا يَنْهٰهُمْ ۗ فَهَدٰى اللّٰهُ  
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اختلفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ  
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

۲۔ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا اختلفَ الَّذِيْنَ  
اوتُوْا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَنْهٰهُمْ ۗ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْبَيِّنٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

۳۔ وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ۗ وَ لَا تَفَرَّقُوْا ۗ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ  
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءًا فَآلَفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ  
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا ۗ وَ كُنْتُمْ عَلٰى حَفْرَةٍ  
مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

۴۔ وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُّسْتَقِيْمًا فَالْبَعُوْهُ ۗ وَ لَا تَتَّبِعُوْا

دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچالیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنااتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۱۰۳﴾ —

۴۔ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ۔ مگر

## اشحاد

۱۔ (پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو خدا نے (انکی طرف) بشارت دینے والے اور ڈرسانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی نہیں تھے ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودیکہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھادی اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے ۵

— ﴿سورة البقرہ آیت ۱۳۳﴾ —

۲۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اہل کتاب نے جو (اس دین سے) اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا (اور سزا دینے والا) ہے ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۱۹﴾ —

۳۔ اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک

۱۔ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَّ مُبَشِّرِيْنَ  
وَمُنذِرِيْنَ ۗ وَانزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ  
فِيْ مَا اختلفُوْا فِيْهِ ۗ وَ مَا اختلفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اوتُوْهُ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَعِيًّا يَّتَّبِعُوْنَ ۗ فَهَدٰى اللّٰهُ  
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اختلفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ  
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

۲۔ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَ مَا اختلفَ الَّذِيْنَ  
اوتُوْا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا يَّتَّبِعُوْنَ ۗ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْبَيِّنٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

۳۔ وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ۗ وَ لَا تَفَرَّقُوْا ۗ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ  
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً ۗ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ  
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا ۗ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ  
مِّنَ النَّارِ ۗ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يَبِيْنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

۴۔ وَ اِنَّ هٰذَا صِرٰطِيْ مُّسْتَقِيْمًا ۗ فَالْبَعُوْهُ ۗ وَ لَا تَتَّبِعُوْا

دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت و ال  
دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے  
گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے  
بچالیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنااتا ہے  
تاکہ تم ہدایت پاؤ ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۱۰۳﴾ —

۴۔ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں  
پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ۔ مگر



ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پر ہیزگار بنو

— ﴿سورة الانعام آیت ۱۵۳﴾ —

۵۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت سے) رستے نکالے اور کئی کئی فرتے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا

— ﴿سورة الانعام آیت ۱۵۹﴾ —

۶۔ اور (ان میں ایسے بھی ہیں) جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کیلئے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھا کیجئے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

— ﴿سورة التوبة آیت ۱۰۷﴾ —

۷۔ اور (سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر) تھے پھر جدا جدا ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا

— ﴿سورة يونس آیت ۱۹﴾ —

۸۔ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس (کے) اختیار کرنے) کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی (اے محمد) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا (وہ یہ) کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَضَعَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۵۔ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَقَوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيْعًا لَّمْ يَكُنْ فِيْ سَبِيْلِ ۙ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝  
۶۔ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَ كُفْرًا وَ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ رِضًا دَالِيْنَ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ۙ وَ كَيْلِفِيْنَ اِنْ اَرَدْنَا ۙ اِلَّا الْحُسْبٰى ۙ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

۷۔ وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۗ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضٰى بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝  
۸۔ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَضٰى بِهِ نُوْحًا وَ الَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَ مَا وَضٰينَا بِهِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوسٰى وَ عِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ ۙ اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَ يَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلا تے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے

— ﴿سورة الشورى آیت ۱۳﴾ —

۹۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق

میں مساوات کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو کہ  
خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۵

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح  
کرادیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تا کہ تم پر رحمت کی جائے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۰۹﴾ ---

۱۰۔ اور اہل کتاب جو متفرق (و مختلف) ہوئے ہیں تو دلیل واضح  
کے آنے کے بعد (ہوئے ہیں) ۵

--- ﴿سورة البینة آیت ۴﴾ ---

## اجر

۱۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست (یعنی  
کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو) جو خدا اور روز قیامت پر ایمان  
لائے گا اور عمل نیک کریگا تو ایسے لوگوں کو ان (کے اعمال)  
کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کسی  
طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۶۲﴾ ---

۲۔ اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس

۹۔ وَ اِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
فَاِنْ بَغْتُمْ اِحْدَهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبَغَى حَتَّى  
تَقْبَلَ إِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاَعْتُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۵  
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَانِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۵

۱۰۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اٰتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ  
الْبَيِّنَةُ ۵

۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالتَّوَّابِيْنَ وَالصَّابِرِيْنَ مَنْ  
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ ۵ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۵

۲۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَ قَضٰى ۵ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ  
اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۵ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْ  
بَعْدِ مَا اٰصَابَهُمُ الْقَرْحَةُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَلُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقُوا

سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ۵

جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول (کے حکم)

کو قبول کیا۔ جو لوگ ان میں نیکو کار اور پرہیزگار ہیں ان کے

لئے بڑا ثواب ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۷۱﴾ ---

۳۔ تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۷۹﴾ ---

۴۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک (مصر) میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ۵ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لئے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ۵

--- ﴿سورة يوسف آیت ۵۷﴾ ---

۵۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لئے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ (اسے) جانتے ۵

یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵

--- ﴿سورة العنکبوت آیت ۵۸﴾ ---

۶۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جنکے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ (نیک) عمل کرنے والوں کا (یہ) خوب بدلہ ہے ۵

--- ﴿سورة النمل آیت ۴۱﴾ ---

أَجْرٌ عَظِيمٌ

3- فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تَوَمَّنُوا وَتَنَقَّوْا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

4- وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ يَتَّبِعُوا مِنهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ۚ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۚ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ

5- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۚ

6- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُم فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

7- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ

8- وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَلْغَرْعَنَّا سِتَاتِهِ وَيَعْظُمَ لَهُ أَجْرًا ۚ

۷۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لئے

(ایسا) ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو ۵

--- ﴿سورة حم السجده آیت ۸﴾ ---

۸۔ اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا ۵

--- ﴿سورة الطلاق آیت ۵﴾ ---



## احسان

۱۔ اور نیکی کرو بیشک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۹۵﴾ ---

۲۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۶﴾ ---

۳۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۱۲۰﴾ ---

۴۔ جن لوگوں نے نیکو کاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور

(مزید برآں) اُذربھی۔ اور ان کے مونہوں پر نہ تو سیاہی چھائے

گی اور نہ رسوائی یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۲۶﴾ ---

۵۔ خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ

سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی اور نامعقول

کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور) تمہیں نصیحت

کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۹۰﴾ ---

۶۔ اگر تم نیکو کاری کرو گے تو اپنی جانوں کیلئے کرو گے اور اگر

اعمال بد کرو گے تو (انکا) وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۷﴾ ---

1- وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۵

2- إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۵

3- إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۵

4- لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ

قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۵

5- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ۵

6- إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ

7- وَيَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ لِيُعْزِيَ الَّذِينَ

أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُعْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۚ

8- هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكْفَرِينَ ۵



۷۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب

خدا ہی کا ہے (اور) (اس نے خلقت کو) اسلئے (پیدا کیا ہے)

کہ جن لوگوں نے برے کام کئے ان کے اعمال کا (برا) بدلہ

دے اور جنہوں نے نیکیاں کیں انکو نیک بدلہ دے ۵

--- ﴿سورة النجم آیت ۳۱﴾ ---

۸۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے ۵

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ۵



## اذان

۱۔ مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو خدا کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خرید و فروخت ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے) ۰

﴿سورة الجمعة آیت ۹﴾

## ارتکازِ دولت

۱۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے انکو اس دن کے عذاب الیم کی خبر سنا دو ۰ جس دن وہ (مال) دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائیگا پھر اس سے ان (بخیلوں) کی پیشانیاں اور پہلو اور پٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا کہ) یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اسکا مزہ چکھو ۰

﴿سورة التوبة آیت ۳۴﴾

۲۔ ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے ۰ جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے ۰ اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ۰ ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا ۰ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے ۰

۱۔ یا ایہا الذین آمنوا إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ۰

۱۔ والذین یکتزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم ۰ یوم یحیی علیہا فی نار جهنم فتکلی بہا جہنم و جنوہم وظہورہم ۰ ہذا ما کنتم لانیسکم قدوقوا ما کنتم تکتزون ۰

۲۔ ویل لکل ہمزہ لہمزہ ۰ الذی جمع مالا وعددہ ۰ یحسب ان ماله اخلدہ ۰ کلا لیبذت فی الحطبہ ۰ وما ادریک ما الحطبہ ۰ نار الله الموقدہ ۰ الی تطلع علی الافدہ ۰ انہا علیہم مؤصدہ ۰ فی عبد ممددہ ۰

وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے ۰

جو دلوں پر جا لپٹے گی ۰

(اور) وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے ۰

یعنی (آگ کے) لمبے لمبے ستونوں میں ۰

﴿سورة الحمزہ ۹۶﴾

## احسان جتلانا

۱۔ جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا (کسی پر) احسان رکھتے ہیں اور نہ (کسی کو) تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس (تیار) ہے اور (قیامت کے روز) نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۵

جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور (اس کی بے ادبی سے) درگزر کرنا بہتر ہے اور خدا بے پرواہ (اور) بردبار ہے ۵

مومنو! اپنے صدقات (و خیرات) احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کرو دینا جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس (کے مال) کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا ایند برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ (اسی طرح) یہ (ریاکار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں

۱- الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ  
مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

قَوْلٍ مَّعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا  
أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَلِيمٌ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَىٰ ۗ  
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ فَبَشِّرْهُ بِسَلْةٍ كَبِيرَةٍ ۗ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَكَبٌ  
فَأَصَابَهُ وَالِيلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ  
وَمِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

۲- بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۗ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمُ  
بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ ۝

دیا کرتا ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۶۲ تا ۲۶۳﴾ ---

۲۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ  
اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو۔ بلکہ خدا تم پر احسان  
رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے  
(مسلمان) ہو ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۷﴾ ---

## أحوال قیامت

۱۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا ہدیہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ (کسی اور طرح) مدد حاصل کر سکیں ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۸﴾ ---

۲۔ اس دن (کفر کے) پیشوا اپنے پیروؤں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور (دونوں) عذاب الہی (دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے ۵

(یہ حال دیکھ کر) پیروی کر نیوالے (حسرت سے) کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۱۶۶﴾ ---

۳۔ اے ایمان والو جو (مال) ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہو۔ اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے۔ اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۵۴﴾ ---

۴۔ اور اس روز (اعمال کا) تلمانا برحق ہے۔ تو جن لوگوں کے (عملوں کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں ۵

۱- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ

۲- مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۵

۳- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۵

۴- وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ ۵

۵- وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مَنَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً ۵ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۵

۷- وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۵ فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ ۵ وَ مَن حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۵

۸- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۵ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۵ لَا يُجِيبُهَا لَوْفِيهَا إِلَّا هُوَ ۵ تَقَلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ

اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لئے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۹۸﴾ ---

۵۔ (یہ لوگ) تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آجائے گی یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس

سے بخوبی واقف ہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ۵

— ﴿سورة الاعراف آیت ۱۸۷﴾ —

۶۔ اور (مومنو) مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے۔ وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب کہ (دہشت کے سبب) آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ۵

(اور لوگ) سر اٹھائے ہوئے (میدان قیامت کی طرف) دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور انکے دل (مارے خوف کے) ہوا ہورہے ہوں گے ۵

اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آجائیگا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کرتا کہ ہم تیری دعوت (توحید) قبول کریں اور (تیرے) پیغمبروں کے پیچھے چلیں (تو جواب ملے گا) کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو (اس حال سے جس میں تم ہو) زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا ۵

— ﴿سورة ابراہیم آیت ۲۳۲﴾ —

۷۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) خدا کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے۔ اس لئے کہ شرارت کیا کرتے تھے ۵

اور (اس دن کو یاد کرو) جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے اور (اے پیغمبر) تم کو ان لوگوں پر گواہ

وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَعْتَةً ۖ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ  
عَنَّا ۖ قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُونَ ۝

۶۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَنَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۙ  
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيُوزِيَ قَتْلَهُمْ فِيهِ الْآبْصَارُ ۙ  
مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ  
وَأَفِيدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۙ وَأَذِيرُ النَّاسِ يَوْمَ يُأْتِيهِمُ الْعَذَابُ  
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نَحْنُ  
دَعَوْنَاكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ ۖ أَوْ لَمْ نَكُنْ لَوْ أَنفُسُنَا مِن قَبْلُ  
مَا لَكُم مِّن رَّوَالٍ ۙ

۷۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا  
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ  
أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ  
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۖ وَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ  
وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً ۖ وَبُخْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۙ

لائیں گے۔ اور ہم نے تم پر (ایسی) کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان (مفصل) ہے اور مسلمانوں کیلئے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ۵

— ﴿سورة النحل آیت ۸۸ ۸۹﴾ —

۸۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو (بہ صورت کتاب) اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اور قیامت کے روز (وہ) کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا ۵

(کہا جائے گا کہ) اپنی کتاب پڑھ لے۔ تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے ۵

— ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱۳﴾ —



۹۔ اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ اندھے گونگے اور بہرے (بنا کر) اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب (اس کی آگ) بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو (عذاب دینے کیلئے) اور بھڑکا دیں گے ۵

یہ ان کی سزا ہے اس لئے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم (مر کر بوسیدہ) ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ ۵

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۹۷-۹۸﴾

۱۰۔ جس روز ہم پر ہیبت گاروں کو خدا کے سامنے (بطور) مہمان جمع کریں گے ۵ اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیا سے ہانک لے جائیں گے ۵ (تو لوگ) کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو ۵

﴿سورۃ مریم آیت ۸۷-۸۸﴾

۱۱۔ قیامت یقیناً آئیوالی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس (کے وقت) کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اسکا بدلہ پائے ۵

﴿سورۃ طٰ آیت ۱۵﴾

۱۲۔ جس روز صور پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی ۵ (تو) وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم (دنیا میں) صرف دس ہی دن رہے ہو ۵

﴿سورۃ طٰ آیت ۱۰۲-۱۰۳﴾

۱۳۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے

۸۔ وَكَلَّ إِنْسَانَ الزَّمَنَةَ طَيِّرَةً فِي عُقْبِهِ ۖ وَخَرَّجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۖ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِمَفْصِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

۹۔ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۖ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَذَابًا وَعِقَابًا ۖ وَأَوْتَاهُمْ مَا وَوَدَّاهُمْ ۖ كُلَّمَا حَبَتِ رِدْدُهُمْ سَعِيرًا ۖ ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَآ إِلَهَ إِلَّا مَا عَزَّمْنَا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝

۱۰۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدًا ۖ وَنَسُوقُ الْجَائِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا ۖ لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

۱۱۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ۖ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِلَّذِي كُلُّ نَفْسٍ بِهَا سَعِي ۝

۱۲۔ يَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ وَيَحْشُرُ الْجَائِمِينَ يَوْمَئِذٍ رُزْقًا ۖ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝

دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں ۵

﴿سورۃ الانبیاء آیت ۲۷﴾

۱۳۔ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں جس طرح ہم نے (کائنات کو) پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے (یہ) وعدہ (ہے) جس کا پورا کرنا (لازم ہے) ہم (ایسا) ضرور کریں گے ۵

﴿سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۳﴾

۱۵۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے ۵

13- وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَلَّمْنَا بَنَاتِ حَيْبِينَ ۝

14- يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّبِ السِّجِّيلِ لِلْكُتُبِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدَا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

15- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَكَانَ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلٍ حَمْلًا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

16- قَتَلْنَا عَنْهُمْ يُومَ يَذُرُّ الذَّارِعُ إِلَىٰ شَيْءٍ لَّكَرٍهُ خُفْعَةً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۝

17- لَنْ تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ ۖ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ يَقِصِلُ بَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

18- لَا أَقِيمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۖ أَيَسْبَبُ الْإِنْسَانُ لَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ۖ بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ

(اے مخاطب) جس دن تو اسکو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیگی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ (عذاب) دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہونگے) بیشک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے ۝

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۲۱﴾ ---

۱۶۔ تو تم بھی ان کی کچھ پروا نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا ۝

تو آنکھیں نیچی کئے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں ۝

اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے ۝

--- ﴿سورۃ القمر آیت ۸۶﴾ ---

۱۷۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے ۝

--- ﴿سورۃ المستحذ آیت ۳﴾ ---

۱۸۔ ہم کو روز قیامت کی قسم ۝ اور نفس لوامہ کی (کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کئے جائیں گے) ۝ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی (بکھری ہوئی) ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے ۝

ضرور کریں گے (اور) ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں ۝

مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے ۝

پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ ۝

جب آنکھیں چندھیا جائیں ۝

اور چاند گہنا جائے ۝

اور سورج اور چاند جمع کر دیئے جائیں ۝

اس دن انسان کہے گا کہ (اب کہاں بھاگ جاؤں)؟ ۝

بیشک کہیں پناہ نہیں ۝

اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے ۝

اس دن انسان کو جو (عمل) اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے

چھوڑے ہونگے سب بتا دیئے جائیں گے ۝

--- ﴿سورۃ القیمہ آیت ۱۳۲﴾ ---

۱۹۔ (وہ دن آ کر رہے گا) جس دن زمین کو بھونچال آئیگا  
 پھر اس کے پیچھے اور (بھونچال) آئے گا  
 اس دن (لوگوں کے) دل خائف ہو رہے ہوں گے  
 (اور) آنکھیں جھکی ہوئی

— سورة النازعات آیت ۶ تا ۹ —

۲۰۔ تو جب (قیامت کا) غل مچے گا  
 اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا  
 اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے  
 اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے  
 ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے (مصروفیت کیلئے) بس  
 کرے گا

اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے  
 خنداں و شاداں (یہ نیکو کار ہیں)  
 اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی  
 (اور) سیاہی چڑھ رہی ہوگی  
 یہ کفار بدکردار ہیں

— سورة یحس آیت ۲۲ تا ۲۳ —

۲۱۔ جب سورج پلٹ لیا جائے گا  
 اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے  
 اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے  
 اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی  
 اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں گے

كُوفَى بَنَاتِهِ ۚ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانَ لِيَفْجَرَهُ أَمَامَهُ ۚ يَسْئَلُ  
 آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَإِذَا يَرَى الْبَصَرَ ۚ وَخَسَفَ الْقَمَرَ ۚ وَ  
 جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْزَرُ ۚ  
 كَلَّا لَا وَزَرَ ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۚ يَنْبَغُوا الْإِنْسَانَ  
 يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۚ

19- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۚ تَتَّبِعَهَا الذَّادِقَةُ ۚ قُلُوبٌ  
 يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۚ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۚ

20- فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۚ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمُّهُ  
 وَأَبْنَاهُ ۚ وَصَاحِبَتَهُ وَبَنِيهِ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم يَوْمَئِذٍ  
 شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۚ صَاحِكَةٌ  
 مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۚ تَرْهَقُهَا  
 قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْقَهْرَةَ ۚ

21- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۚ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۚ وَإِذَا الْجِبَالُ  
 سُيِّرَتْ ۚ وَإِذَا الْعُشَّارُ عُطِّلَتْ ۚ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۚ  
 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۚ وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ ۚ وَإِذَا

اور جب دریا آگ ہو جائیں گے  
 اور جب روئیں (بدنوں سے) ملادی جائیں گی  
 اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنادی گئی ہو پوچھا جائیگا  
 کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی؟  
 اور جب (عملوں کے) دفتر کھولے جائیں گے  
 اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی  
 اور جب دوزخ (کی آگ) بھڑکائی جائے گی  
 اور بہشت جب قریب لائی جائے گی  
 تب ہر شخص معلوم کرے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے

اور زمین اپنے (اندر کے) بوجھ نکال ڈالے گی

اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟

اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی

کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا (ہوگا)

اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو انکے اعمال دکھادیے جائیں

تو جس نے ذرہ بھریگی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا

اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا

— ﴿سورة الزلزال آیت ۸۲﴾ —

۲۳۔ کھڑکھڑانے والی

کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟

اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟

(وہ قیامت ہے) جس دن لوگ ایسے ہونگے جیسے بکھرے ہوئے پتھے

اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ڈھکی ہوئی رنگ برنگ کی اون

تو جس کے (اعمال کے) وزن بھاری نکلیں گے

وہ دل پسند عیش میں ہوگا

اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے

اس کا مرجع ہاویہ ہے

الموءدة سبلت باني ذنوب قتلت واذا الصحف  
نشرت واذا السماء كسفت واذا الجحيم سعرت  
واذا الجنة ازلقت علبت نفس ما احضرت

22- اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زُلْزَالَهَا وَ اُخْرِجَتِ الْاَرْضُ  
اَنْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ  
اَحْبَارَهَا يَا اَنْ رَبِّكَ اَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يُصَدِّرُ النَّاسَ  
اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا  
يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

23- الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا اُذْرِكُهَا الْقَارِعَةُ  
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ  
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ  
فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَامَّهُ  
هَارِيَةٌ وَمَا اُذْرِكُهَا هِيَ نَارُ حَامِيَةٍ



اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟

(وہ دگتی ہوئی آگ ہے)

— ﴿سورة القارعة آیت ۱۱﴾ —



مزید مطالعہ: البقرہ: ۱۱۳-۱۱۸۔ آل عمران: ۹-۲۵-۳۰-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۹۔ الانعام: ۱۲-۱۴-۲۲-۳۱-۵۱-۱۳۰-۱۳۸۔

الاعراف: ۸-۹۔ التوبہ: ۱۰۵۔ یونس: ۲۳-۲۸-۳۵-۴۰۔ هود: ۱۰۲-۱۰۳۔ الرعد: ۵۔ ابراہیم: ۲۱-۲۳-۳۱-۳۱۔ الحج: ۸۵۔ النحل: ۲۷-۲۹-۳۷-۱۱۱۔

بنی اسرائیل: ۲۹-۳۹-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۔

الفرقان: ۱۸-۱۹۔ النمل: ۸۲-۸۳۔ القصص: ۶۲-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۔

الاحزاب: ۶۳-۶۸۔ سبا: ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۔

الاحقاف: ۲۰-۲۱۔ ق: ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۔

الانفطار: ۱۹۔ الانشقاق: ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۔

نیز دیکھئے: حیات بعد الموت۔ صور اسرائیل

## اخلاق

۱۔ اور جب تم کو کوئی دُعا دے تو (جواب میں) تم اس سے بہتر (کلمے) سے (اسے) دُعا دو یا انہیں لفظوں سے دُعا دو۔ بیشک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۸۶﴾ ---

۲۔ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہاں (اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۱۴﴾ ---

۳۔ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو۔ اور خدا (سب کچھ) سنتا (اور) جانتا ہے ۵

اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر۔ یا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کر نیوالا (اور) صاحب قدرت ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۴۸، ۱۴۹﴾ ---

۴۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۶﴾ ---

۱- وَإِذَا حُجِّتُمْ بِبَعْضِ آيَاتِنَا بِالْحَسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

۲- لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمْرٌ بَصَدَقَةٌ أَوْ مَعْرُوفٌ أَوْ إِصْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسِ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

۳- لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّعْرِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلَمَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

۴- إِن تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ لُغُفُوه أَوْ تَعَفَّوْا عَن سُوِّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝

۵- وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَبَعًا ۖ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

۶- لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

۷- اذْعُرْ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاوِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن

۵۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو (نوائے دنیاوی سے)

متمتع کیا ہے تم ان کی طرف (رغبت سے) آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور

نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع

سے پیش آنا ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۸۸﴾ ---

۶۔ (اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے

اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی

اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے راستے

سے بھٹک گیا۔ تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے

اور اگر تم انکو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنیوالوں کیلئے بہت اچھا ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۲۵﴾ ---

۷۔ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ ۵

کہ فضول خرچی کرنیوالے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار (کی نعمتوں) کا کفران کرنیوالا (یعنی ناشکرا) ہے ۵

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت (یعنی فراخ دستی) کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان (مستحقین) کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان

سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو ۵

اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا (یعنی بہت تنگ) کر لو (کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں) اور نہ بالکل کھول ہی دو (کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو) کہ ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۲۹۵﴾ ---

۸۔ اور جب (کوئی چیز) ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور (جب تول کر دو تو) ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو۔ یہ بہت اچھی

صل عن سبیلہم و هو اعلم بالہتدیین ۵ و ان عاقبتکم فعاقبوا بیئیل ما عوبتکم بہ ۵ و کن صبرکم لہو خیر للضیرین ۵

7- وَاِنَّ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهُۥ وَ السَّكِيْنَةَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تَبْدُرُ تَبْدِيْرًا ۵ اِنَّ الْمُبْدِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۵ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّہٖمۡ كَفُوْرًا ۵ وَ اِنَّمَا تُعْرَضُنَّ عَنْہُمْ اِنْتِغَاۗءَ رَحْمَۃٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْہَا فَقُلْ لَّہُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۵ وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلًاۙ اِلٰی عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُوْهَاۙ كُلَّ الْبَسُوْۙ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۵

8- وَ اَوْفُوْا الْكَيْلَۙ اِذَا كَلْتُمْ وَ رٰوُوْا بِالْقِسْطِ اِلَی الْمُسْتَقِيْمِۙ ذٰلِكَ حَبِيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۵ وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِہٖ عِلْمٌ ۵ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَادَۙ كُلٌّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْہُ مَسْئُوْلًا ۵ وَ لَا تَنۢبِۙ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۵ اِنَّكَ لَن تَخۢرُقَ الْاَرْضَ وَ لَنۢ تَبۡلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۵ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيۡئۡنَہٗ عِنۡدَ رَبِّكَ مَكْرُوٰہًا ۵

بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے ۵

اور (اے بندے) جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب (جوارج) سے ضرور باز پرس ہوگی ۵ اور زمین پر اکڑ کر (اور تن کر) مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں (کی چوٹی) تک پہنچ جائے گا ۵ ان سب (عادقوں) کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۲۸۵﴾ ---

۹۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ (لوگوں سے) ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں۔ کیونکہ شیطان (بری باتوں سے) ان میں فساد ڈلوادیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ۵

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۳﴾

۱۰۔ تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو ۵

﴿سورۃ الحج آیت ۳۰﴾

۱۱۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو ۵

﴿سورۃ المؤمنون آیت ۶۹﴾

۱۲۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ

اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ

جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہئے کہ

معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو

بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورۃ النور آیت ۲۲﴾

۱۳۔ مومنو تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ

کو نہیں پہنچے تین دفعہ (یعنی تین اوقات میں) تم سے اجازت

لیا کریں۔ (ایک تو) نماز صبح سے پہلے اور (دوسرے گرمی

کی) دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور (تیسرے) عشاء

۹۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ

يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝

۱۰۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

۱۱۔ اِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّبِيحَةَ ۝

۱۲۔ وَلَا يَأْكُلْ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِي الْقُرْبٰى

وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلْيُعْطُوْا وَلْيَنْصَحُوْا ۝

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۱۳۔ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاذِنْكُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

وَالَّذِيْنَ لَمْ يَلْبَسُوْا الْحِلْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ

صَلٰوةِ الْعَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ

بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۚ طَوَّفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى

بَعْضٍ ۚ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

۱۴۔ وَعِبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَسْتَوْنَ عَلٰى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا

خَاطَبُوْهُمْ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

کی نماز کے بعد (یہ تین) (وقت) تمہارے پردے (کے)

ہیں۔ ان کے (آگے) پیچھے (یعنی دوسرے وقتوں میں) نہ تم پر

کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ (کام کاج کے لیے) ایک دوسرے

کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر

بیان فرماتا ہے اور خدا بڑا علم والا (اور) بڑا حکمت والا ہے ۵

﴿سورۃ النور آیت ۵۸﴾

۱۳۔ اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے

ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو

﴿سورة الفرقان آیت ۶۳﴾

۱۵۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال تم کو سلام۔ ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں ۵

﴿سورة القصص آیت ۵۵﴾

۱۶۔ اور اہل کتاب سے جھگڑانہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو۔ ہاں جو ان سے بے انصافی کریں (ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو) اور کہہ دو کہ جو (کتاب) ہم پر اتری اور جو (کتا میں) تم پر اتریں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں ۵

﴿سورة العنکبوت آیت ۲۶﴾

۱۷۔ اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا ۵ اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا اور (بولتے وقت) آواز نیچی رکھنا کیونکہ (اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ) سب سے بری آواز گدھوں کی ہے ۵

﴿سورة لقمان آیت ۱۹﴾

۱۸۔ اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی

۱۵۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُكُمْ

أَعْمَالُكُمْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۵

۱۶۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا

وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَمَّا وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۵

۱۷۔ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ

مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ وَاقْصِدْ فِي

مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَاتِ

لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۚ

۱۸۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا فَمِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ

صَالِحًا ۚ قَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۵ وَلَا

تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

وَدِّي حَمِيمٌ ۵ وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ

وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ۵ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ

طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں ۵

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو (سخت کلامی کا) ایسے

طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو

گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست

ہے ۵

اور یہ بات ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے

والے ہیں

اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں ۵



اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ بیشک وہ سنتا جانتا ہے ۵

--- سورة حم السجده آیت ۳۶-۳۳ ---

۱۹۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں ۵ اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۵

اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم (و تعدی) ہو تو (مناسب طریقے سے) بدلہ لیتے ہیں ۵

اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور (معاملے کو) درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۵

اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں ۵

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک

مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَأَسْعِدُ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

19- وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۖ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۗ وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۗ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۗ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَمَنِ صَبَرَ وَعَفَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۗ

20- فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۗ

21- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا

والاعذاب ہوگا ۵

اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں ۵

--- سورة الشوری آیت ۳۷-۳۳ ---

۲۰۔ تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو۔ ان کو عنقریب (انجام) معلوم ہو جائے گا۔

--- سورة الزخرف آیت ۸۹ ---

لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برنامہ رکھو ایمان لانے کے بعد برنامہ (رکھنا) گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں ۵

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ (تو غیبت نہ کرو) اور خدا کا ڈر رکھو۔ بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحجرات آیت ۱۲﴾ ---

۲۲۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بیشک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ النجم آیت ۳۲﴾ ---

قِنَّهِنَّ ۚ وَلَا تَكْفُرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ  
بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي سُوِّقَ بِهَا الْإِيمَانُ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بِنَبِّ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا  
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۚ وَلَا تَجَسَّسُوا  
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ  
أَخِيهِ مِمَّا فَكَرَهُهُ مَوْتُهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ  
رَّحِيمٌ ۝

22- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ كَلِمَةَ الرَّائِيَةِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ  
إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ فَلَا  
تُرْكَبُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

23- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ  
فَانفَسِحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاثْرُوا  
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

۲۳۔ مومنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو خدا تم کو کشادگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ المجادلہ آیت ۱۱﴾ ---

۲۴۔ اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی

بخشنے والا مہربان ہے ۰

﴿سورة التغابن آیت ۱۴﴾

## اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ (اے محمدؐ) خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بد خو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لئے (خدا سے) مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو اور جب (کسی کام کا) عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو۔ بیشک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۰

﴿سورة آل عمران آیت ۱۵۹﴾

۲۔ (لوگو) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہربان ہیں ۰

پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں (اور نہ مانیں) تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے ۰

﴿سورة التوبة آیت ۱۲۸﴾

۲۔ اور (اے محمدؐ) ہم نے تمکو جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ۰

﴿سورة الانبیاء آیت ۱۰۷﴾

24- وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۰

۱- فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ وَكَوْنَتْ فِتْنًا غَلِيظًا  
الْقَلْبَ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۰

2- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۰ فَإِنْ  
تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۰

3- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۰

4- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۰

5- ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۰ مَا أَنْتَ بِعِزَّةٍ رَّحِيمٍ ۰

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ۰

۳۔ اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش

آؤ ۰

﴿سورة الشعراء آیت ۲۱۵﴾

۵۔ ن۔ قلم کی اور جو (اہل قلم) لکھتے ہیں اس کی قسم ۰

کہ (اے محمدؐ) تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو ۰

اور تمہارے لئے بے انتہا اجر ہے ۰

اور تمہارے اخلاق بڑے (عالی) ہیں ۰

﴿سورة القلم آیت ۲۲۱﴾

اخلاق حزیہ حوالے: بنی اسرائیل ۳۱-۳۳۔ الکہف ۲۳-۲۴۔ طہ ۱۳۱۔ الاحقاف ۱۵۔ المعارج ۳۲-۳۵۔ المدثر ۷۳۔

التازعات ۳۰-۳۱۔ البلد ۱۲-۱۷۔ الشمس ۹۔ الیل ۷۵۔ النبی ۱۱۹۔ الزلزال ۷-۸۔

نیز دیکھیے: حسن سلوک

## آداب گفتگو

۱۔ اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۸۳﴾ ---

۲۔ اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا اور (بولتے وقت) آواز نیچی رکھنا کیونکہ (اوپنی) آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ) سب سے بری آواز گدھوں کی ہے ۵

--- ﴿سورة لقمان آیت ۱۹﴾ ---

۳۔ مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور خدا سے جس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہنا ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۹﴾ ---

## آداب مجلس

۱۔ مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں میں گھروالوں سے اجازت لئے اور ان کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ) شاید تم یاد رکھو ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۷﴾ ---

۱۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

۲۔ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ الْأَكْر

الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَيْرِ ۝

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَّجَرَّجُوا بِالْأَلْسِنِ

وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ

وَأَقْبُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝



۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى

تَسْتَأْذِنُوا ۚ وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ۝

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ

فَانفَسِحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

۲۔ مومنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل

بیٹھا کرو خدا تم کو کشادگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے

ہو تو اٹھ کھڑے ہو کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں

اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا اور

خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۱﴾ ---

## آزادی فکر و مذہب

دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا (سب کچھ) سنا اور (سب کچھ) جانتا ہے۔

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵۶﴾ ---

۱۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں ۰

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۱۰۰، ۹۹﴾ ---

## استعانت

سب طرح کی تعریف خدا ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے ۰

بڑا مہربان نہایت رحم والا ۰

انصاف کے دن کا حاکم ۰

(اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ۰

اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ۰

--- ﴿سورۃ الفاتحہ آیت ۳۲﴾ ---

۲۔ اور (رنج و تکلیف میں) صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بیشک نماز

1- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ كَبَّيْنَا الرُّشْدَ مِنَ النِّعَةِ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ ۝  
2- وَكَوْشَاءَ رَبِّكَ لِأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَلَّتْ تَكْدِرُهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝



1- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝  
2- وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَانْهٰا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَلْطَمُوْنَ اَنْفَهُمْ مَّلَقُوْا رِيْهَهُمْ وَاَنْهَهُم اِلَيْهِمْ رٰجِعُوْنَ ۙ  
3- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

گراں ہے مگر ان لوگوں پر (گراں نہیں) جو عجز کرنے والے ہیں ۰

جو یقین کئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۶۲﴾ ---

۳۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بیشک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۵۳﴾ ---

## استقامت

۱۔ اے اہل ایمان (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور (موجوں پر) جسے رہو۔ اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو ○

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۲۰۰﴾ ---

۲۔ سو (اے پیغمبر) جیسا تم کو حکم ہوتا ہے (اس پر) تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو اور حد سے تجاوز نہ کرنا وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے ○

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۱۱۲﴾ ---

۳۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے۔ ان پر فرشتے اتریں گے (اور کہیں گے) کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ ○

ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی (تمہارے رفیق ہیں) اور وہاں جس (نعمت) کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لئے موجود ہوگی ○

(یہ) بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے ○

--- ﴿سورۃ حم السجدہ آیت ۳۲﴾ ---

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (یہ) اس کا بدلہ

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

۲- فَاسْتَقِمُّوا كَمَا أَمَرْتُمْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

۳- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ بِالْآيَاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ تَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝

۴- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۵- وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

(ہے) جو وہ کیا کرتے تھے ○

--- ﴿سورۃ الاحقاف آیت ۱۴﴾ ---

۵۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کئے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کیساتھ تسبیح کیا کرو ○

اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو ○

--- ﴿سورۃ الطور آیت ۳۹﴾ ---

مزید حوالے: آل عمران: ۱۰۱-۱۰۳۔ النساء: ۱۷۵۔ التوبہ: ۸۔ یونس: ۸۹۔ حم السجدہ: ۶۔ الشوری: ۱۵۔ الزخرف: ۲۳۔

الدخان: ۵۹۔ الاحقاف: ۳۵۔ القم: ۳۸۔ العارج: ۵۔ الجن: ۱۶۔ المومل: ۱۰-۱۱۔ الطور: ۲۷-۲۸۔

نیز دیکھئے: صبر

## اسلام

۱۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے

﴿سورة آل عمران آیت ۱۹﴾---

۲۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا

﴿سورة آل عمران آیت ۸۵﴾---

۳۔ آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا

﴿سورة المائدہ آیت ۴﴾---

۴۔ تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے

﴿سورة الانعام آیت ۱۲۶﴾---

۵۔ بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کیلئے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو (تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے) پس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی

۱۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

۲۔ وَ مَنْ يَتَمَنَّ عِنْدَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

۳۔ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ

رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

۴۔ فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِّلْاِسْلَامِ

وَ مَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاٰنَمَا

يَصْعَدُ فِي السَّمٰوٰتِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰى

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

۵۔ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِّلْاِسْلَامِ فَهَوْ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ فِي

صَلٰى مَبِيْنٍ

۶۔ يَمْشُوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لَا تَمْتُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِّلْاِيْمٰنِ اِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ

یا دوسے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں

﴿سورة الزمر آیت ۲۲﴾---

۶۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو

اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ خدا تم پر احسان

رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے

مسلمان ہو

﴿سورة الحجرات آیت ۱۷﴾---

مزید دیکھئے: امت مسلمہ

مزید دیکھئے: التوبہ: ۷۳

## اسماء و صفات باری تعالیٰ

۱۔ سب طرح کی تعریف خدای کو (سزاوار) ہے جو تمام مخلوقات

کا پروردگار ہے ۵

بڑا مہربان نہایت رحم والا ۵

انصاف کے دن کا حاکم ۵

--- ﴿سورة الفاتحة آیت ۳۲۱﴾ ---

۲۔ اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۳۱﴾ ---

۳۔ اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا (اور) حلم والا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۳۵﴾ ---

۴۔ خدا (وہ معبود برحق ہے کہ) اسکے سوا کوئی عبادت کے لائق

نہیں۔ زندہ۔ ہمیشہ رہنے والا۔ اسے نہ اولگھ آتی ہے نہ خیند جو کچھ

آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے

کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے

جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا

ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز

پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے (اسی قدر

معلوم کر دیتا ہے) اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین

سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ

بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے ۵

۵۔ وہ بڑی کشاکش والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۶۱﴾ ---

1- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مَلِكِ  
يَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

2- وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۙ

3- وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۙ

4- اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۙ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا  
نَوْمٌ ۙ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ

يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَّ مَا

خَلْفَهُمْ ۗ وَّ لَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ

وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضَ ۗ وَّ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهٗمَا ۗ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۙ

5- وَاللّٰهُ وَاَسَمِعُ عَلِيْمٌ ۙ

6- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۙ

7- وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو الْاَنْوَارِ ۙ

8- رَبَّنَا لَا تُؤْخِزْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَّ هَبْ لَنَا مِنْ

لَدُنْكَ رَحْمَةً ۙ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۙ

۶۔ الم ۵ خدا (جو معبود برحق ہے) اس کے سوا کوئی عبادت کے

لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۲۱﴾ ---

۷۔ اور خدا زبردست (اور) بدلہ لینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۲﴾ ---

۸۔ اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اسکے بعد

ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت

عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۸﴾ ---



۹۔ کہو کہ (اے خدا) (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ۵

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے

اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بیشمار رزق بخشا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۲۷﴾ ---

۱۰۔ اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۷۲﴾ ---

۱۱۔ بیشک خدا بخشنے والا (اور) بردبار ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۵۵﴾ ---

۱۲۔ اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۸۰﴾ ---

۱۳۔ بیشک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے

--- ﴿سورة النساء آیت ۸۶﴾ ---

۹۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَ تُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعِزِّ حِسَابٍ ۝

۱۰۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

۱۱۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

۱۲۔ وَ لِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

۱۳۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

۱۴۔ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۝ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكْدٌ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۝ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۝ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝ فَاعْبُدُوهُ ۝ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۝ وَ هُوَ

۱۲۔ (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (ہے) اس

کیلئے اولاد کہاں سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور اس نے

ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے ۵

یہی (اوصاف رکھنے والا) خدا تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے

سوا کوئی معبود نہیں (وہی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے) تو اسی کی

عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگران ہے ۵

(وہ ایسا ہے کہ) نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ

نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۰۳ تا ۱۰۱﴾ ---

۱۵۔ بیشک خدا زبردست (اور) سخت عذاب دینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۵۲﴾ ---

۱۶۔ اور خدا ہر چیز کا نگہبان ہے ۵

--- ﴿سورة هود آیت ۱۲﴾ ---

۱۷۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے ۵

--- ﴿سورة هود آیت ۵۷﴾ ---

۱۸۔ بیشک میرا پروردگار نیک (بھی ہے اور دعاء کا) قبول

کرنے والا (بھی) ہے ۵

--- ﴿سورة هود آیت ۶۱﴾ ---

۱۹۔ بیشک تمہارا پروردگار طاقت ور (اور) زبردست ہے ۵

--- ﴿سورة هود آیت ۶۶﴾ ---

۲۰۔ کہہ دو خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا (اور)

زبردست ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۱۶﴾ ---

۲۱۔ اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا

بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ

سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا

جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱۱۱﴾ ---

يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

15- اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدٌ الْعِقَابِ ۝

16- وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

17- اِنَّ رَبِّيْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

18- اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝

19- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝

20- قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

21- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

شَرِيْكٌ فِى الْمَلِكِ وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وِثْقٌ مِّنَ الدُّلٰلِ

وَلِكِبْرَةٌ تَكْبِيْرًا ۝

22- وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

23- قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَتِ رَبِّيْ لَنَفَذَ الْبَعْرُ قَبْلَ اَنْ

تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّيْ وَّلَوْ جِئْنَا بِغُلٰهٖ مَدَدًا ۝

24- اِنَّمَا إِلٰهَ الْكَرْمِ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۝

25- فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۝

۲۲۔ اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة الکہف آیت ۲۵﴾ ---

۲۳۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے

کے) لئے سیاہی ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام

ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں ۵

--- ﴿سورة الکہف آیت ۱۰۹﴾ ---

۲۴۔ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے

--- ﴿سورة الکہف آیت ۱۱۰﴾ ---

۲۵۔ تو خدا جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے

--- ﴿سورة طٰ آیت ۱۱۳﴾ ---

۲۶۔ بیشک خدا ہر چیز سے باخبر ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۱۷﴾ ---

۲۷۔ بیشک خدا معاف کر نیوالا اور بخشنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۶۰﴾ ---

۲۸۔ اور اس لئے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۶۲﴾ ---

۲۹۔ بیشک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۶۵﴾ ---

۳۰۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو

وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۷۸﴾ ---

۳۱۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی

ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک

قندیل میں ہے اور قندیل (ایسی صاف شفاف ہے کہ)

گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت

کا تیل جلا دیا جاتا ہے (یعنی) زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے

نہ مغرب کی طرف (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) اس کا تیل خواہ

آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے (بڑی) روشنی پر روشنی

(ہو رہی ہے) خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ

دکھاتا ہے اور خدا (جو) مثالیں بیان فرماتا ہے (تو) لوگوں کے

26- إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

27- إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝

28- وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

29- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

30- فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ

مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

31- اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهَا كَيْفَ نُورُهَا فِيهَا مِصْبَاحٌ

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ

مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي

اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

32- لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ

وَالْيَوْمَ تُرْجَعُونَ ۝

33- فَانظُرْ إِلَىٰ الرَّحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْنِي الِأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ

سمجھانے کے لئے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ النور آیت ۳۵﴾ ---

۳۲۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات (پاک) کے

سوا ہر چیز فنا ہو نیوالی ہے اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ

کر جاؤ گے ۵

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۸۸﴾ ---

۳۳۔ تو (اے دیکھنے والے) خدا کی رحمت کی نشانیوں

کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اسکے مرنے کے

بعد زندہ کرتا ہے بیشک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے

- 34- إِنَّ ذَلِكَ لَمَعْنَى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
 35- وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ۝  
 36- وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۝  
 37- يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ  
 الْحَمِيدُ ۝  
 38- رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝  
 39- غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَعِ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝  
 40- إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝  
 41- وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ  
 وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۝  
 42- وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ  
 رَحْمَتَهُ ۝ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝  
 43- قُلْ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۴۰۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد میں  
برساتا اور اپنی رحمت (یعنی بارش کی برکت) کو پھیلاتا ہے اور  
وہ کارساز (اور) سزاوار تعریف ہے ۝

--- ﴿سورة الشورى آیت ۲۸﴾ ---

۴۱۔ پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف (سزاوار) ہے جو آسمانوں  
کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے ۝  
اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لئے بڑائی ہے اور وہ غالب  
(اور) دانا ہے ۝

--- ﴿سورة الجاثية آیت ۳۶، ۳۷﴾ ---

--- ﴿سورة الروم آیت ۵۰﴾ ---

۳۳۔ اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے ۝

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۲﴾ ---

۳۴۔ اور وہ خوب فیصلہ کریں والا (اور) صاحب علم ہے ۝

--- ﴿سورة سبا آیت ۲۶﴾ ---

۳۵۔ لوگو! تم (سب) خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پروا سزاوار  
حمد (و ثنا) ہے ۝

--- ﴿سورة فاطر آیت ۱۵﴾ ---

۳۶۔ آسمانوں اور زمین اور جو (مخلوق) ان میں ہے سب کا  
مالک ہے غالب (اور) بخشش والا ۝

--- ﴿سورة مؤمن آیت ۲۶﴾ ---

۳۷۔ گناہ بخشش والا اور توبہ قبول کرنے والا (اور) سخت عذاب  
دینے والا (اور) صاحب کرم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی  
کی طرف پھر کر جانا ہے ۝

--- ﴿سورة المؤمن آیت ۳﴾ ---

۳۸۔ بیشک خدا بخشش والا قادر دان ہے ۝

--- ﴿سورة الشورى آیت ۲۳﴾ ---

۳۹۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور (ان کے  
قصور معاف فرماتا ہے اور جو تم کرتے ہو) (سب) جانتا ہے ۝  
اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کی (دعا) قبول فرماتا  
اور ان کو اپنے فضل سے بڑھاتا ہے ۝

--- ﴿سورة الشورى آیت ۲۶، ۲۷﴾ ---

۴۲۔ خدا ہی تو رزق دینے والا زور آور (اور) مضبوط ہے ۵

--- ﴿سورة الذاریات ۵۸﴾ ---

۴۳۔ (اے محمد) تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے ۵

--- ﴿سورة الرحمن آیت ۷۸﴾ ---

۴۴۔ وہ (سب سے) پہلا اور (سب سے) پچھلا اور (اپنی) قدرتوں سے سب پر (ظاہر اور) (اپنی ذات سے) پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة الحمد آیت ۳﴾ ---

۴۵۔ اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے ۵

--- ﴿سورة الحمد آیت ۲۹﴾ ---

۴۶۔ کچھ شک نہیں کہ خدا استناد کی کتاب ہے ۵

--- ﴿سورة المجادل آیت ۱﴾ ---

۴۷۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ۵

وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہی (حقیقی) پاک ذات (ہر عیب سے) سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا۔ خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے ۵

وہی خدا (تمام مخلوقات کا) خالق ایجاد و اختراع کر نیوالا صورتیں بنانیوالا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

43- إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

44- تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

45- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

46- وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

47- إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

48- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُونَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْغَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۗ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

49- وَاللَّهُ خَبِيرُ الرَّزِيقِينَ ۝

50- يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ

آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ

غالب حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الحشر آیت ۲۲۲﴾ ---

۴۸۔ اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة المجد آیت ۱۱﴾ ---

۴۹۔ اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں

کس چیز نے دھوکا دیا؟ ۵

(وہی تو ہے) جس نے تجھے بنایا اور (تیرے اعضاء کو) ٹھیک کیا

اور (تیری قامت کو) معتدل رکھا

--- ﴿سورة الانفطار آیت ۷۶﴾ ---

۵۰۔ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ (زندہ) کرے گا

اور وہ بخشنے والا (اور) محبت کرنے والا ہے

عرش کا مالک بڑی شان والا

جو چاہتا ہے کر دیتا ہے

--- ﴿سورة البروج آیت ۱۶۵﴾ ---

۵۱۔ کیا خدا سب سے بڑا احاطہ نہیں ہے؟

--- ﴿سورة التین آیت ۸﴾ ---

۵۲۔ کہو کہ وہ (ذات پاک جس کا نام) اللہ (ہے) ایک ہے

(وہ) معبود برحق بے نیاز ہے

نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا

اور کوئی اس کا ہمسر نہیں

--- ﴿سورة الاخلاص آیت ۳﴾ ---

## آسمان

۱۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے

لئے پیدا کیں پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تو ان کو ٹھیک

سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۹﴾ ---

فَسْؤَلُكَ فَعَدَّلَكَ

51- إِنَّهُ هُوَ بِيَدِي وَيُعِيدُ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۖ ذُو الْعَرْشِ

الْحَمِيدُ ۖ فَقَالَ لَهَا يُرِيدُ

52- أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۚ

53- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۖ وَ لَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَلِدْ ۖ وَ لَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَلِدْ ۖ وَ لَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَلِدْ ۖ وَ لَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَلِدْ ۖ وَ لَمْ يُولَدْ ۚ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ



1- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ ثُمَّ

أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَنسُفَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۖ وَ هُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

2- إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ

3- اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ

عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ

۲۔ خدا (ایسا خیر و بصیر ہے کہ) کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ

زمین میں اور نہ آسمان میں

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۵﴾ ---

۳۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم

دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے۔ پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج

اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش

کر رہا ہے وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے (اس

طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے

پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲﴾ ---

۴۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے

لئے اس کو سجا دیا

اور ہر شیطان راوندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا

ہاں اگر کوئی چوری سے سنا چاہے تو چمکتا ہوا انکار اسکے پیچھے

لپکتا ہے

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۸ تا ۲۶﴾ ---

۵۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی

تسبیح کرتے ہیں اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اس کی

تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے

بے شک وہ بردبار (اور) غفار ہے

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۴۴﴾ ---

۶۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں (سب)

خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں۔ اور کشتیاں (بھی) جو

اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں۔ اور وہ آسمان کو تھامے رہتا

ہے کہ زمین پر (نہ) گر پڑے مگر اس کے حکم سے بیشک خدا

لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے

--- ﴿سورة الحج آیت ۶۵﴾ ---

مُسَمِّي يَدُّرُ الْأَمْرَ يَقْضِلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءُ رَبَّكُمْ  
تَوْقِنُونَ

۴- وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زِينَةً لِلنَّظِيرِينَ ۚ وَ

حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۚ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ

السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۖ

۵- نَسِئُمْ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَ الْأَرْضَ وَ مَنْ فِيهِنَّ ۚ وَ إِنْ

قَبِلَ شَيْءٌ إِلَّا يَنْسِئُمْ بِحَمْدِهِ ۚ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ تَسْبِيحَهُمْ

إِلَّا كَانِ حَلِيمًا غَفُورًا ۖ

۶- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَ الْفَلَكَ

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَ يُسَبِّحُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَّ

عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

رَحِيمٌ ۖ

۷- وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا

دَعَاكُمْ دَعْوَةً فَإِنَّ الْأَرْضَ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۖ

وَ كَذَلِكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَدِيرٌ ۖ

۷۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ آسمان

اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تم کو زمین میں

سے (نکلنے کیلئے) آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے

اور آسمانوں اور زمین میں جتنے (فرشتے اور انسان وغیرہ) ہیں

اسی کے (مملوک) ہیں (اور) تمام اسکے فرمانبردار ہیں

--- ﴿سورة الروم آیت ۲۶ تا ۲۸﴾ ---

۸۔ اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہئے تھی نہیں کی

اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے (اور) وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۶۷﴾ ---

۹۔ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا (تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا) ۵

--- ﴿سورة الرحمن آیت ۳۷﴾ ---

۱۰۔ اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے (اے دیکھنے والے) کیا تو (خداے) رحمن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو (آسمان میں) کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ ۵

پھر دو بارہ (سہ بارہ) نظر کر تو نظر (ہر بار) تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی ۵

اور ہم نے قریب کے آسمان کو (تاروں کے) چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورة الملك آیت ۵۲﴾ ---

## آسمانی کتابیں

۱۔ اور اہل انجیل کو چاہئے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل

8- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

9- فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

10- الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَإِرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسيرٌ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابير وجعلنا رجوماً للشياطين وأعدنا لهم عذاب السعير

1- وَلِيَعْلَمَ أَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا عَلَيْكَ

فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں اور جو خدا کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں ۵

اور (اے پیغمبر) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان (سب) پر شامل ہے تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ

مزید حوالے: البقرہ: ۱۹-۲۲-۲۹-۵۹-۱۳۳-۱۶۳- الاعراف: ۱۶۳- التوبہ: ۳۶- یونس: ۳-۶۱- ابراہیم: ۳۲-۳۸- الفرقان: ۲۵

العنکبوت: ۲۳-۳۳- حم السجدة: ۱۱- المدخان: ۱۰-۲۹- الطور: ۹- المعارج: ۸- المزمل: ۱۸- المرسلات: ۹

آسمان: النباء: ۱۳-۱۹- التکویر: ۱۱- الانشقاق: ۲۱- نیز دیکھئے: تخلیق کائنات- تفسیر کائنات- زمین



کرنا اور حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اسکو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کیلئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے سونیک کاموں میں جلدی کرو تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا ۵

اور (ہم) پھر تاکید کرتے ہیں کہ (جو) حکم (خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکانہ دیں۔ اگر یہ نہ مانیں تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ انکے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں

جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لَكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ  
وَكَوْهَاءَ اللَّهُ لِيُحْكَمَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيْسَ لَكُمْ فِي مَا  
أَنْتُمْ قَاسِمُونَ الْحَيْرَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبَيِّنْهُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ وَ أَنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ  
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ  
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ  
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝

2- إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ  
الَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّاسِخُونَ وَالْأَجَابِرُ بِمَا  
اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَحْشَوْا  
النَّاسَ وَاحْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِلَهِكُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ  
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝  
3- وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا  
عِبَادِي الصَّالِحُونَ ۝

دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں ۵

--- ﴿سورة المائدة آیت ۴۴﴾ ---

۳۔ اور ہم نے نصیحت (کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہوں گے ۵

--- ﴿سورة الانبیاء آیت ۱۰۵﴾ ---

۳۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں (مرقوم) ہے ۵  
(یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ۵

--- ﴿سورة الاعلیٰ آیت ۱۹﴾ ---

۵۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں (اور اسکے) عوض میں انکے لئے بہشت (تیار کی) ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے۔ اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۱﴾ ---

4- إِنَّ هَذَا لَكَيْفِ الضَّعِيفِ الْأُولَى ۖ صُغِفَ إِيَّاهُمْ وَ مُؤْنَى ۖ

5- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْرُوا بِعَيْتِكُمُ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ۝



1- قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ ۖ النَّارِ ذَاتِ الْوُجُودِ ۖ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۖ وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۖ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۖ

### اصحاب الاخدود

۱۔ خندقوں (کے کھودنے) والے ہلاک کر دیئے گئے ۵  
 رہے تھے ۵  
 ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے ۵  
 جبکہ وہ ان (کے کناروں) پر بیٹھے ہوئے تھے ۵  
 اور جو (سختیاں) اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ واقف ہے ۵

--- ﴿سورة البروج آیت ۹۲﴾ ---



آسمانی کتابیں نیز دیکھیے: انجیل --- توریت --- زبور --- قرآن

## اصحاب کہف

۱۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟

جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما۔ اور ہمارے کام میں درستی (کے سامان) مہیا کر۔

تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر (نیند کا) پردہ ڈالے (یعنی ان کو سلائے) رکھا۔

پھر ان کو جگا اٹھایا تا کہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ (غار میں) رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔

ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور

زیادہ ہدایت دی تھی۔

اور انکے دلوں کو مربوط (یعنی مضبوط) کر دیا جب وہ (اٹھ) کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین

کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود (سمجھ کر) نہ پکاریں گے۔ (اگر ایسا کیا) تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ بھلا یہ ان (کے خدا ہونے) پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں

۱۔ اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوا مِنْ

اٰیٰتِنَا عَجَبًا ۝ اِذْ اٰوٰی الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا

رَبِّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا

رَشْدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلٰی اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝

ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِتَعْلَمَ اَنَّ الْوَحْيَ لِيَا كَيْتُوْا اَمَدًا ۝ لَنْ نَقْضَ

عَلَيْكَ نَبَاؤُنَا بِالْحَقِّ ۝ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ

وَزَدْنَهُمْ هُدًى ۝ وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبَّنَا

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اِلٰهًا لَقَدْ

قُلْنَا اِذَا شَطَطْنَا ۝ هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ الْاِلٰهَةِ

لَوْلَا يَتُُوْنَ عَلَيْهِمْ سُلٰطِيْنَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ اَظْلَمَ مِنْ اِنْتَرٰى

عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝ وَاِذْ اَعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

فَاٰوَا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ

مِنْ اَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا ۝ وَتَرَى الْقَمَسَ اِذَا طَلَعَتْ تَرَوْرَةً

عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْاَيْمِيْنَ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبَتْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ

هُمُ فِي كَهْفِهِمْ مُنْتَبِهًا ۝ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّ اللّٰهَ فَيَهْدِي

لاتے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے۔

اور جب تم نے ان (مشرکوں) سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں

چل رہو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت وسیع کر دیگا اور تمہارے کاموں میں آسانی (کے سامان) مہیا کریگا۔

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ (دھوپ) ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے

بائیں طرف کتر اجائے اور وہ اس کے میدان میں تھے یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے ۵

اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سوتے ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے۔ اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آجاتے ۵

اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم (یہاں) کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دیکر شہر کو بھیجو وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے ۵

اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے ۵

اور اسی طرح ہم نے (لوگوں کو) ان (کے حال) سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت

الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۚ وَ  
تَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ  
الشِّمَالِ ۚ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعَتْ  
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلَيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۚ وَكَذَلِكَ  
بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ  
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ  
فَاتَّبَعُوا أَحَدَكُمْ يَوْمَ قَوْمِ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا  
أَزَلَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ بِرِزْقِ رَبِّهِ ۚ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ  
فِي الْوَلَبِثَةِ ۚ وَكُنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا ۚ وَكَذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا  
أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَرْبَبٌ فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَزَّعُونَ  
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ  
الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۚ سَيَقُولُونَ  
ثَلَاثَةَ رَابِعًا ۚ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً ۚ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  
رَجْمًا بِالْقَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً ۚ وَثَمَانِيَةً ۚ وَكَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَبِّي

(جس کا وعدہ کیا جاتا ہے) اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان (کے غار) پر عمارت بنا دو ان کا پروردگار ان (کے حال) سے خوب واقف ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان (کے غار) پر مسجد بنائیں گے ۵ (بعض لوگ) انکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے (اور) چوتھا ان کا کتا تھا اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ تھے (اور) چھٹا ان کا کتا تھا اور (بعض) کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے تو شمار سے خوب

واحد ہے ان کو جائے کسی میں تو سورہ بی بقرہ (جائے ہیں) تو تم ان (کے معاملے) میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری ہی گفتگو اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا

اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا

مگر (انشاء اللہ کہہ کر یعنی اگر) خدا چاہے تو (کر دوں گا) اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے

کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے

اور اصحاب کہف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اسی کو

آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں (معلوم) ہیں وہ کیا خوب

دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اسکے سوا ان کا کوئی کارساز

نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے

--- ﴿سورۃ الکہف آیت ۲۶۴﴾ ---

## اصول حکمرانی

۱۔ (اے محمد) خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں

کے لئے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے تو یہ

تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو

اور ان کیلئے (خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے

مشورت لیا کرو اور جب (کسی کام کا) عزم مصمم کر لو تو خدا

پر بھروسہ رکھو بیشک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۵۹﴾ ---

۲۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ

کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بیشک خدا سنتا

(اور) دیکھتا ہے

أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ فَلَا تُبَارِقُوا فِيهِمْ إِلَّا  
مِرَآءَ ظَاهِرٍ ۚ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ وَلَا  
تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ  
وَإِذْ كَذَّبْتَكَ إِذْ نَبِيتَ وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي  
لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۚ وَابْتَغُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ  
سِنِينَ وَازْدَادُوا تَعْنًا ۚ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَبْصِرْ بِهِ وَلَا يَأْتِيهِ غَیْبٌ مِّنْ دُونِهِ  
مِنْ وَجْهِ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۚ

1- فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّبِثْتُمْ لَهُمْ ۖ وَكُلُّكُمْ قَلْبًا عَلِيمٌ

الْقَلْبِ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَسْأَلُهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۚ

2- وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلُوا  
شَهِيدٌ ۗ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا  
رَسُولَهُ وَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ خَلْقًا مِّنْ دُونِهِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

3- الَّذِينَ إِن مَنَّكُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَذَلِكَ  
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝



1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآوُوا  
الْأَمْرَ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ  
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

2- وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۗ  
قُلْ لَا تُفْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةً ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ۝

صاحب حکومت ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں  
اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو  
اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کر دینا  
بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے ۝

--- ﴿سورة النساء آیت ۵۸﴾ ---

۳۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز  
پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کریں حکم دیں اور برے  
کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار  
میں ہے ۝

--- ﴿سورة الحج آیت ۴﴾ ---



## اطاعت امیر

۲۔ اور (یہ) خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو  
حکم دو تو (سب گھروں سے) نکل کھڑے ہوں۔ کہہ دو کہ  
قسمیں مت کھاؤ پسندیدہ فرمانبرداری (درکار ہے) بیشک  
خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے ۝

--- ﴿سورة النور آیت ۵۳﴾ ---

۱۔ مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں  
سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم  
میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے  
ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع  
کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے ۝

--- ﴿سورة النساء آیت ۵۹﴾ ---

## اطاعتِ رسول ﷺ

۱۔ (اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشش والا مہربان ہے ۵

کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا ۵

— ﴿سورۃ آل عمران آیت ۳۲-۳۱﴾ —

۲۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کیلئے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا (اور) مہربان پاتے ۵

تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کو دے گا اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے ۵

— ﴿سورۃ النساء آیت ۶۴-۶۵﴾ —

۳۔ (اے محمد) کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں (یعنی اس کا رسول ہوں) (وہ) جو آسمانوں اور زمین کا

۱۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۵

۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۵ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۵ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۵

۳۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَخِي الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۵

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَ

بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر اُمی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تا کہ ہدایت پاؤ ۵

— ﴿سورۃ الاعراف آیت ۱۵۸﴾ —

۴۔ مومنو! خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کیلئے بلا تے ہیں جو تم کو زندگی (جاوداں) بخشتا ہے اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے

اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کئے جاؤ گے

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲۳﴾ ---

۵۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے (حکم) سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں

اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں

--- ﴿سورة النور آیت ۵۲﴾ ---

۶۔ کہہ دو کہ خدا کی فرمانبرداری کرو اور رسول (خدا) کے حکم پر چلو اگر منہ موڑو گے تو رسول پر (اس چیز کا ادا کرنا) ہے جو ان کے ذمے ہے اور تم پر (اس چیز کا ادا کرنا) ہے جو تمہارے ذمے ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پا لو گے اور رسول کے ذمے تو صاف صاف (احکام خدا کا) پہنچا دینا ہے

--- ﴿سورة النور آیت ۵۳﴾ ---

۷۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی (کرنی) بہتر ہے (یعنی) اس شخص کو جسے خدا (سے ملنے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۲۱﴾ ---

اِنَّهٗ اِلَيْهِ مَحْشُرُوْنَ

5- اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

6- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

7- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

8- وَمَا كَانَ لِيُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

9- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ

۸۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۳۶﴾ ---

۹۔ اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ



تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خیر بھی نہ ہو ۵

جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے

ان کے دل تقویٰ کے لئے آزمائے ہیں ان کے لئے بخشش

اور اجر عظیم ہے ۵

جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر

بے عقل ہیں ۵

اور اگر وہ صبر کئے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس

آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۵۳﴾ ---

۱۰۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دین وہ لے لو اور جس سے منع کریں (اس

سے) باز رہو اور خدا سے ڈرتے رہو بیشک خدا سخت عذاب

دینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة الحشر آیت ۷﴾ ---

أَعْمَالِكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَعْصُونَ  
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ  
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ  
يُنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ  
أَنَّ لَهُمْ صَبْرًا وَاحِدًا يَخْرُجُوا بِهَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ رَّحِيمٌ ۝

10- وَمَا أَنْتُمْ عَلَىٰ الرَّسُولِ فَعْدُوَةٌ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

## اعتکاف

۱۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور (حکم دیا کہ) جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسمعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۲۵﴾ ---

۲۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ خدا کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جانا اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۸۷﴾ ---

۱- وَادِّعْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةَ لِّلنَّاسِ وَامْنًا وَانْحُدُّوا مِنْ  
مَقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیۡنًا وَعٰهَدْنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ  
طَهِّرَا بَيْتَیَّ لِلطَّٰیِبِیْنَ وَالْعٰكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۵  
۲- وَلَا تُبٰشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَلٰفُوْنَ ۙ فِی الْمَسْجِدِ ۙ تِلْكَ  
حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرُبُوْهَا ۙ كَذٰلِكَ یَبۡیِّنُ اللّٰهُ اٰیٰتِہٖ لِّلنَّاسِ  
لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ ۵

۱- وَنَادٰی اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ جَدَدْنَا مَا  
وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ جَدَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۙ قَالُوْا  
نَعَمْ ۙ قٰدَرًا مُّؤَدَّدًا یَبۡتَغُمُّ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ ۵  
الَّذِیۡنَ یَصُدُّوْنَ عَنِ سَبۡیْلِ اللّٰهِ وَیَعۡوَنُہَا عِوَجًا ۙ وَ  
ہُمۡ بِالْاٰخِرَةِ لَکٰفِرُوْنَ ۵ وَبَیۡنَہُمَا حِجَابٌ ۙ وَعَلٰی الْاَعْرَافِ

## اعراف

جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کبھی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے ۵

ان دونوں یعنی (بہشت اور دوزخ) کے درمیان (اعراف نام) کی ایک دیوار ہوگی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں

۱۔ اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا۔ بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو (اس وقت) ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت ۵

رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلِمَاتٍ بِسِيئَتِهِمْ وَكَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِمَ  
 عَلَيْكُمْ لَمَّا يَدْخُلُونَهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ  
 أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ  
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا  
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيئَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا  
 كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا  
 يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ  
 وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

گے تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ  
 لوگ (ابھی) بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہو گئے مگر امید  
 رکھتے ہوں گے ۝

اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی  
 تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے  
 ساتھ (شامل) نہ کیجیو ۝

اور اہل اعراف (کافر) لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے  
 شناخت کرتے ہو گئے پکاریں گے اور کہیں گے (کہ آج) نہ تو  
 تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر (ہی)  
 سود مند ہوا ۝

(پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے) کیا یہ وہی لوگ  
 ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ (خدا) اپنی  
 رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا (تو مومنو) تم بہشت میں

داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندوہ ہوگا

﴿سورۃ الاعراف آیت ۴۳-۴۹﴾

## اعمال کا وزن

۱۔ اور اس روز (اعمال کا) ٹلنا برحق ہے۔ تو جن لوگوں کے (عملوں کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پائیوں گے ہیں۔

اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لئے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۹۸﴾ ---

۲۔ تو جن کے (عملوں کے) بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔

اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے مونہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

--- ﴿سورة المؤمنون ۱۰۲ تا ۱۰۴﴾ ---

۳۔ تو جس کے (اعمال کے) وزن بھاری نکلیں گے۔

۱- وَ الْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝  
 ۲- فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۚ تَلْفَعُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝  
 ۳- فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۖ نَارٌ حَامِيَةٌ ۖ



وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔

اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے۔

اس کا مرجع ہاویہ ہے۔

اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟

(وہ) دیکتی ہوئی آگ ہے۔

--- ﴿سورة القارعة آیت ۱۱ تا ۱۶﴾ ---



## افتراء

۱۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۲۱﴾ ---

۲۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں اور کاش تم ان ظالم (یعنی مشرک) لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی نختیوں میں (بتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کیلئے) ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائیگی اس لئے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۹۳﴾ ---

۳۔ اور یونہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا ۵

۱- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱﴾

۲- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۲﴾

۳- وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۳﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴﴾

۴- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِن يَرَوْا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ۖ وَيَهَيِّئُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقِّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۴﴾

(جھوٹ کا) فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر (اسکے بدلے) ان کو عذاب الیم (بہت) ہوگا ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۱۶﴾ ---

۴۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو (اے محمد) تمہارے دل پر مہر لگا دے اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے بیشک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة الشوری آیت ۲۳﴾ ---

۱۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برانہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لئے اتنا وبال ہے اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا

جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور (کیوں نہ) کہا کہ یہ صریح طوفان ہے

یہ (افتراء پر داز) اپنی بات (کی تصدیق) کے (لئے) چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لاسکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شخص میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت (عذاب نازل ہوتا)

جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی

۱۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا نَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ  
لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۗ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۚ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِمْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالْبَهْدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۚ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسْتُمْ فِيهَا أَفْسَضُم ۖ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ ۚ وَتَقُولُونَ بَأْوَهِكُمْ مَا تَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّبًا ۚ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۚ وَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتْلَمَّ بِهَذَا ۚ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ ۚ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ ۚ أَبَدًا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَيَعِظُكُمُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ

(بھاری) بات تھی

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایاں نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں۔ (پروردگار) تو پاک ہے یہ تو (بہت) بڑا بہتان ہے

خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا (کام) نہ کرنا اور خدا تمہارے (سمجھانے کے) لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے

--- ﴿سورة النور آیت ۱۸ تا ۲۱﴾ ---

۱۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کر نیوالے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۸۳﴾ —

۲۔ مومنو! اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو (مبادا) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کئے پر نادام ہونا پڑے ۵

— ﴿سورة الحجرات آیت ۶﴾ —

## اقتدار

۱۔ اور پیغمبر نے ان سے (یہ بھی) کہا کہ خدا نے تم پر طاقت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیونکر ہو سکتا ہے۔ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کیلئے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی (بڑا عطا کیا ہے) اور

۱- وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝

۱- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا آلِي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَّن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

۲- قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

خدا (کو اختیار ہے) جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشائش

والا (اور) دانا ہے ۵

— ﴿سورة البقرہ آیت ۲۳۷﴾ —

۲۔ کہو کہ اے خدا (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے

بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو

چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی

بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۲۶﴾ —

۳۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدائی کے اختیار میں ہے ۵

— ﴿سورۃ الحج آیت ۳۱﴾ —

۴۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کریگا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں ۵

— ﴿سورۃ النور آیت ۵۵﴾ —

۳- الَّذِينَ اِنْ مَكَتْتُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَ لِلّٰهِ  
عَاقِبَةُ الْاُمُورِ ۝

۴- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  
فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَ  
لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي رِزَقُوْا مِنْهُ وَيُضَيِّقَهُمْ مِنْ  
بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا ۗ يَعْبُدُوْنَ نِيْلِيْ لَا يَشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ۗ وَ  
مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝



## آگ

1- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَضَاءَتْ  
مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا  
يُبْصِرُونَ ۝

2- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ  
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

3- وَاللَّيْلَ حَاقِقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝

4- قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

5- إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ لِأَيِّ آيَاتِ نَارٍ آتَيْتُمْ وَتُنَهَا

يَحْبِرَ أَوْ لِيُنَبِّئَكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا  
جَاءَهَا نُورٌ أَنْ يُنِيرَكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۖ  
وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

6- أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۖ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا

أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۖ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَحْمَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۖ

7- لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

(مجلی دکھاتا) ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے

اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے ۝

﴿سورۃ النحل آیت ۸۴﴾

۶۔ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو ۝

کیا تم نے اسکے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ۝

ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے ۝

﴿سورۃ الواقعة آیت ۷۳﴾

۷۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں اہل بہشت

۱۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے (شب تاریک

میں) آگ جلائی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں

روشن کیں تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو

اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے ۝

﴿سورۃ البقرہ آیت ۷﴾

۲۔ جو لوگ تیسوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ

میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے ۝

﴿سورۃ النساء آیت ۱۰﴾

۳۔ اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے

پیدا کیا تھا ۝

﴿سورۃ الحجر آیت ۳۷﴾

۴۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر (موجب)

سلامتی (بن جا) ۝

﴿سورۃ الانبیاء آیت ۶۹﴾

۵۔ جب موسیٰ نے اپنے گھردلوں سے کہا کہ میں نے آگ

دیکھی ہے میں وہاں سے (رستے کا) پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا

انگار تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو ۝

جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو نہ آئی کہ وہ جو آگ میں

تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں

— ﴿سورة الحشر آیت ۲۰﴾ —

۸۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلادیا وہی اہل دوزخی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے ۵

— ﴿سورة التغابن آیت ۱۰﴾ —

۹۔ مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں ۵

— ﴿سورة الاحقار آیت ۶﴾ —

### الحاد

۱۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے) تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب خدا کے سوا اس کو کون اوپر لاسکتا ہے تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ۵

هُمُ الْفٰرِثُونَ ۵

۸- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۖ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

۹- يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا ۚ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلٰظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝



۱- اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهٰهٗ هَوٰٓهُ ۚ وَاَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰٓى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰٓى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ ۚ وَجَعَلَ عَلٰٓى بَصِيْرِهٖ غِشٰوَةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۖ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيٰتِنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰٓا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝



اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہمیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ماردیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں صرف ظن سے کام لیتے ہیں ۵

— ﴿سورة الجاثية آیت ۲۳-۲۴﴾ —

مزید حوالے: البقرہ: ۲۹-۸۰-۱۲۶-۱۶۷-۱۷۲-۲۰۱-۲۱۷-۲۵۷-۲۶۶-۲۷۵-آل عمران: ۲۳-۱۰۳-۱۱۶-۱۸۳-۱۸۵-۱۹۲-النساء: ۱۳-۳۰-۵۶- المائدہ: ۲۹-۳۷-۶۳-۷۲-الانعام: ۲۷-۱۲۹-الاعراف: ۱۳-۳۳-۵۰-الانفال: ۱۳-التوبہ: ۱۷-۶۳-۶۸-۸۱-۱۰۹-یونس: ۸-۲۷-ہود: ۱۶-۱۷-۱۳۳-الرعد: ۵-۱۷-۳۵-ابراہیم: ۳۰-الحجر: ۲۷-النحل: ۶۴-الکہف: ۲۹-۵۳-۹۶-الانبیاء: ۳۹-الحج: ۱۹-۷۴-المومنون: ۱۰۳-النور: ۳۵-۵۷- النمل: ۷-۹۰-القصص: ۲۹-العنکبوت: ۲۳-السموٰۃ: ۲۰-سبا: ۳۲-فاطر: ۲۲-الصافات: ۸۰-ص: ۲۷-۳۹-۶۳-۶۴-الزمر: ۸-۱۶-۱۹- المؤمنون: ۶-۳۱-۳۳-۳۶-۴۷-۴۸-حم السجدہ: ۱۶-۲۳-۲۸-۴-الجاثیہ: ۲۳-الاحقاف: ۲۰-۳۳-محمد: ۱۲-الذاریات: ۱۳-الطور: ۱۳-القمر: ۳۸- الرحمن: ۱۵-۳۵-المدثر: ۱۵-الجالدہ: ۱۷-الحشر: ۳-۱۷-الاحقاف: ۱۰-نوح: ۲۵-الجن: ۲۳-المدثر: ۳۱-البروج: ۵-الاعلیٰ: ۱۲-الغاشیہ: ۳۱- البلد: ۲۰-اللیل: ۱۳-الینہ: ۶-القارعہ: ۱۱-الہزہ: ۶-اللیل: ۳- نیز دیکھیے: جہنم

## اللہ اور رسول کی اطاعت

۱۔ کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۳۲﴾ ---

۲۔ اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے ۵

اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۳۱﴾ ---

۳۔ مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۵۹﴾ ---

۴۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہونگے جن پر خدا نے

۱۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ ۚ قَانَ تَوَكَّلُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۝

۲۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خٰلِدًا فِيهَا ۚ وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ ۚ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

۴۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصّٰدِقِينَ وَ الشّٰهِدِآءِ ۚ وَ السّٰلِحِينَ ۚ وَ حَسَنٌ أَوْلَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝

۵۔ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ ان

لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے ۵

یہ خدا کا فضل ہے اور خدا جاننے والا کافی ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۷۰﴾ ---

۵۔ اور خدا کی فرمانبرداری اور رسول (خدا) کی اطاعت کرتے

رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر

کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچانا ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۶۲﴾ ---

۶۔ کہہ دو کہ خدا کی فرمانبرداری کرو اور رسول (خدا) کے حکم پر چلو۔ اگر منہ موڑو گے تو رسول پر (اس چیز کا ادا کرنا) ہے جو انکے ذمے ہے اور تم پر (اس چیز کا ادا کرنا) ہے جو تمہارے ذمے ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے اور رسول کے ذمے تو صاف صاف (ادکام خدا کا) پہنچا دینا ہے ۵

﴿سورة النور آیت ۵۳﴾

۷۔ مومنو! (کسی بات کے جواب میں) خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بے شک خدا سنتا جانتا ہے ۵

﴿سورة الحجرات آیت ۱﴾

## اللہ اور رسول کی نافرمانی

۱۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۳﴾

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝  
 ۶- قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُوا فَتَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝  
 ۷- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝



۱- وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝  
 ۲- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝  
 ۳- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُجَادِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارًا

۲۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دینگے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۱۵﴾

اللہ اور رسول کی اطاعت: مزید حوالے: آل عمران: ۱۳۳-النساء: ۶۳-الانفال: ۱-۲۰-۳۶-التوبہ: ۷۱-النور: ۳۵-۳۸-محمد: ۳۲-فتح: ۱۷-المجادلہ: ۱۳

التحاکم: ۱۲ نیز دیکھئے: اللہ اور رسول کی نافرمانی۔ حسب الہی

۳۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ (تیار) ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے ۵

۴۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۲۶﴾ ---

۵۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کی سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر جس (کام) سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول (خدا) کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں ۵

اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس (کلمے) سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ (اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو) جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا۔ (اے پیغمبر) ان کو (دوزخ ہی کی سزا) کافی ہے یہ اسی میں داخل ہونگے اور وہ بری جگہ ہے ۵ مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی

جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۵

4- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۵

5- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ الْفَحْشَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لَهَا لَهْفًا عَلَيْهِمْ وَيَسْتَجِيبُونَ بِاللَّيْلِ وَالنُّجُودِ وَالْمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَتْلَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۗ حَسْبُ لَهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِاللَّيْلِ وَالنُّجُودِ وَالْمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَتَنَاجَوْا بِالْيَمْرِ وَالنُّقُودِ ۗ وَاللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۵

6- وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۵

اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور خدا سے جس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہنا ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۹۸﴾ ---

۶۔ اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں

کیلئے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ۵

--- ﴿سورة الجن آیت ۲۳﴾ ---

## اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا

۱۔ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۹۰﴾

۲۔ تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ آل عمران آیت ۳۲﴾

۳۔ اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ آل عمران آیت ۵۷﴾

۴۔ خدا تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ نساء آیت ۳۶﴾

۵۔ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ نساء آیت ۱۰۷﴾

۶۔ اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ المائدہ آیت ۶۴﴾

۷۔ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ المائدہ آیت ۸۷﴾

۸۔ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ الانعام آیت ۱۳۱﴾

۱۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۰

۲۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۰

۳۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ ۰

۴۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۰

۵۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَاتًا أَيْمًا ۰

۶۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُبْسِدِينَ ۰

۷۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۰

۸۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۰

۹۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخٰبِثِينَ ۰

۱۰۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۰

۱۱۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوٰن كٰفِرٍ ۰

۱۲۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفٰرِحِينَ ۰



۹۔ کچھ شک نہیں کہ خدا غابازوں کو دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ الانفال آیت ۵۸﴾

۱۰۔ خدا سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ۰

﴿سورۃ النحل آیت ۲۳﴾

۱۱۔ بیشک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفرانِ نعمت کرنے والے کو

دوست نہیں رکھتا ۰

﴿سورۃ الحج آیت ۳۸﴾

۱۲۔ خدا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا ۰

﴿سورۃ القصص آیت ۷۶﴾

## اللہ کی حاکمیت

۱۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدایٰ کا ہے اور سب کاموں کا رجوع (اور انجام) خدایٰ کی طرف ہے ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۰۹﴾

۲۔ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدایٰ کے اختیار میں ہیں ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۵۳﴾

۳۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اسکی تکذیب کرتے ہو جس چیز (یعنی عذاب) کے لئے تم جلدی کر رہے ہو۔ وہ میرے پاس نہیں ہے (ایسا) حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کر نیوالا ہے ۵

﴿سورة الانعام آیت ۵۷﴾

۴۔ پھر (قیامت کے دن تمام) لوگ اپنے مالک برحق خدائے تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائینگے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے ۵

﴿سورة الانعام آیت ۶۲﴾

۵۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس (کی تاثیر) سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے (تو یہی) قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا مگر) بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں ۵

﴿سورة الرعد آیت ۳۱﴾

۶۔ خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ

۱۔ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

۲۔ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

۳۔ قُلْ اِنِّي عَلَىٰ بَيِّنٰتٍ مِّن رَّبِّيْ وَاَعْلَمُ بِمَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْمِلُوْنَ بِهٖ ۙ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ ۙ يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ

الفصلین ۵

۴۔ ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقُّ ۙ اِلٰٓهَ الْحَقِّ ۙ وَهُوَ اَسْمٰءُ

الْحَسْبِیْنَ ۙ

۵۔ وَكُوْنْ اَنْ قُرْاٰنًا سُوْرٰتٌ بِهٖ الْجِهَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ

كَلِمَةٌ بِهٖ الْمَوْتُ ۙ بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا ۙ

۶۔ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتٰى ذِی الْقُرْبٰى

وَاِیْتٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۙ یُعْظَمُ لَعْنَتُكُمْ

تَذَكُّرُوْنَ ۙ

۷۔ وَمَا نُنزِّلُ اِلَّا بِالْاَمْرِ رَبِّكَ ۙ لَهٗ مَا بَیْنَ اَیْدِنَا وَمَا خَلْفَنَا

وَمَا بَیْنَ ذٰلِكَ ۙ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًا ۙ

۸۔ اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ

شے سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور) تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو ۵

﴿سورة النحل آیت ۹۰﴾

۷۔ اور (فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ) ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ۵

﴿سورة مریم آیت ۶۲﴾

۸۔ خدا ان (سب) میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا

بیشک خدا ہر چیز سے باخبر ہے ۰

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۷۱﴾ ---

۹۔ تمہارا پروردگار (قیامت کے روز) ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب (اور) علم والا ہے ۰

--- ﴿سورۃ النمل: آیت ۷۸﴾ ---

۱۰۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو (اس کا) اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالاتر ہے ۰

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۲۸﴾ ---

۱۱۔ پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے

--- ﴿سورۃ الروم آیت ۴﴾ ---

۱۲۔ کہو کہ اے خدا (اے) آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے (اور) پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا ۰

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۴۶﴾ ---

شَئِيءٌ شَهِيدٌ ۰

9- إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۚ

10- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ

11- لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۗ

12- قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ

13- وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ



۱۳۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف (سے ہوگا) ۰

--- ﴿سورۃ الشوری آیت ۱۰﴾ ---



مزید حوالے: الفاتحہ: ۳۔ البقرہ: ۱۱۳-۱۱۰۔ آل عمران- ۱۲۸-۱۲۹-۱۵۴۔ المائدہ: ۱۔ الانفال: ۴۷-۴۸۔ ہود: ۱۲۳-۱۲۴۔ الحج: ۱۷-۲۹-۷۶۔ النمل: ۷۸-۷۹۔

التقصص: ۸۰-۸۸۔ السجده: ۲۵۔ الانفطار: ۱۹۔ تیز دیکھیے: اقدار



## اللہ کی مہلت

۱۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ انکے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اُس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیگا یا اپنے ایمان (کی حالت) میں نیک عمل نہیں کئے ہو گئے (تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا اے پیغمبران سے)

کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ۵

﴿سورۃ الانعام آیت ۱۵۸﴾

۲۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا (یا تو) اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے (عذاب دلوائے) تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں ۵

﴿سورۃ التوبہ آیت ۵۲﴾

۳۔ اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی (عمر کی) میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں

﴿سورۃ یونس آیت ۱۱﴾

۱۔ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُهُمْ نَفْسًا إِنِئَانْهَا لَمْ تَكُنْ أَمْنًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۵

۲۔ قُلِ هَلْ تَرْتَوُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۵ وَ تَحْنُنْتَرْتَوْنَ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيِّدِينَا ۵ فَتَرْتَوُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرْتَوُونَ ۵

۳۔ وَلَوْ يَجِدُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْشَّرَّ اسْتَجَابَ لَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ ۵ فَذَرِ الَّذِينَ لَا يَجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۵

۴۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى إِلَيْهِمْ فِيهِمْ وَيَخْتَلِفُونَ ۵ وَ يَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْعَيْبُ لِلَّهِ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۵

۳۔ اور (سب) لوگ (پہلے) ایک ہی امت (یعنی ایک ہی ملت پر) تھے پھر جدا جدا ہو گئے اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا ۵

اور کہتے ہیں کہ اس پر اسکے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب (کا علم) تو خدا ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ۵

﴿سورۃ یونس آیت ۲۰۹﴾

۵۔ اور اگر ہم ان کو پیغمبر (کے بھیجنے) سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام (واحکام) کی پیروی کرتے ۵  
 کہہ دو کہ سب (نتائج اعمال کے) منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو  
 عنقریب تم کو معلوم ہو جائیگا کہ (دین) کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور (جنت کی طرف) راہ پانے والے کون ہیں (ہم یا تم) ۵

--- ﴿سورة طہ آیت ۱۳۳، ۱۳۵﴾ ---

۶۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ۶  
 کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائیگی ۵

تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں ۵

--- ﴿سورة السجدہ آیت ۲۸ تا ۳۰﴾ ---

۷۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر واقع ہو

5- وَ كُوْنَا اٰهْلًا لَّهُمْ بَعْدَآبٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ لَا  
 اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنُنَبِّئَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ  
 وَنَخْزَى ۝ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ فَتَرَبَّصُوْا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَن  
 اَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝  
 6- وَيَقُوْلُوْنَ مَلٰٓئِكَةُ هٰذَا الْفِتْرٰنُ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ يَوْمَ  
 الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰهَانَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝  
 فَاَعْرَضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ الْاٰلِهَةَ الْمُنْتَظَرُوْنَ ۝  
 7- فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۙ فَتَقْدِرُ  
 جَآءَ اَشْرَاطِهَا ۙ فَاَلٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۝



سو اس کی نشانیاں (دقوع میں) آچکی ہیں پھر جب وہ ان پر  
 آنازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں (مفید) ہو سکے گی؟

--- ﴿سورة محمد آیت ۱۸﴾ ---



مزید حوالے: البقرہ: ۲۱۰- الانعام: ۱۳۵- الاعراف: ۵۱- یونس: ۱۰۳- النحل: ۳۳- مریم: ۷۵- المؤمنون: ۵۳- ۵۶- فاطر: ۲۲- نوس: ۲۹- ۵۰- ص: ۱۵-

الزخرف: ۶۶- الدخان: ۵۹- الطور: ۳۱-

نیز دیکھئے: سنت اللہ

## اللہ کی نشانیاں

۱۔ بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کیلئے رواں ہیں اور مینہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقلمندوں کیلئے (خدا کی قدرت کی) نشانیاں ہیں ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۴﴾ —

۲۔ کیا یہ بات ان لوگوں کیلئے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقل والوں کیلئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

— ﴿سورۃ طٰہ آیت ۱۲۸﴾ —

۳۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ تہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مینہ نکل (کر برس) رہا ہے اور آسمان میں جو (اولوں) کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسات دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے

۱- اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْقُلُوْبِ الَّتِي تَحْمِلُ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝  
 2- اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَسْتُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّعُوْمِ ۝  
 3- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهٖ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَّنْ يَّشَاءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۗ يَغْلِبُ اللّٰهُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝  
 وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو (خیرہ کر کے بینائی کو) اچکے لئے جاتی ہے ۵  
 خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے ۵  
 اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

— ﴿سورۃ النور آیت ۴۵﴾ —

۴۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں ۰

کچھ شک نہیں کہ اس میں (قدرتِ خدا کی) نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ۰

--- ﴿سورة الشعراء آیت ۸۷﴾ ---

۵۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے ناامید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا ۰

--- ﴿سورة العنكبوت آیت ۲۳﴾ ---

۶۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کیلئے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں ۰

--- ﴿سورة الروم آیت ۸﴾ ---

۷۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو ۰

اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف (مائل ہو کر) آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی

4- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَبْتَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

كُرْبُوۡمٍ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةًۭ ۙ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيۡنَ ۝

5- وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ لِقَاۡيَةِ اُولٰٓئِكَ يَسُوۡا مِنْ رَّحْمٰتِيۡ ۙ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۝

6- اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوۡا فِيۡۤ اَنْفُسِهِمْۙ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ

وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَاۙ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۙ وَ اِنَّ

كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ يَلْقٰۤى رَبَّهُمْ لَكٰفِرُوۡنَ ۝

7- وَ مِنَ الْاٰيَةِ اَنْ خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ مِّمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ

تَتَشَبَهُونَ ۝ وَ مِنَ الْاٰيَةِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ

اَزْوَاجًا لِّيَتَسَلَّوۡا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ۙ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ۝ وَ مِنَ الْاٰيَةِ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اٰخِلَافِ الْاَنْسٰمِكُمْ

وَ اَوْلٰٓئِكُمْ ۙ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيۡنَ ۝ وَ مِنَ

اٰيَةِ مَنّٰمِكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ اٰتِغَاوِكُمْ مِنْ

قَضٰیهِ ۙ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوۡنَ ۝

پیدا کردی جو لوگ غور کرتے ہیں انکے لئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۰

اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۰

اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا جو لوگ سنتے ہیں ان کے لئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۰

اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کیلئے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مینہ برساتا ہے پھر زمین کو اسکے مرجانے کے بعد زندہ (وشاداب) کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تم کو زمین میں سے (نکلنے کیلئے) آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۲۵ تا ۳۰﴾ ---

۸۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اسکے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) طلب کرو عجب نہیں کہ تم شکر کرو ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۳۶﴾ ---

۹۔ ہم عنقریب ان کو اطراف (عالم) میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی ۵

--- ﴿سورة حم السجده آیت ۵۳﴾ ---

وَمِنَ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْدَّرَقَ حَقُوقًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ نَقُومَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةَ اللَّهِ فَمِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝

۸- وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَ لِيُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَ لِيَتَّبِعِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۹- سَتَرْنَاهُمُ الْبَيْتَ فِي الْأَقَاقِ وَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آيَةُ الْحَقِّ ؕ أَوْ لَمْ يَلْفِ بِرَبِّكَ أَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

اپنی نشانیاں دکھائینگے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ (قرآن) حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے ۵

مزید حوالے: آل عمران: ۱۹۰-۱۰۱- یوسف: ۱۰۵- بنی اسرائیل: ۱۲-۵۹- القصص: ۷۲-۷۳- العنکبوت: ۱۹-۲۰-۲۲- الروم: ۹-۲۷- لقمان: ۳۰-۲۹-

سبا: ۹- نہس: ۳۷-۳۸-۳۹- المؤمن: ۸۱- حم السجده: ۳۹- الشوری: ۲۹- الحاشیہ: ۳-۵- ق: ۶-۱۱-۲۷- الذاریات: ۲۰-۲۲-

الملك: ۱۹- نوح: ۱۵- الطہ: ۷-۱۰- المرسلات: ۲۰-۲۳-۲۵-۲۶- النبأ: ۶-۱۶- النازعات: ۲۷-۲۸- الفاشیہ: ۱۷-۲۰- البلد: ۸-۱۰-

## اللہ کی نعمتیں

۱۔ یہ اس لئے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لئے کہ خدا سنتا جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۵۳﴾ ---

۲۔ اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے لئے جز اول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو ۵

اور جب شام کو انہیں (جنگل سے) لاتے ہو اور جب صبح کو (جنگل چرانے) لیجاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے ۵

اور (دردراز) شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لیجاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا (اور) مہربان ہے ۵

اور اسی نے گھوڑے اور فخر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لئے رونق و زینت (بھی ہیں) اور وہ (اور چیزیں بھی) پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں ۵

اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے میڑھے ہیں (وہ اس تک نہیں پہنچتے) اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا ۵

۱- ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ  
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ۝  
۲- وَاللَّعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝  
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝  
وَتَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا  
بِشِقِ الْأَنْفُسِ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالنَّخِيلَ  
وَالْأَيْغَالَ وَالتَّجِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ۗ وَمِنْهَا جَابِرٌ ۗ  
وَكَوْشَاءٌ لَّهْدِيكُمْ أَسْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ  
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ فِيهِ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ  
تُسَبِّحُونَ ۝ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالتَّجِيلَ وَ  
الْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ  
وَالتُّجُومَ ۗ مَسَّخَرْتُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ ۗ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا ۗ إِنَّ

وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے) ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو ۵

اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور (اور بیشمار درخت) اگاتا ہے اور ہر طرح کے (پھل پیدا کرتا ہے) غور کرنے والوں کیلئے اس میں (قدرتِ خدا کی بڑی) نشانی ہے ۵

اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کیلئے اس میں (قدرتِ خدا کی بہت بڑی) نشانی ہے ۵

ہیں

اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں  
(سب تمہارے زیر فرمان کر دیں) نصیحت کرنے والوں کے  
لئے اس میں نشانی ہے

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں  
سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم  
پینتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی  
ہیں اور اس لئے بھی (دریا کو تمہارے اختیار میں کیا) کہ تم خدا کے  
فضل سے (معاش) تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو

اور اسی نے زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں  
جھک نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے  
دوسرے مقام تک (آسانی سے) جاسکو

اور (راستوں میں) نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی  
رستے معلوم کرتے ہیں

تو جو (اتنی مخلوقات) پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ  
کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو بیشک خدا بخشنے  
والا مہربان ہے

— (سورۃ النحل آیت ۱۸۳۵) —

فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ  
الْبَحْرَ لِيَتَاكَلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً  
تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَ لَتَبْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِهِ ۚ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ رَؤُوسَى  
أَنْ تَعْبُدَ بِكُمْ ۚ وَ أَنْهَرًا ۚ وَسُبُلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ وَ  
عَلَّمَتْ بِالْحَبْجِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۚ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا  
يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا  
تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسَخِّبُكُمْ مِنْهَا فِي بَطْنِهِ مِنْ  
بَيْنِ قَرْنَيْهِ ۚ وَدُهْرًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِبِغًا لِلشَّرْبِ ۚ وَ مِنْ  
شَجَرِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَنْخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا  
حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَأَوْحَى رَبُّكَ  
إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ۚ وَ مِنَ الشَّجَرِ  
وَ مِنْهَا يَعْرُشُونَ ۚ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي  
سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ تَخْرُجِينَ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

(دغور) ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گو برا اور ہوسے اس سے ہم  
تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کیلئے خوشگوار ہے  
اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی (تم پینے کی چیزیں تیار  
کرتے ہو) کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو  
جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں انکے لئے ان (چیزوں) میں قدرت خدا  
کی نشانی ہے

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں  
میں اور درختوں میں اور (اونچی اونچی) چھتریوں میں جو لوگ

۳۔ اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی (مقام) عبرت  
بناتے ہیں گھر بنا

اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا اس کے پیٹ سے پینے کی چیر نکلتی ہے ۵

جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفا ہے پیشک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۶۶-۶۹﴾ ---

۴۔ اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لئے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۷۲﴾ ---

۵۔ اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل (اور ان کے علاوہ اور اعضا) بخشے تاکہ تم شکر کرو ۵

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے (اڑتے رہتے) ہیں۔ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے ایمان والوں کے لئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

اور خدا ہی نے تمہارے لئے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے جو پایوں کی کھالوں سے تمہارے لئے ڈیرے بنائے جن کو

أَلَوْنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

4- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَقْتُرُونَ ۝

5- وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ ۚ مَا يُسْكِنْنَ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ۖ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ

تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون

اور ریشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں (بناتے ہو جو) مدت تک (کام دیتی ہیں) ۵

اور خدا ہی نے تمہارے (آرام کے) لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غلاہیں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں۔ اور (ایسے) کرتے

(بھی) جو تم کو (اسلحہ) جنگ (کے ضرر) سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو ۵



اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو (اے پیغمبر) تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے ۰

یہ خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں۔ مگر (واقف ہو کر) ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر ناشکرے ہیں ۰

— (سورۃ النحل آیت ۸۴ تا ۸۸) —

۶۔ لوگو خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق (اور رازق) ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بے پھرے پھرتے ہو ۰

— (سورۃ فاطر آیت ۳) —

۷۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے مینہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کئے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور (بعض) کالے سیاہ ہیں ۰

انسانوں اور جانوروں اور چارپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ بیشک خدا غالب اور بخشنے والا ہے ۰

— (سورۃ فاطر آیت ۲۸ تا ۳۰) —

كذٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ۝ قُلْ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمُ الْبَلَاءُ الَّتِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۝ يَوْمَ يُنَادِي السَّمَاءُ السَّمِیْمَةُ ۝ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ ۝  
 ۶- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۝ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يُرِزُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ قَالُوا تَوْفَقُونَ ۝

۷- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۝ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝ وَمِنَ النَّبَاتِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ ۝ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝

۸- لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۝ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۝ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

۸۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو (یعنی قواعد عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا اس میں (اسلحہ جنگ کے لحاظ سے) خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں اور اس لئے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے۔ بیشک خدا قوی اور غالب ہے۔ ۰

۹۔ کیا ہم نے زمین کو پچھونا نہیں بنایا؟

اور پہاڑوں کو (اس کی) میخیں (نہیں ٹھہرایا؟)

(پیشک بنایا) اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا۔

اور نیند کو تمہارے لئے (موجب) آرام بنایا

اور رات کو پردہ مقرر کیا

اور دن کو معاش (کا وقت) قرار دیا

اور تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان) بنائے

اور (آفتاب کا) روشن چراغ بنایا

اور نچرتے بادلوں سے موسلا دھار مینہ برسایا

تا کہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں

اور گھنے گھنے باغ

﴿سورة النبا ۱۲﴾

۱۰۔ تو انسان کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے

بے شک ہم ہی نے پانی برسایا

پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا

پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا

اور انگور اور ترکاری

۹- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۙ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ وَخَلَقْنٰكُمْ

اَزْوَاجًا ۙ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا ۙ

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ وَ

جَعَلْنَا سِرَاجًا وَنَجَّاجًا ۙ وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً

مُنْتَجِدًا ۙ لِتُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَنَبَاتًا ۙ وَجَدَّتْ اَلْفَاقُ

۱۰- فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ ۙ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۙ

ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ وَعَبًّا وَ

قَضْبًا ۙ وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلًا ۙ وَحَدَاقٍ غُلْبًا ۙ وَفَاكِهَةً

وَازْطَاقًا ۙ فَمَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاٰلِعٰمِلِكُمْ ۙ



اور زیتون اور کھجوریں

اور گھنے گھنے باغ

اور میوے اور چارہ

(یہ سب کچھ) تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کیلئے بنایا

﴿سورة مجس آیات ۳۲۳﴾



مزید حوالے: البقرہ: ۲۳-۳۰-۳۲-۱۱۶-۱۲۲-۱۵۰-۲۱۱-۲۳۱-ال عمران: ۱۰۳-۱۰۷-۱۲۶-۱۲۷-المائدہ: ۳-۲۲-۱۱۳-الاعراف: ۱۰-۲۶-یوسف: ۶-۱۸-ہود: ۲۸-

انہمل: ۸۳-۱۱۳-الحجر: ۶۳-۶۵-المومنون: ۱۷-۲۲-انہمل: ۱۹-۸۶-الہکبوت: ۲۶-لقمان: ۳۱-السموٰۃ: ۲۷-الاحزاب: ۹-س: ۳۳-۳۱-۳۲-

الزمر: ۸-۲۱-۵۹-الشوریٰ: ۳۲-المجرات: ۸-الطور: ۲۹-النجم: ۵۵-القمر: ۳۵-الرحمن: ۳۱-آیات: واقعہ: ۶۳-۷۳-۷۴-القصم: ۲-۱۹-الضحیٰ

## اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا

۱۔ اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۰۸﴾ ---

۲۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۱۷﴾ ---

۳۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۸۲﴾ ---

۴۔ خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر نیکی (کی) ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۲۰﴾ ---

۵۔ (اے محمد) یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لئے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو (کچھ بھی) خبر نہ ہو ۵

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۳۱﴾ ---

۱- وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ۵

۲- مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ

فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِن أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۵

۳- ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ

لِّلْعٰبِدِيْنَ ۵

۴- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ وِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا

وَيُوْتُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۵

۵- ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا

غٰفِلُونَ ۵

۶- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلٰكِن النَّاسَ أَنفُسُهُمْ

يَظْلِمُونَ ۵

۷- وَلَا تَكُفُّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ۵

۸- وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ

۶۔ خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم

کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۴۲﴾ ---

۷۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے

اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ کہہ دیتی ہے اور ان

(لوگوں) پر ظلم نہیں کیا جائیگا ۵

--- ﴿سورۃ المؤمنون آیت ۶۲﴾ ---

۸۔ اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور

تا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے ۵

اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا

--- ﴿سورة الجاثية آیت ۲۲﴾ ---

۹۔ اور لوگوں نے جیسے کام کئے ہونگے انکے مطابق سب کے درجے ہونگے (غرض یہ ہے) کہ انکو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے

--- ﴿سورة الاحقاف آیت ۱۹﴾ ---

اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے

۱۔ اور نیکی کرو بیشک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

--- ﴿سورة البقرة آیت ۱۹۵﴾ ---

۲۔ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۲۲﴾ ---

۳۔ اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۳۶﴾ ---

۴۔ بیشک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۵۹﴾ ---

۵۔ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

--- ﴿سورة المائدة آیت ۴۲﴾ ---

۶۔ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے

يَا كَسِبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۹﴾

۹۔ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَابْوَقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۹﴾

۱۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱﴾

۲۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲﴾

۳۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۳﴾

۴۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۴﴾

۵۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۵﴾

۶۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۶﴾

۷۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴿۷﴾

۸۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ

بُنْيَانًا مَرْصُورًا ﴿۸﴾

۷۔ اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۰۸﴾ ---

۸۔ جو لوگ خدا کی راہ میں (ایسے طور پر) پرے جما کر لڑتے ہیں

کہ گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بیشک محبوب کردگار ہیں

--- ﴿سورة القف آیت ۴﴾ ---

مزید حوالے: اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا: البقرة: ۲۵۲-۲۸۱-۲۸۶- آل عمران: ۲۵-۱۱۷-۱۶۱- النساء: ۳۸-۱۲۳- الانعام: ۱۶۱- الانفال: ۶۱- التوبة: ۷۱- یونس: ۵۱- ہود: ۱۰۲- نحل: ۳۳-۱۱۱-۱۱۸- بنی اسرائیل: ۷۱- الکہف: ۵۰- مریم: ۶۰- طہ: ۱۱۳- الانبیاء: ۳۷- الحج: ۱۰- الشعراء: ۲۰۸- القصص: ۵۹- نساء: ۵۳- المؤمن: ۱۷- الحج المکرمہ: ۳۶- الاحزاب: ۷۱- ق: ۲۹- الطلاق: ۷

نیز دیکھئے: انصاف الہی کے اصول- جز ۱- کسب الاختیار- اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے- اللہ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔

## اللہ مومنوں کا دوست ہے

۱۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۰۷﴾ ---

۲۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۵۷﴾ ---

۳۔ اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۵﴾ ---

۴۔ تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور (خدا کے آگے) جھکتے ہیں ۵ اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کریگا تو (وہ) خدا کی جماعت میں داخل ہوگا اور (خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے) ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۵۶﴾ ---

۵۔ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے رو بہد حاضر کئے جائیں گے (اور جانتے ہیں کہ) اسکے سوا نہ تو انکا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ان کو اس (قرآن) کے ذریعے سے نصیحت کروتا کہ پرہیزگار نہیں ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۵۱﴾ ---

۱- اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَكُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ۝

۲- اَللّٰهُ وَّلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَابِكُمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَّلِيًّا ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝

۳- اِنَّمَا وَّلِيُّكُمْ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ ۗ وَ مَن يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَانَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

۴- وَ اَنْذِرْ بِهٖ الَّذِيْنَ يَخٰفُوْنَ اَنْ يُجَسَّرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَّلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعَةٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

۵- اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَّ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

۶- الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۗ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۗ لَا تَبْدِيْلُ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْقُوْوَةُ الْعَظِيْمَةُ ۝

۶۔ سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ۵

(یعنی) وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ۵ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ۵

--- ﴿سورة يونس آیت ۶۲﴾ ---

## اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے

۱۔ (اے محمد) تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش (ہو رہے) تھے ۵

--- ﴿سورۃ الحجر آیت ۷۷﴾ ---

۲۔ یس ۵ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے ۵

(اے محمد) بیشک تم پیغمبروں میں سے ہو ۵

سیدھے رستے پر ۵

--- ﴿سورۃ یسین آیت ۲۱﴾ ---

۳۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی پڑا جما کر ۵

پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر ۵

پھر ذکر (یعنی قرآن) پڑھنے والوں کی (غور کر کر) ۵

کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے ۵

--- ﴿سورۃ الصفت آیت ۲۱﴾ ---

۴۔ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے (کہ تم حق پر

ہو) ۵

مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں ۵

--- ﴿سورۃ ص آیت ۲۱﴾ ---

۵۔ تم ۵ کتاب روشن کی قسم ۵

کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو ۵

--- ﴿سورۃ الزخرف آیت ۲۱﴾ ---

۶۔ ق۔ قرآن مجید کی قسم (کہ محمد پیغمبر خدا ہیں) ۵

لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے

والا انکے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو (بڑی) عجیب

ہے ۵

--- ﴿سورۃ ق آیت ۲۱﴾ ---

۱۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ ۵

۲۔ یس ۵ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۵ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۵ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۵

۳۔ وَالصَّغِيْرَاتِ ذَكَرًا ۵ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۵

۴۔ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۵ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ مُّشْتَقٍ ۵

۵۔ حَمْدٌ ۵ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۵ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۵

۶۔ ق ۵ وَالْقُرْآنِ الْعَجِيْدِ ۵ بَلِ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۵ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۵

۷۔ وَالذُّرِّيَّتِ ذُرًّا ۵ فَأَلْحَمْتِ وَقُرًّا ۵ فَأَلْجَبِيْتِ ۵ يُسْرًا ۵

فَأَلْمَقْتَسِمْتِ أَمْرًا ۵ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ۵ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۵ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُبُكِ ۵ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۵

۸۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ۵ وَمَا تُوعَدُونَ ۵ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ۵

۷۔۔ بکھیرنے والیوں کی قسم جواڑا کر بکھیر دیتی ہیں ۵ پھر پانی کا

بوجھ اٹھاتی ہیں ۵ پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں ۵ پھر چیزیں تقسیم

کرتی ہیں ۵ کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے ۵

اور انصاف (کادن) ضرور واقع ہوگا ۵ اور آسمان کی قسم جس

میں رستے ہیں ۵ کہ (اے اہل مکہ) تم ایک متناقض بات میں

(پڑے ہوئے) ہو ۵

--- ﴿سورۃ الذاریات آیت ۸۱﴾ ---

۸۔ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان

میں ہے ۵

تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ (اسی طرح) قابل

یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو

--- ﴿سورة الذاریات آیت ۲۲-۲۳﴾ ---

۹۔ (کوہ) طور کی قسم ۰ اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ۰ کشادہ اوراق میں ۰ اور آباد گھر کی ۰ اور اونچی چھت کی ۰ اور ایسے ہوئے دریا کی ۰ کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ۰ (اور) اس کو کوئی روک نہیں سکے گا ۰

--- ﴿سورة الطور آیت ۸۲﴾ ---

۱۰۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ۰ کہ تمہارے رفیق (محمد) نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں ۰ اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں ۰ یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے ۰

--- ﴿سورة النجم آیت ۲۱﴾ ---

۱۱۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم ۰ اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے ۰ کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے ۰

--- ﴿سورة الواقعة آیت ۷۵-۷۷﴾ ---

۱۲۔ قلم کی اور جو (اہل قلم) لکھتے ہیں اس کی قسم ۰ کہ (اے محمد) تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو ۰ اور تمہارے لئے بے انتہا اجر ہے ۰ اور تمہارے اخلاق بڑے (عالی) ہیں ۰ ۱۳۔ تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں ۰ اور ان کی جو نظر نہیں آتیں ۰

۹- وَالطُّورِ ۚ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۚ فِي رَبِّیْ مَنشُورٍ ۚ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۚ وَالسَّكِّبِ الْمَرْفُوعِ ۚ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۚ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۚ

۱۰- وَاللَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۚ مَا صَلَّٰ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ

۱۱- فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ التُّجُورِ ۚ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٍ ۚ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۚ

۱۲- ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۚ مَا أَنْتَ بِبِعِزَّةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٌ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ

۱۳- فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ۚ وَمَا لَا تُبْصَرُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۚ

۱۴- فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ ۚ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۚ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۚ

۱۵- كَلَّا وَالْقَمَرِ ۚ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۚ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۚ إِنَّهَا لَأَحَدَىٰ الْكُبْرَىٰ ۚ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۚ

کہ یہ (قرآن) فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے ۰

--- ﴿سورة الحاقة آیت ۲۸-۳۰﴾ ---

۱۳۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں ۰ (یعنی) اس بات پر (قادر ہیں کہ) ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں ۰

--- ﴿سورة المعارج آیت ۳۰﴾ ---

۱۵۔ ہاں (ہاں ہمیں) چاند کی قسم ۰ اور رات کی جب بیٹھ پھیرنے لگے ۰ اور صبح کی جب روشن ہو ۰

کہ وہ (آگ) ایک بہت بڑی (آفت) ہے ۰ (اور) بنی آدم کے لئے موجب خوف ۰

--- ﴿سورة المدثر آیت ۳۲-۳۶﴾ ---

۱۶۔ ہم کو روز قیامت کی قسم ۰

اور نفس لوامد کی (کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کئے جائیں گے) ۰  
کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی (بکھری ہوئی) ہڈیاں  
اکٹھی نہیں کریں گے؟ ۰

ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اسکی پور پور درست  
کر دیں ۰

--- ﴿سورة القیمة آیت ۲۱ تا ۲۴﴾ ---

۱۷۔ ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں ۰ پھر زور پکڑ کر جھکڑ  
ہو جاتی ہیں ۰ اور (بادلوں کو) پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں ۰ پھر ان کو  
پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں ۰

پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں ۰

تا کہ عذر (رفع) کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے ۰  
کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا ۰

--- ﴿سورة المرسلات آیت ۱ تا ۷﴾ ---

۱۸۔ ان (فرشتوں) کی قسم جو ڈوب کر کھنچ لیتے ہیں ۰

اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں ۰ اور ان کی جو تیرتے  
پھرتے ہیں ۰ پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں ۰ پھر (دنیا کے)  
کاموں کا انتظام کرتے ہیں ۰ (کہ وہ دن آ کر رہے گا) جس

دن زمین کو بھونچال آئیگا ۰

پھر اس کے پیچھے اور (بھونچال) آئے گا ۰

اس دن (لوگوں کے) دل خائف ہو رہے ہوں گے ۰

(اور) آنکھیں جھکی ہوئی ۰

--- ﴿سورة النازعات آیت ۱ تا ۹﴾ ---

۱۶- لَا أُقْسِمُ بِبَيْتِ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۚ

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ تَجْمَعَهُ عِظَامُهُ ۚ بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَيَّ  
أَنْ أَسْؤَىٰ بِنَافِثِهِ ۚ

۱۷- وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۚ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۚ وَالنَّيِّرَاتِ نَشْرًا ۚ

فَالغُرُوتِ فُرْقًا ۚ فَالْمَلَقَاتِ ذِكْرًا ۚ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ۚ إِنَّكَ  
تُوعِدُونَ لَوَاقِعَهُ ۚ

۱۸- وَالتَّوَعُّتِ عُرْفًا ۚ وَالتَّشْيِطِ نَشْطًا ۚ وَالشَّيْطِ سَبًّا ۚ

فَالشَّيْطِ سَبًّا ۚ فَالْمَدَائِرِ أَمْرًا ۚ يَوْمَ تَرْجُفُ  
الرَّاجِفَةُ ۚ تَتَّبِعُنَا الرَّادِفَةُ ۚ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۚ

أَبْصَارًا خَاشِعَةٌ ۚ

۱۹- فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَلْسِ ۚ الْجَوَارِ الْكُنْيسِ ۚ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۚ

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۚ

۲۰- فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّقِيقِ ۚ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۚ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۚ

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۚ

۲۱- وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۚ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۚ وَ شَاهِدِ

۱۹۔ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ۰

اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں ۰

اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے ۰

اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے ۰

--- ﴿سورة التکویر آیت ۱۸ تا ۲۱﴾ ---

۲۰۔ ہمیں شام کی سرخی کی قسم ۰ اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ

اکٹھا کر لیتی ہے ان کی ۰ اور چاند کی جب کامل ہو جائے ۰ کہ تم

درجہ درجہ (رتبہ اعلیٰ پر) چڑھو گے ۰

--- ﴿سورة الانشقاق آیت ۱ تا ۱۶﴾ ---

۲۱۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں ۰ اور اس دن کی جس کا



وعدہ ہے ۰ اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی ۰ کہ خندقوں (کے کھودنے) والے ہلاک کر دیئے گئے ۰ (یعنی آگ کی خندقیں) جس میں ایندھن (جھوک رکھا) تھا ۰ جبکہ وہ ان (کے کناروں) پر بیٹھے ہوئے تھے ۰

--- ﴿سورة البروج آیت ۶۲﴾ ---

۲۲۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم ۰ اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے ۰ وہ تارا ہے چمکنے والا ۰

کہ کوئی تنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں ۰

--- ﴿سورة الطارق آیت ۳۲﴾ ---

۲۳۔ آسمان کی قسم جو مینہ برساتا ہے ۰ اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے ۰ کہ یہ کلام (حق کو باطل سے) جدا کرنے والا ہے ۰ اور بیہودہ بات نہیں ۰

--- ﴿سورة الطارق آیت ۱۳﴾ ---

۲۴۔ فجر کی قسم ۰ اور دس راتوں کی ۰ اور جفت اور طاق کی ۰ اور رات کی جب جانے لگے ۰ (اور) پیتھک یہ چیزیں عقلمندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں (کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا) ۰

--- ﴿سورة الفجر آیت ۵﴾ ---

۲۵۔ ہمیں اس شہر (مکہ) کی قسم ۰ اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو ۰ اور باپ (یعنی آدم) اور اس کی اولاد کی قسم ۰ کہ ہم نے انسان کو تکلیف (کی حالت) میں رہنے والا بنایا ہے ۰

--- ﴿سورة البلد آیت ۳﴾ ---

وَمَشْهُودٌ قَبْلَ أَصْحَابِ الْأُخْدُوْدِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوُوقُوْدِ ۝  
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝

22- وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ

الْقَائِمُ ۝ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّئِنَّا عَلَيْهَا حَافِظَةٌ ۝

23- وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ

لَقَوْلٌ قَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝

24- وَالْقَبْرِ ۝ وَكَيْلِ عَشِيرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَالْيَلِ إِذَا أَيْسَرَ ۝

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حُجْرٍ ۝

25- لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ

وَمَا وَكَدَ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَمَدٍ ۝

26- وَالنَّامِيسِ وَضُمِّهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا

جَلَّهَا ۝ وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝

وَالْأَرْضِ وَمَا طَعْنَاهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا

فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ

مَنْ دَسَّاهَا ۝

۲۶۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی ۰ اور چاند کی جب اس

کے پیچھے نکلے ۰ اور دن کی جب اسے چمکا دے ۰

اور رات کی جب اسے چھپالے ۰

اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ۰

اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلا یا ۰

اور انسان کی اور اس کی جس نے اسکے اعضا کو برابر کیا ۰

پھر اسکو بدکاری (سے بچنے) اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی ۰

کہ جس نے (اپنے) نفس (یعنی روح) کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا ۰

اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا ۰

--- ﴿سورة الشمس آیت ۱۰﴾ ---

27- وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۖ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۖ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

وَالْأُنثَىٰ ۖ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۖ

28- وَالضُّحَىٰ ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۖ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۖ

29- وَالرَّيِّثِينَ ۖ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ۖ وَطُورِ سِينِينَ ۖ وَهَذَا الْبَلَدِ

الْأَمِينِ ۖ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۖ

30- وَالْعَرَبِيتِ ضَبْعًا ۖ فَالْمُهْرَبِيتِ قَدْحًا ۖ فَالْمُخَبْرَبِيتِ صُبْحًا ۖ

فَأَنْزَلَنَ بِهِ نَقْعًا ۖ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ

لَكَنُودٌ ۖ

31- وَالْعَصْرِ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۖ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۖ

۲۷۔ رات کی قسم جب (دن کو) چھپالے ۵ اور دن کی قسم جب

چمک اٹھے ۵ اور اس (ذات) کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا

کئے ۵ کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے ۵

--- ﴿سورۃ الیل آیت ۲۷﴾ ---

۲۸۔ آفتاب کی روشنی کی قسم ۵

اور رات (کی تاریکی) کی جب چھا جائے۔ ۵

(اے محمد) تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ (تم

سے) ناراض ہوا ۵

--- ﴿سورۃ الضحیٰ آیت ۲۸﴾ ---

۲۹۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی ۵ اور طور سینین کی ۵ اور اس امن

والے شہر کی ۵ کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا

کیا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الامین آیت ۲۹﴾ ---

۳۰۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے

ہیں ۵ پھر پتھروں پر (نعل) مار کر آگ نکالتے ہیں ۵

پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں ۵

پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ العادیات آیت ۶۱﴾ ---

۳۱۔ عصر کی قسم ۵ کہ انسان نقصان میں ہے ۵ مگر وہ لوگ جو

ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق (بات)

کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے ۵

--- ﴿سورۃ العصر آیت ۳۱﴾ ---

## امام

1- وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ  
لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنْبَأُ عَهْدِي  
الظَّالِمِينَ ۝

2- يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنثَىٰ بِأَمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ  
بِيمِينَةٍ ۖ فَأُولَٰئِكَ نَفِخُ فِيهِمُ الرُّوحَ ۖ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝  
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ  
وَأَصْلَسَ سَبِيلًا ۝

3- وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
أَعْيُنٍ ۖ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ أُولَٰئِكَ نُجِزُونَ الْعُرْفَةَ  
بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا كَلْبًا ۖ وَسَلْبًا ۖ فِخْلَيْنِ فِيهَا ۖ  
حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

۱۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا (کہ پروردگار) میری اولاد میں سے بھی (پیشوا بنائیو) خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لئے نہیں ہوا کرتا ۝

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۲۳﴾ ---

۲۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جن (کے اعمال) کی کتاب ان کے واسطے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو (خوش ہو کر) پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا ۝

اور جو شخص اس (دنیا) میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور (نجات کے) رستے سے بہت دور ۝

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۷۱﴾ ---

۳۔ اور وہ جو (خدا سے) دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو

ہماری بیویوں کی طرف سے (دل کا چین) اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا ۝

ان (صفات) کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیئے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعاء و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے ۝ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے ۝

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۷۳﴾ ---

## امانت

۱۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور (دستاویز) لکھنے والا نمل سکے تو (کوئی چیز) رہن یا قبضہ رکھ کر (قرض لے لو) اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی رہن کے بغیر قرض دیدے) تو امانتدار کو چاہئے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے۔ اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۸۳﴾ ---

۲۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس (روپوں کا) ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو (فورا) واپس دیدے اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دسے ہی نہیں یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں ۵

مزید حوالے: المعارج: ۳۲۔ نیز دیکھئے: خیانت

۱- وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِيَ اٰمَانَتَهُ وَاٰمِنَ عَلَيْهِ رِبَّهٗ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰمِنٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۙ

۲- وَمِنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَامَنَهُ يَقْنَطُ بِرِبْوَدَةِ اِلَيْكَ ۙ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَامَنَهُ يَدِيْنٰرًا لَا يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قٰبِلًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاٰمِنَةِ سَبِيْلٌ ۗ وَ يَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ۙ

۳- اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا الْاٰمِنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا ۗ وَاِذَا حٰكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَعْلَمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُعْظَمُ بِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۙ

اور (اس بات کو) جانتے بھی ہیں ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۷۵﴾ ---

۳۔ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ بیشک خدا سنتا (اور) دیکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۵۸﴾ ---

## أُمَّت

۱۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزماں) تم پر گواہ بنیں ۵

--- ﴿سورة البقره آیت ۱۴۳﴾ ---

۲۔ (پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو خدا نے (ان کی طرف) بشارت دینے والے اور ڈرسانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودیکہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف)

آپس کی ضد سے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھادی اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقره آیت ۲۱۳﴾ ---

۳۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۰۴﴾ ---

- 1- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
- 2- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَاخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأُذُنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
- 3- وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
- 4- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكُوفُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْأَنْصَارُ وَالْمُسْلِمُونَ

۳۔ (مومنوں!) جتنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں (لیکن تھوڑے) اور اکثر نافرمان ہیں ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۱۰﴾ ---

۵۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتادے گا ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۴۸﴾ ---

۶۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں) ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو (ان پر رزق مینہ کی طرح برستا کہ) اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں ۶

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۶۶﴾ ---

۷۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برانہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا (نہ) کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال (ان کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں۔ پھر انکو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے ۷

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۰۸﴾ ---

۸۔ اور ہر ایک فرقے کے لئے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے جب وہ آجاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی ۸

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۳۴﴾ ---

5- وَكُوشَاءَ اللَّهِ بِعَلْمِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْغَيْرَاتِ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

6- وَكُنُوا لَهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ تَوْرِهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝

7- وَلَا تَسْئَلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْتَوْا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

8- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

9- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

10- إِنَّ إِلَهَهُمْ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ ۖ وَهَدَاهُ إِلَىٰ

۹۔ اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا ۹

--- ﴿سورة يونس آیت ۴۷﴾ ---

۱۰۔ بیشک ابراہیم (لوگوں کے) امام (اور) خدا کے فرمانبردار تھے

جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے ۱۰

اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ کیا



## امت مسلمہ

۱۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیو۔ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو اور (پروردگار) ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرما۔ بیشک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۲۸﴾ ---

۲۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں رہوں ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۷۲﴾ ---

۳۔ اور خدا (کی راہ) میں جہاد کرو۔ جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی۔ اور تمہارے لئے تمہارے باپ ابراہیم کا دین (پسند کیا) اسی نے پہلے (یعنی پہلی کتابوں میں) تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو) تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے

1- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ  
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  
2- وَأَصْرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ السُّلُوبِينَ  
3- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ  
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ  
سَمَّكُمُ السُّلُوبِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ  
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ



مقابلے میں شاہد ہوا اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا (کے دین کی رسی) کو پکڑے رہو۔ وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۷۸﴾ ---



مزید حوالے: البقرہ: ۱۳۳-۱۳۶-آل عمران: ۵۲-۶۳-۸۰-۸۲-۱۰۲-المائدہ: ۱۱۳-الانعام: ۱۶۳-الاعراف: ۱۲۶-یونس: ۹۰-حود: ۱۳-الحمل: ۸۹-۱۰۲

انمل: ۳۱-۳۸-۴۲-۸۱-الروم: ۵۳-الاحزاب: ۳۵-الزمر: ۱۲-نجم: ۳۲-الغرف: ۶۹ نیز دیکھئے: مسلمانوں کے باہمی تعلقات-

مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات



## امثال قرآن

۱۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے (شب تاریک میں) آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے ۵

(یہ) بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ (کسی طرح سیدھے رستے کی طرف) لوٹ ہی نہیں سکتے ۵

یا ان کی مثال مینہ کی سی ہے کہ آسمان سے (برس رہا ہو اور) اس میں اندھیرے پر اندھیرا (چھا رہا) ہو اور (بادل) گرج (رہا) ہو اور بجلی (کوند رہی) ہو تو یہ کڑک سے (ڈر کر) موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور خدا کافروں کو (ہر طرف سے) گھیرے ہوئے ہے ۵

قریب ہے کہ بجلی (کی چمک) ان کی آنکھوں (کی بصارت) کو اچک لیجائے جب بجلی (چمکتی اور) ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر خدا چاہتا تو انکے کانوں (کی شنوائی) اور آنکھوں (کی بینائی دونوں) کو زائل کر دیتا۔ بلاشبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

۱۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ۗ صُمُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۗ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ ۙ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اُذُنِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ ۙ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَ اللّٰهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۗ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ ۗ كَلِمًا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَافِئِهِ ۗ وَ اِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَعْيِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۗ

۲۔ مَثَلُ الَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَ اللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَ اللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ۗ

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَبْطُلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذَىٰ ۗ كَالَّذِيْ يَتَّقُ مَالَهُ رِثًاۗءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَبَشِّرْهُ بِمَا كَسَبَ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ

۲۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سودا نے ہوں اور خدا جس (کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کشائش والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۶۱﴾ ---

۳۔ مومنو! اپنے صدقات (و خیرات) احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برہانہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور

روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس (کے مال) کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ (اسی طرح) یہ (ریاکار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۵

اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو (جب) اس پر مینہ پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے ۵

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لئے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھا پا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو (ناگہاں) اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا گگولا چلے اور وہ جل (کر راکھ کا ڈھیر ہو) جائے اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو (اور سمجھو) ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۶۳-۲۶۴﴾ —

۴۔ یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال

فَأَصَابَهُ وَاِبْنٌ فَرَّغَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝  
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَكَيْفِيَّةٍ مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ ۗ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ أَيُّوَدُ أَحَدَكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا نَاجِيَةٌ ۖ وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْرَقَتْ ۖ كَذَلِكَ يَبْيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝  
4- مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَكَ فَوْرٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝  
5- وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ مِنهَا فَآتَيْنَاهُ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ وَكُوِّسْنَا لَعْنَتَهُ بِهَا

ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں ۵

— ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۱۷﴾ —

۵۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں (اور ہفت پارچہ علم شراعی سے مزین کیا) تو اس نے ان کو اتار دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ

گمراہوں میں ہو گیا ۵

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس (کے درجے) کو بلند کر دیتے۔ مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو (ان سے) یہ قصہ بیان کر دو تا کہ وہ فکر کریں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۱۷۵﴾ ---

۶۔ دنیا کی زندگی کی مثال مینہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا۔ پھر اسکے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں ملکر نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں ناگہاں رات کو یا ان کو ہمارا حکم (عذاب) آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ (کرا یا کر) ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم (اپنی قدرت کی) نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۲۳﴾ ---

وَ لِكَيْتَا أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ انبَغَتْهُ فَبْتَلَهُ  
كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ  
يَلْهَثُ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ  
فَأَقْصِبْ قَصِصَ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۶۔ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ  
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۚ  
حَتَّىٰ إِذَا آخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا  
أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ۚ إِنَّهَا أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا ۚ فَجَعَلْنَاهَا  
حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّكَ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۷۔ أُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا  
فَأَحْمَلَتِ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ  
فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ ۚ كَذَلِكَ  
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ  
وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْسِكُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ

۷۔ اسی نے آسمان سے مینہ برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور (پانی) جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح خدا (صحیح اور غلط کی) مثالیں بیان فرماتا ہے (تا کہ تم سمجھو) ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۱۷﴾ ---

۸۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی

مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے (اور) اسے اڑالے جائے۔ (اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی۔ یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے

--- ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۱۸﴾ ---

۹۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے (وہ ایسی ہے) جیسے پاکیزہ درخت جسکی جڑ مضبوط (یعنی زمین کو پکڑے ہوئے) ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا (اور میوے دیتا) ہو اور خدا لوگوں کیلئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے (نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند) زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار (و ثبات) نہیں

--- ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۲۴﴾ ---

۱۰۔ خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو (بالکل) دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے (بہت سا) مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے (رات دن)

يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

۸۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَا دِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۚ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَٰلُ الْبَعِيدُ

۹۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْثَرًا كُلِّ حَيْثُ يَأْذَنُ رَبُّهَا ۚ وَبِضْرِبِ اللَّهِ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

۱۰۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ مَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا ۚ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۚ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُرُ

پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ (ہرگز نہیں) الحمد للہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے

اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگا (اور دوسرے کی ملک) ہے (بے اختیار و ناتواں) کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور اپنے مالک کو دو بھر ہو رہا ہے وہ جہاں اسے بھیجتا ہے (خیر سے کبھی) بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا (گونگا بہرا) اور وہ شخص جو (سنتا بولتا اور) لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر چل رہا ہے دونوں

﴿سورۃ النحل آیت ۷۵﴾

۱۱۔ اور خدا ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ (ہر طرح) اس چین سے بستی تھی۔ ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا۔ مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر (ناشکری کا) مزہ چکھا دیا ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۱۲﴾

۱۲۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو (وہ ایسی ہے) جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسا یا۔ تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی پھر وہ چوراچورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں۔ اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۵

﴿سورۃ الصافات آیت ۴۵﴾

۱۳۔ لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لئے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب (یعنی عابد اور معبود دونوں) گئے گزرے ہیں ۵

﴿سورۃ الحج آیت ۷۳﴾

بِالْعَدْلِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۱۱- وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَّاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

۱۲- وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا ۙ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

۱۳- يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلًا فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝

۱۴- اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ الزُّجَاجَةُ كَالْكَأْسِ الْكُوفِيِّ ۗ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۗ

۱۴۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل (ایسی صاف شفاف ہے کہ) گویا سوتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے (یعنی) زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے (بڑی) روشنی پر روشنی (ہو رہی ہے) خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور خدا (جو) مثالیں بیان فرماتا ہے (تو)

لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اور خدا ہر چیز سے واقف

ہے ۵

--- ﴿سورۃ النور آیت ۳۵﴾ ---

۱۵۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال (کی مثال ایسی ہے) جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا سے پانی سمجھے۔ یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے ۵

یا (ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے) جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو (اور) اس کے اوپر اور لہر (آ رہی ہو اور) اس کے اوپر بادل ہو غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ ایک پر ایک (چھایا ہوا) جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی) روشنی نہیں (مل سکتی) ۵

--- ﴿سورۃ النور آیت ۳۹﴾ ---

۱۶۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا (اوروں کو) کار ساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک (طرح کا) گھر بناتی ہے

يَكَادُ زَيِّتُهُا لِيُصَيِّءَ وَكُلُّ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي  
اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

15- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً  
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّهٗ  
حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ أَوْ كظلماتٍ في بَحْرٍ لَمِينٍ  
يَعْمَسُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ظَلَمَتِ  
بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْتُمِبْهَا ۗ وَمَنْ  
لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۚ

16- مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ  
الْعَنْكَبُوتِ ۗ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ  
الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

17- قَمَحَدَّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ  
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي

اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش  
یہ (اس بات کو) جانتے ۵

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۴۱﴾ ---

۱۷۔ محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ  
کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اسے  
دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے) جھکے ہوئے  
سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے  
ہیں (کثرت) سجد کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے

ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ (وہ) گویا ایک کھیتی ہیں جس نے (پہلے زمین سے) اپنی سوئی نکالی۔ پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النّٰح آیت ۲۹﴾ ---

۱۸۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت (دآرائش) اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش) اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب (وخواہش) ہے (اس کی مثال ایسی ہے) جیسے بارش کہ (اس سے کھیتی اگتی اور) کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتی ہے پھر (اے دیکھنے والے) تو اس کو دیکھتا ہے کہ (پک کر) زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں (کافروں کے لئے) عذاب شدید اور (مومنوں کے لئے) خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحدید آیت ۲۰﴾ ---

۱۹۔ (منافقوں کی) مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ

التّٰوْرۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِیْلِ كَزُرْعٍ اٰخَرَ حَرَ سَطَنَهُ فَاَزْرَعُهَا  
فَاَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلٰی سُوْقِهِ یُعِیْبُ الزَّرَّاعَ لَیَغِیْظَ بِهِمُ  
الْكَفَّارُ وَعَدَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ  
مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ۵

18- اَعْلَمُوْا اَنَّهَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَّ لَهَا وَّرَیْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌ

بَیْنَكُمْ وَّ تَكَاۡثُرٌ فِی الْاَمْوَالِ وَّ الْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ  
اَنْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَكُوْنُ  
حُطَامًا ۵ وَفِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ۵ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ  
وَرِضْوَانٌ ۵ وَمَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ ۵

19- كَمَثَلِ الشَّیْطٰنِ اِذَا قَالَ لِلْاِنْسَانِ الْكُفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ

اِنِّیْۤ اَبْرَیۤءٌ مِّنْكَ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ۵

20- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیۤتَهُ خٰشِعًا

مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشَیۤةِ اللّٰهِ ۵ وَ لَیْلِكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ ۵

21- مَثَلُ الَّذِیْنَ حَمَلُوا التّٰوْرَةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ

سے کوئی سروکار نہیں مجھ کو تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ المشر آیت ۱۶﴾ ---

۲۰۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں ۵

--- ﴿سورۃ المشر آیت ۲۱﴾ ---

۲۱۔ جن لوگوں (کے سر) پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس (کے بار تھیل) کو نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کی

تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

﴿سورۃ الجمعہ آیت ۵﴾

## امر بالمعروف ونہی عن المنکر

۱۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں ۵

﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۰۴﴾

۲۔ (مومنو!) جتنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔

﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۱۰﴾

۳۔ (اے محمد) عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو ۵

﴿سورۃ الاعراف آیت ۱۹۹﴾

۴۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس (یعنی ایک ہی طرح کے) ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک

يَجْعَلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ  
اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۵

۱- وَ لَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵  
۲- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَكُنتُمْ مَوْتُونَ بِاللَّهِ ۵  
۳- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۵  
۴- الْمُتَّقُونَ وَ الْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا  
اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۵

کاموں سے منع کرتے اور (خرچ کرنے سے) ہاتھ بند کئے  
رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا  
بیشک منافق نافرمان ہیں ۵

﴿سورۃ التوبہ آیت ۶۷﴾

مزید حوالے: البقرہ: ۶۲-۱۷۱-آل عمران: ۵۹-الاحقاف: ۱۲۲-الاعراف: ۳۰-۵۸-ہود: ۲۳-النحل: ۲۶-۶۰-۷۳-۷۵-۹۲-بنی اسرائیل: ۳۸-۸۹

امثال قرآن الکہف: ۳۲-۳۳-۵۲-الفرقان: ۹-۳۹-الحکبوت: ۳۳-الروم: ۲۷-۲۸-۵۸-لس: ۱۳-۲۸-۷۹-۸۱-الزمر: ۲۱-۲۷-۲۹-نجم السجدہ: ۳۹-

الزخرف: ۱۷-۵۶-الجمادہ: ۲۳-محمد: ۳-۱۰-۱۵-الحشر: ۱۵-۱۷-المتفقون: ۳-الاحقاف: ۱۰-۱۲-الملك: ۲۲-الہم: ۱۷-۳۲-المدثر: ۳۱



۵۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا بیشک خدا غالب حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۷۱﴾ ---

۶۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کر نیک حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۴۱﴾ ---

۷۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور (لوگوں کو) اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت

5- وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

6- الَّذِينَ إِنْ مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

7- لِيَتَّقِيَ أَقْرَبَ الصَّلَاةِ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَاءً عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْدِقًا عَلَى مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں ۵

--- ﴿سورة لقمان آیت ۷۱﴾ ---

## امن و سلامتی

۱۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کر نیوالے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۸۳﴾ ---

۲۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر (آخر الزماں) آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب (الہی) میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بیشک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے ۵

جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۱۶۱﴾ ---

۳۔ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو۔ کیونکر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اب دونوں فریق میں سے کونسا فریق امن (اور جمعیت خاطر) کا مستحق ہے اگر سمجھ رکھتے ہو (تو بتاؤ) ۵

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے

۱۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَ تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

۲۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ۖ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۳۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

۴۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَيَسِّرُ لَهُمُ سُبُلَهُمْ لِيَسْهُلَ لَهَا وَهُمْ يَلْمِزُونَ ۝

مخلوط نہیں کیا ان کیلئے امن (اور جمعیت خاطر) ہے اور وہی ہدایت پائیوالے ہیں ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۸۲﴾ ---

۴۔ ان کیلئے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوستدار ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۶۷﴾ ---

۵۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۶۱﴾ ---

۶۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دیگا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔

--- ﴿سورة النور آیت ۵۵﴾ ---

۷۔ اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۶۳﴾ ---

5- وَإِنْ جَعَلُوا السَّلَامَ فَاَجْتَمَعْنَاهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝  
6- وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَسَيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُنْزِلُ اللَّهُ لَهُمْ سَبَابًا لِيَبْدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ  
7- وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

## امہات المؤمنین

۱۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کے رو سے مسلمانوں اور مہاجرین سے ایک دوسرے (کے ترکے) کے زیادہ حقدار ہیں۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب (یعنی قرآن) میں لکھ دیا گیا ہے ۵

۲۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں ۵

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر (یعنی بہشت) کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں ان کے لئے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۵

اے پیغمبر کی بیویوں میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ (بات خدا کو آسان ہے) ۵

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونوں ثواب دیں گے اور اس کے لئے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے ۵

۱- الْتَّبِيُّ اُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ  
وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ اِلَّا اَنْ تَعْلَمُوْا اِلَىٰ اَوْلِيَّكُمْ  
مَعْرُوْفًا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا ۝

۲- يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُمْ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  
وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَّ اُمْتَقِنْنَ وَاَسْرَحْنَ سَرًا حٰمِيْلًا ۝  
وَ اِنْ كُنْتُمْ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ  
اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ  
يَّاتِيَنَّ مِنْكُمْ بِفٰحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ  
ضِعْفَيْنِ ۝ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّقْتُلْ  
مِنْكُمْ يَدًّا وَرَسُوْلَهٗ وَ تَعْمَلْ صٰلِحًا نُؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرْتَبَتَيْنِ ۝  
وَ اَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ  
كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَيْتُنَّ فَلَآ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ  
فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝  
وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

اے پیغمبر کی بیویوں اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پر ہیبت گار رہنا چاہتی ہو تو (کسی اجنبی شخص سے) نرم نرم باتیں نہ کیا کرو تا کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید (نہ) پیدا کر لے اور (ان میں) دستور کے مطابق بات کیا کرو ۵

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح (پہلے) جاہلیت (کے دنوں) میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی

فرمانبرداری کرتی رہو ۰

اسے (پیغمبر کے) اہل بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی (کامیل کچیل) دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے ۰

اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت (کی باتیں سنائی جاتی ہیں) ان کو یاد رکھو۔ بے شک خدا باریک بین اور بانجبر ہے ۰

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۲۸﴾ ---

۳۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا (یہ) کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے

تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے (کوئی) حاجت (متعلق) نہ رکھی (یعنی اس کو

طلاق دے دی) تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لئے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے) میں جب وہ ان سے (اپنی)

حاجت (متعلق) نہ رکھیں (یعنی طلاق دے دیں) کچھ تنگی نہ

الْبَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَ آتَيْنَ الصَّلٰوةَ وَ آتَيْنَ الزَّكٰوةَ  
وَ آطَعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا ۗ وَ اذْكُرْنَ  
مَا يُنْقَلُ فِيْ يَوْمِكُنَّ مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۗ

3- وَ اذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  
اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تَخْفَىٰ فِيْ نَفْسِكَ  
مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَ يَخْفَىٰ النَّاسُ ۗ وَ اللّٰهُ اَحْقُ اَنْ تَخْشَىٰهُ  
فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ  
وَطَرًا ۗ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۗ

4- وَ اِذَا سَأَلْتُمُوْنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوْنَهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ  
ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ۗ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ  
تُوَدُّوا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ  
اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۗ

رہے اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا ۰

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۳۷﴾ ---

۴۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پروے کے باہر مانگو۔ یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کیلئے بہت پاکیزگی کی بات ہے اور تم کو یہ شایاں نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔

بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا (گناہ کا کام) ہے ۰

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۳﴾ ---

۵۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ (باہر نکلا کریں تو) اپنے (مومنوں) پر چادر لٹکا کر (گھونٹ نکال) لیا کریں یہ امر ان کیلئے موجب شناخت (واقتیاز) ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۹﴾ ---

۶۔ اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لئے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا (اس سے) اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۶

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۱﴾ ---

۷۔ اور (یاد کرو) جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو (اس نے دوسری کو بتادی) جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس (حال سے) پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے (ان بیوی کو وہ بات) کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے ۷

اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو (تو بہتر ہے کیونکہ) تمہارے دل کج ہو گئے ہیں اور اگر پیغمبر (کی ایذا) پر بہم اعانت کرو گی تو

5- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِمْ ذَلِكَ آذَنٌ لِّأَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

6- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

7- وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝ إِنَّ تَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝ عَسَىٰ رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مَسْلُوبَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قُنُوتٌ تَبِيَّتْ عُودٌ لِّسِيحَتِ يَبِيَّتْ وَأَبْكَارٌ ۝



خدا اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی (اور دوستدار ہیں) اور ان کے علاوہ (اور) فرشتے بھی مددگار ہیں ۷  
اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیبیاں دے دے مسلمان صاحب ایمان فرمانبردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں بن شوہر اور کنواریاں ۷

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۲﴾ ---



## انبیاء کے نام

حضرت ابراہیم علیہ السلام

۱۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ (پروردگار) میری اولاد میں سے بھی (پیشوا بنائیو) خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لئے نہیں ہوا کرتا

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۲۴﴾ ---

۲۔ اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کر نیوالوں میں ہو جائیں

(یعنی) جب رات نے ان کو (پردہ تاریکی سے) ڈھانپ لیا تو (آسمان میں) ایک ستارا نظر پڑا کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں

پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائیگا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤنگا جو بھٹک رہے ہیں

پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار

۱- وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

۲- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ وَكَذَلِكَ لُبَّىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَعْلِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۖ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَحَاجَّجَهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَ أَنُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۖ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں

میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے خدا کے بارے میں (کیا) بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ہاں جو میرا پروردگار کچھ

چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے کیا تم خیال نہیں کرتے؟

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو۔ کیونکر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کونسا فریق امن (اور جمعیت خاطر) کا مستحق ہے اگر سمجھ رکھتے ہو (تو بتاؤ)۔

— (سورۃ الانعام آیت ۸۱ تا ۸۲) —

حضرت ادریس علیہ السلام

۳۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو۔ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔

اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھایا تھا۔

— (سورۃ مریم آیت ۵۷ تا ۵۸) —

حضرت آدم علیہ السلام

۴۔ اور (وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بناؤں گا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کیسا تھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں (خدا نے) فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

اور اس نے آدم کو سب (چیزوں کے) نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

3- وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

4- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۖ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكَةِ فَقَالَ

أَسْمِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ اسْمِعْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَمَا كَلَّمَا آبَاءَهُمْ

بِأَسْمَائِهِمْ ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ

انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بیشک تو دانا (اور) حکمت والا ہے۔ (تب) خدا نے (آدم کو) حکم دیا کہ آدم! تم ان کو ان (چیزوں) کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو (فرشتوں سے) فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی (سب) پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو (سب) مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔



اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ( رہو )  
 اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ ( پیو ) لیکن اس درخت  
 کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ( داخل ) ہو جاؤ گے ۵  
 پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس ( عیش و  
 نشاط ) میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ  
 ( بہشت بریں سے ) چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور  
 تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش ( مقرر  
 کر دیا گیا ) ہے ۵

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے ( اور معافی  
 مانگی ) تو اس نے انکا قصور معاف کر دیا پیشک وہ معاف کر نیوالا  
 ( اور ) صاحب رحم ہے ۵

ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس  
 میری طرف سے ہدایت پہنچے تو ( اسکی پیروی کرنا کہ ) جنہوں  
 نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ  
 غمناک ہوں گے ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۸۲﴾ —

حضرت اسحاق علیہ السلام

۵۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لیکر آئے تو  
 سلام کہا انہوں نے بھی ( جواب میں ) سلام کہا ابھی کچھ وقفہ  
 نہیں ہوا تھا کہ ( ابراہیم ) ایک بھنا ہوا چھڑا لے آئے ۵ جب

وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ وَإِذْ  
 قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۝ إِلَى  
 وَاسْتَكْبَرَ ۝ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ  
 وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا  
 هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ  
 عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ  
 لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝  
 فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۝ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ  
 الرَّحِيمُ ۝ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۝ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي  
 هُدًى فَمَنِ تَّبِعَ هَدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝  
 5 وَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا  
 قَالِ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئٍ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ  
 آيَاتِهِمْ لَا تَعْمَلُ الْيَتِيمَ أَكْرَهُمْ وَ أَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۝  
 قَالُوا لَا تَنْخَفُ إِنَّآ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۝ وَأَمْرًا لِّئَلَّا يَقُولُوا

دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے ( یعنی وہ  
 کھانا نہیں کھاتے ) تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔  
 فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم قوم لوط کی طرف ( ان کے  
 ہلاک کرنے کو ) بھیجے گئے ہیں ۵

اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو  
 اسحق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی ۵

اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا۔ میں تو بڑھیا ہوں یہ  
 میرے میاں بھی بوڑھے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے ۵ انہوں  
 نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم

پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے ۵

--- ﴿سورة هود آیت ۶۹ تا ۷۳﴾ ---

حضرت اسمعیل علیہ السلام

۶۔ (مسلمانوں) کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو (کتاب) ہم پر اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو (کتابیں) موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر (سب پر ایمان لائے) ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (خدائے واحد) کے فرمانبردار ہیں ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۳۶﴾ ---

۷۔ اور (ابراہیم) بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا ۵ اے پروردگار مجھے (اولاد) عطا فرما (جو) سعادت مندوں میں سے (ہو) ۵ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی ۵

جب وہ انکے ساتھ دوڑنے (کی عمر) کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ (گویا) تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائے گا ۵

جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل

فَصَلِحْ كُنْ فَبَشِّرْهُمَا بِاسْحَاقَ ۚ وَمِنْ وَّرَآءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۚ  
قَالَتْ يٰوَيْلَتِيْ اَلِدُّ وَاَنَا عَجُوزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۗ اِنَّ هٰذَا  
لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝۱۰ قَالُوْا اَتَعْجِبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةً  
اللّٰهِ وَرِڪْنَةً عَلَيْكُمْ اٰهْلَ الْبَيْتِ ۗ اِلٰهٌ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝۱۱  
قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ اِلَىٰ اٰبَائِنَا  
وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى  
وَ عِيسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ لَا نَعْرِقُ بَيْنَ  
اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝۱۲  
وَقَالَ لِنِّىْ ذٰهَبٌ اِلَىٰ رَبِّىْ سَيِّدِيْنَ ۝۱۳ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ  
الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۴ فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ ۝۱۵ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ  
السِّنَّ قَالَ لِيَّبْنَتِيْ لِيْ اَرَىٰ فِى الْبَنَاتِ اَنْىَ اَدْخُكَ فَاَنْظُرْ  
مَاذَا تَرَىٰ ۝۱۶ قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ  
اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝۱۷ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّذَ لِلْحَيِيْنَ ۝۱۸ وَنَادَيْتُهُ  
اَنْ يَّا بُرْهِيْمُ ۝۱۹ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْمٰى ۗ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي  
الْمُحْسِنِيْنَ ۝۲۰ اِنَّ هٰذَا لَهُو الْبَلٰؤُا الْمُبِيْنُ ۝۲۱ وَفَدَيْنُهُ

لٹا دیا ۵ تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم ۵

تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے تھے ۵

بلاشبہ یہ صریح آزمائش تھی ۵

اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا ۵

اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا (ذکر خیر باقی) چھوڑ دیا ۵

کہ ابراہیم پر سلام ہو ۵

نیکو کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ۵

بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ۵

اور ہم نے ان کو اسحق کی بشارت بھی دی (کہ وہ) نبی (اور) نیکوکاروں میں سے (ہوں گے) ۰

﴿سورۃ الصفت آیت ۹۹﴾

### حضرت الیاس علیہ السلام

۸۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے ۰

جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ۰

کیا تم بعل کو پکارتے (اور اسے پوجتے ہو) اور سب سے بہتر پیدا کر نیوالے کو چھوڑ دیتے ہو ۰

(یعنی) خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے ۰

تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلادیا سو وہ (دوزخ میں) حاضر کئے جائینگے ۰

ہاں خدا کے بندگان خالص (بتلائے عذاب نہیں ہونگے) ۰

اور ان کا ذکر (خیر) پچھلوں میں (باقی) چھوڑ دیا ۰

کہ الیاسین پر سلام ۰

ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ۰

پیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ۰

﴿سورۃ الصفت آیت ۱۲۳﴾

### حضرت ایس علیہ السلام

۹۔ اور اسعیل اور ایس اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ وہ سب نیک

لوگوں میں سے تھے ۰

﴿سورۃ ص آیت ۲۸﴾

يَذُبح عَظِيمًا ۝ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَّمَ عَلٰى

اِبْرٰهِيْمَ ۝ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا

الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَبَشَرْنٰهُ بِاسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

۸- وَ اِنَّ الْيٰسَ لَيَمُوْنُ الْمَرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ۝ اللّٰهُ رَبُّكُمْ وَ

رَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ فَكذبُوْهُ فَاَلْتَمَّوْا لِحُضْرُوْنَ ۝ اِلَّا

عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِيْنَ ۝ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ۝ سَلَّمَ

عَلٰى اِلٰنِ يٰسِيْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهٗ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

۹- وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ ۝ وَ كُلٌّ مِّنَ الْاٰخِيَارِ ۝

۱۰- وَ اذْكُرْ عَبْدًا نَّآئِبًا ۝ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اِنِّىْ مَسْتَشِي الْعِطْبٰنُ

بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ ۝ اُرْكُضْ بِرَجْلِكَ ۝ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ

شَرَابٌ ۝ وَ هَبْنَا لَهٗ اٰهْلًا ۝ وَ فَاٰلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ ۝ وَ تَا وَ

ذِكْرٰى لِاُولٰٓئِكَ الْاَلْبَابِ ۝

### حضرت ایوب علیہ السلام

۱۰۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے

رب کو پکارا کہ (بارالہا) شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے

رکھی ہے ۰

(ہم نے کہا کہ زمین پر) لات مارو (دیکھو) یہ (چشمہ نکل آیا)

نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو (شیریں) ۰

اور ہم نے ان کو اہل (وعیال) اور ان کے ساتھ ان کے

برابر اور بخشے (یہ) ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کیلئے

نصیحت تھی ۰

﴿سورۃ ص آیت ۲۳﴾

## حضرت داؤد علیہ السلام

۱۱۔ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب (تیار) ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ۵

--- ﴿سورۃ ص آیت ۲۶﴾ ---

## حضرت ذوالکفل علیہ السلام

۱۲۔ اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکفل (کو بھی یاد کرو) یہ سب صبر کرنے والے تھے ۵

--- ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۸۵﴾ ---

## حضرت زکریا علیہ السلام

۱۳۔ اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا ۵

انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا۔ جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں ۵

۱۱۔ يٰۤاٰدُوۤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌ يَّسْتَوۡوۡنَ يَوْمَ الْحِسَابِ ۵

۱۲۔ وَاِسْمٰعِيۡلَ وَاِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيۡنَ ۵

۱۳۔ يٰۤزَكَرِيَّا اِنَّا نَبِّـُٔكَ بِعَلِيۡمٍ اِسْمُهٗ يَحْيٰى ۗ لَمۡ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنۡ قَبْلُ سَمِيًّا ۗ قَالَ رَبِّ اِنِّىۡ يَكُوۡنُ لِىۡ غُلٰمٌ وَّ كَاٰنَتِ اِمْرَاۡتِىۡ عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغَتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۗ قَالَ كَذٰلِكَ ۗ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓؤُنۡ هَيۡوَنٌ وَّ قَدْ خَلَقْنَاكَ مِنۡ قَبْلُ وَا لَمۡ تَكۡ سَمِيًّا ۗ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِىۡ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيٰتِكَ اِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۗ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْيَحْرَابِ فَاُوۡحِيَ اِلَيْهِمۡ اَنْ سَبِّحُوۡا بُرۡ۫ءَةً وَّعَشِيًّا ۗ

حکم ہوا کہ اسی طرح (ہوگا) تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے ۵

کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صبح و سالم ہو کر تین رات (دن) لوگوں سے بات نہ کر سکو گے ۵

پھر وہ (عبادت) کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام (خدا کو) یاد کرتے رہو ۵

۱۳۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو ہمیں (خدا کی طرف سے) جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے بیشک یہ (اسکا) صریح فضل ہے ۵ اور سلیمان کے لئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے گئے اور وہ قسم وار کئے گئے تھے ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۱۶﴾ ---

### حضرت شعیب علیہ السلام

۱۵۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا (تو) انہوں نے کہا کہ قوم! خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آچکی ہے تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے ۵

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۸۵﴾ ---

### حضرت صالح علیہ السلام

۱۶۔ (اور قوم) شمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ۵ جب ان سے انکے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ۵

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں ۵

14- وَوَرَّثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَآوَيْنَا مِنۡ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝ وَحٰشِرَ السُّلَيْمٰنِ جُنُوْدًا مِّنَ الْجِنِّ وَالاِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ ۝

15- وَ اِلٰى مَدِيْنَةٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يَتَقَوَّمُ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ؕ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنۡ رَبِّكُمْ فَاقُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۚ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

16- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الطَّرْسِيْنَ ۙ اِذْ قَالَ لَهُمَّا اٰخُوهُمۡ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۙ اِلٰى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ۙ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنۡ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

17- وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْۙ اِنَّ اللّٰهَ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۙ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَقْوَاهِمۡ ؕ يَضٰهُوْنَ قَوْلَ

تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو ۵

اور میں اسکا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ (خدا نے) رب العالمین کے ذمے ہے ۵

--- ﴿سورۃ الشعراء آیت ۱۳۱﴾ ---

### حضرت عزیر علیہ السلام

۱۷۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں

خدا ان کو ہلاک کرے۔ یہ کہاں پہنچے پھرتے ہیں ۰

--- ﴿سورة التوبة آیت ۳۰﴾ ---

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۱۸۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھالوں گا اور تمہیں کافروں (کی صحبت) سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق (وغالب) رکھوں گا پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا ۰

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۵۵﴾ ---

حضرت لوط علیہ السلام

۱۹۔ (اور) قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ۰

جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ۰

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں ۰

تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو ۰

اور میں تم سے اس (کام) کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ (خدا نے)

رب العالمین کے ذمے ہے ۰

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَلَمْ يُؤْفَكُوا ۚ

۱۸۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْسَىٰ إِنِّي مَتَّوِّفِكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَّ وَ مَطَّهْرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ

۱۹۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ۚ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِ اجْتَبَيْتُمُ اللَّاعِلِيَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلِ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۚ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۚ

کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو۔ ۰

اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لئے تمہاری بیویاں پیدا

کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل

جانے والے لوگ ہو ۰

وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیئے جاؤ گے ۰

--- ﴿سورة الشعراء آیت ۱۶۷﴾ ---

## حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

۲۰۔ اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور) جو (کتاب) مجھے پہلے آچکی ہے (یعنی) تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سنا تا ہوں (پھر) جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے

--- ﴿سورۃ الصف آیت ۶﴾ ---

۲۱۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں) اور خدا ہر چیز سے واقف ہے

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۴۰﴾ ---

## حضرت موسیٰ علیہ السلام

۲۲۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے مجھڑے کو (معبود) ٹھہرانے میں (بڑا) ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بیشک معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۵۴﴾ ---

20- وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ

اللّٰهِ إِلَيْكُمْ فَصَدَّقَّا لَهَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿

21- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿

22- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مَنكُفِرِينَ ۗ فَأَتَيْنَاكُمُ الْعِجْلَ فَنُودُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ ۗ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿

23- وَكَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْاَلْوَمِ ﴿

24- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ

## حضرت نوح علیہ السلام

۲۳۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا (تو انہوں نے) ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈرسانے اور یہ پیغام (پہنچانے) آیا ہوں

کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت عذاب الیم کا خوف ہے

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۲۶﴾ ---

## حضرت ہارون علیہ السلام

۲۴۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا

اور وہ گنہگار لوگ تھے ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۷۵﴾ ---

حضرت ہود علیہ السلام

۲۵۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں؟ ۵

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۶۵﴾ ---

حضرت یحییٰ علیہ السلام

۲۶۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی (اور) کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما۔ تو بیشک دعا سننے (اور قبول کرنے) والا ہے۔ ۵

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ (زکریا) خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض (یعنی عیسیٰ کی) تصدیق کریں گے اور سردار ہونگے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور (خدا کے) پیغمبر (یعنی) نیکو کاروں میں ہوں گے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۳۹﴾ ---

حضرت یعقوب علیہ السلام

۲۷۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور (اسحاق

ملا بہ بالیتنا فاستکبروا وكانوا قوماً مجرمین ۵

25- وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۵

26- هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۵ فَكَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْغُرَابِ أَنْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۵

27- فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۵

28- إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ رَأَيْتُهُمْ لِي سُجُودِينَ ۵ قَالَ يَبْنَئِي لَكَ قَبْرًا وَلَا تَقْضُ رُءُوكَ عَلٰى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ

کو) یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا ۵

--- ﴿سورۃ مریم آیت ۳۹﴾ ---

حضرت یوسف علیہ السلام

۲۸۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے (خواب

میں) گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا (کیا)

ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں ۵

انہوں نے کہا کہ بیٹا! اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ

کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے کچھ



شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ۰

اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ (و ممتاز) کرے گا اور (خواب کی) باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر داد ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اولاد یعقوب پر پوری کریگا بیشک تمہارا پروردگار (سب کچھ) جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۰

--- ﴿سورۃ یوسف آیت ۶۲﴾ ---

### حضرت یونس علیہ السلام

۲۹۔ (اے محمد) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی ۰

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۶۳﴾ ---

كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَاتِ وَيُعَلِّمُكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ أِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

29-

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۝ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝

حضرت ادریس علیہ السلام

مزید حوالے: حضرت ابراہیم علیہ السلام

البقرہ-۱۲۵-۱۲۶-۱۳۲-۱۳۶-۲۵۸-۲۶۰ آل عمران: ۶۵-۶۷-۶۸-۸۳ الانبیاء: ۸۵

حضرت آدم علیہ السلام

۹۵-۹۷-النساء: ۵۳-ہود-۷۳-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵

حضرت الخنق عليه السلام

البقره: ۱۳۲-۱۳۶-۱۳۰-آل عمران: ۸۳-النساء: ۱۶۴-الانعام: ۷۳-  
ابراہیم: ۱۰۹-یوسف: ۶-۲۸-مریم: ۵۹-الانبياء: ۷۲-العنكبوت:  
۲۷-ص: ۲۵-الصفت: ۱۱۲-۱۱۳

حضرت اسماعیل علیہ السلام

البقره: ۱۲۷-۱۳۳-۱۳۰-آل عمران: ۸۳-الانعام: ۸۶-مریم: ۵۳-  
حضرت السبع علیہ السلام الانعام: ۸۶-

حضرت ایوب علیہ السلام النساء: ۱۶۲-الانعام: ۸۴-الانبياء: ۸۳

حضرت داؤد علیہ السلام البقره: ۲۵۱-النساء: ۱۶۲-المائدہ: ۸۱-

الانعام: ۸۳-بنی اسرائیل: ۵۵-الانبياء: ۷۸-۷۹-ص: ۱۷-۲۲-۲۳

حضرت ذوالکفل علیہ السلام ص: ۲۸-

حضرت زکریا علیہ السلام آل عمران: ۳۷-۳۸-الانعام: ۸۵-الانبياء: ۸۹

حضرت سلیمان علیہ السلام

البقره: ۱۰۲-الانبياء: ۷۸-۷۹-۸۱-النمل: ۳۰-۳۲-سباء: ۱۲-ص: ۲۹-۳۰

حضرت شعیب علیہ السلام

ہود: ۸۳-۸۶-۹۱-۹۵-الشعراء: ۱۷۷-۱۸۹-العنكبوت: ۳۶

حضرت صالح علیہ السلام

الاعراف: ۷۲-۷۳-۷۶-ہود: ۶۰-۶۲-۶۳-۶۶-۸۹-النمل: ۳۵

حضرت یونس علیہ السلام

البقره: ۸۷-۲۵۳-۲۶۰-آل عمران: ۳۵-۵۲-۵۹-النساء: ۱۵۶-۱۷۰-

المائدہ: ۳۹-۸۱-۱۱۳-۱۱۵-۱۱۹-الانعام: ۳۵-مریم: ۳۳-الصفت: ۶-۱۳-

الشعراء: ۱۳-الزخرف: ۶۳-المدید: ۲۷

حضرت لوط علیہ السلام

الانعام: ۸۶-الاعراف: ۷۹-ہود: ۷۷-۸۱-الانبياء: ۷۱-

۷۳-النمل: ۵۳-العنكبوت: ۲۲-۲۸-۲۵-۳۳

الصفت: ۱۳۳-ص: ۱۳-التحریم: ۱۰

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

آل عمران: ۱۱۳-محمد: ۲-الحج: ۲۱

حضرت موسیٰ علیہ السلام

البقره: ۵۱-۵۳-۵۵-۶۰-۶۱-۶۷-۸۷-۹۲-۹۸-۱۰۸

۱۳۶-۲۳۶-آل عمران: ۸۳-النساء: ۱۵۴-المائدہ: ۲۲-۲۳-۲۷

الانعام: ۳۳-الصفت: ۱۱۳-۱۲۰-

حضرت ہود علیہ السلام

ہود: ۵۰-۵۳-۵۸-۶۰-۸۹-الشعراء: ۱۲۳

حضرت یحییٰ علیہ السلام

الانعام: ۸۵-مریم: ۶-۱۱-الانبياء: ۹۰

حضرت یعقوب علیہ السلام

البقره: ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۰-آل عمران: ۸۵-النساء: ۱۶۲-الانعام: ۸۴

ہود: ۷۱-یوسف: ۶-۳۸-۶۸-مریم: ۵-العنكبوت: ۲۷-ص: ۳۸

حضرت یوسف علیہ السلام

المومن: ۳۳-

تیزدیکھے سورہ یوسف

حضرت یونس علیہ السلام

الانعام: ۸۶-الانبياء: ۸۷-الصفت: ۱۳۹

## انتقام

۱۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۹۳﴾ —

۲۔ یہ (بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے) اور جو شخص (کسی کو) اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کریگا۔ بیشک خدا معاف کر نیوالا (اور) بخشنے والا ہے۔

— ﴿سورۃ الحج آیت ۶۰﴾ —

۱- اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ  
فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  
اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ۝

۲- ذٰلِكَ ۗ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ  
لِيُصْرَفَهُ ۗ اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝



۱- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  
اَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ۗ مِنْ قَبْلُ هَدَىٰ لِلنَّبِيِّنَ وَ  
اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝

۲- وَ قَفَّيْنَا عَلَىٰ اَنۡاُرِهِمۡ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

## انجیل

نازل کیا

— ﴿سورۃ آل عمران آیت ۴۳﴾ —

۲۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہیں کے قوموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی (کتاب) ہے تصدیق

۱۔ اس نے (اے محمد) تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔  
(یعنی) لوگوں کی ہدایت کیلئے (تورات اور انجیل اتاری) اور پھر قرآن (جو حق اور باطل کو) الگ الگ کر دینے والا ہے

انتقام مزید حوالے: البقرہ: ۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹

کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے ۵  
 اور اہل انجیل کو چاہئے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے  
 ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں۔ اور جو خدا کے نازل کئے  
 ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں ۵

﴿سورة المائدہ آیت ۲۶﴾---

۲۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم  
 ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں  
 داخل کرتے ۵

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں) ان کے  
 پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو  
 (ان پر رزق مینہ کی طرح برستا کہ) اپنے اوپر سے اور پاؤں  
 کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت  
 سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں ۵

﴿سورة المائدہ آیت ۶۵﴾---

۳۔ کہو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو

يَدِيهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  
 وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً  
 لِّلْمُتَّقِينَ ۗ وَلِيَحْكُمَ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيهِ ۗ وَ  
 مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاولئك همُ الْفٰسِقُونَ ۝

3- وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ التَّقُوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ  
 سٰبِقِيْنَ ۗ وَ لَادْخُلْنٰهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمُ ۝ وَ لَوْ اَكْفَرُوْا  
 اَقَامُوْا التَّوْرَةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَا اَنْزَلَ اِلَيْهِمْ مِنْ  
 رَّبِّهِمْ لَا كُفْرًا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ۗ  
 مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۗ وَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ سَآءٌ مَا  
 يَعْمَلُوْنَ ۝

4- قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى سَبِيْلِ حَقٍّ تَقِيْمُوْا التَّوْرَةَ  
 وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗ



(اور کتابیں) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل

ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے ۵

﴿سورة المائدہ آیت ۶۸﴾---



## انسان

۱۔ خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان (طبعاً) کمزور پیدا ہوا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۸﴾ ---

۲۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا (ہر حال میں) ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو (بے لحاظ ہو جاتا اور) اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۱۲﴾ ---

۳۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو ناامید (اور) ناشکرا (ہو جاتا) ہے ۵

--- ﴿سورة ہود آیت ۹﴾ ---

۴۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو (مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے) کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف (اور) ناشکرا ہے ۵

--- ﴿سورة ابراهيم آیت ۳۲﴾ ---

۵۔ اور انسان جس طرح (جلدی سے) بھلائی مانگتا ہے اسی

۱۔ یُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

۲۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَفَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

۳۔ وَكَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِتْقَانًا لِيُتُوسَ كُفُورًا

۴۔ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

۵۔ وَيَذُرُّ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

۶۔ وَإِذْ آتَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ عَرَصًا وَنَا بَنِيهِ ۚ وَإِذْ آتَيْنَا الشَّرَّ كَانَ يَتُوسًا

۷۔ قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ لَا أَمْسَلْتُمْ

طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز (پیدا ہوا) ہے ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱۱﴾ ---

۶۔ اور جب ہم انسان کو نعمت بخشے ہیں تو روگرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۸۳﴾ ---

۷۔ کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے (ان کو)

بند کر رکھتے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے ۵

--- ﴿سورة نبي اسرا نکل آیت ۱۰۰﴾ ---

۸۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کے سمجھانے) کیلئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے ۵

--- ﴿سورة الكهف آیت ۵۲﴾ ---

۹۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے (میرے) علم (ودانش) کے سبب ملی ہے (نہیں) بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۳۹﴾ ---

۱۰۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگب جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں ۵

--- ﴿سورة قل آیت ۱۶﴾ ---

۱۱۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے ۵

--- ﴿سورة النجم آیت ۲۵﴾ ---

۱۲۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة النجم آیت ۳۹﴾ ---

خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

8- وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

9- فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً وَتَنَاءً

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ ۝

10- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

11- أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمْتَقِي ۚ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ

12- وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ

13- إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۚ

14- أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجْعَلَ عِظَامُهُ ۚ بَلْ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ

تُسَوَّىٰ بَنَاتُهُ ۝

15- هَلْ أُلِي عَلَىٰ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ۚ

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۚ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَوِيْعًا

۱۳۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے ۵

--- ﴿سورة العارج آیت ۱۹﴾ ---

۱۴۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی (بکھری ہوئی)

ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ۵

ضرور کریں گے (اور) ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور

درست کر دیں ۵

مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے ۵

--- ﴿سورة القیمر آیت ۵۲﴾ ---

۱۵۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے

کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا

ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو مستاد دیکھنا بنایا

(اور) اسے رستہ بھی دکھادیا (اب وہ) خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر

--- ﴿سورۃ الدھر آیت ۳۲﴾ ---

۱۶۔ اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟ (وہی تو ہے) جس نے تجھے بنایا اور (تیرے) اعضاء کو) ٹھیک کیا اور (تیری قامت کو) معتدل رکھا

اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا

--- ﴿سورۃ الانفطار آیت ۸۲﴾ ---

۱۷۔ ہم نے انسان کو تکلیف (کی حالت) میں (رہنے والا) بنایا ہے

--- ﴿سورۃ البلد آیت ۴﴾ ---

۱۸۔ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے

--- ﴿سورۃ التین آیت ۲﴾ ---

۱۹۔ اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا

مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے

جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے

کچھ شک نہیں کہ (اس کو) تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ

کر جانا ہے

--- ﴿سورۃ العلق آیت ۸﴾ ---

بَصِيرًا ۞ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِنَّمَا شَاكِرًا وَاِنَّمَا كَفُوْرًا ۞  
۱۶۔ يَاۤ اِنۡسَانَ ۙ اِنۡسَانَ مَا غَوَّكَ بِرَبِّكَ الْكُرۡبُوۡمُ ۙ الَّذِيۡ خَلَقَكَ  
فَسَوَّكَ فَعَدَدَكَ ۙ فِيۡۤ اٰیۡ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ ۙ

۱۷۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنۡسَانَ فِيۡ كَمِيۡدٍ ۙ

۱۸۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنۡسَانَ فِيۡ اَحْسَنۡ تَقْوِيۡمٍ ۙ

۱۹۔ عَلَّمَ الْاِنۡسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۙ كَلَّا اِنَّ الْاِنۡسَانَ لِرَبِّهِۦٓ لَیۡطَغِيۡ ۙ

اَنْ رَّاہُ اسْتَعۡلٰی ۙ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرَّجۡعُ ۙ

۲۰۔ اِنَّ الْاِنۡسَانَ لِرَبِّهِۦ لَكَنۡوُدٌ ۙ وَاِنَّہٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَہِيۡدٌ ۙ

وَاِنَّہٗ لِحُبِّ الْخَبۡرِ لَشَدِيۡدٌ ۙ

۲۱۔ وَاَلۡعَصِرُ ۙ اِنَّ الْاِنۡسَانَ لَفِيۡ خُسۡرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا  
وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَكَوَّصُوۡا بِالْحَقِّ ۙ وَكَوَّصُوۡا بِالۡصَّبۡرِ ۙ



۲۰۔ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس (اور ناشکر) ہے

اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے

وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے

--- ﴿سورۃ العاديات آیت ۸﴾ ---

۲۱۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو

ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق (بات)

کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے

--- ﴿سورۃ العصر آیت ۳﴾ ---

## انسان اللہ کا نائب ہے

۱۔ اور (وہ وقت یاد کر نیکیے قابل ہے) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بنا دوں گا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں (خدا نے) فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ۵

--- ﴿سورہ البقرہ: آیت ۳۰﴾ ---

۲۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بیشک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے ۵

--- ﴿سورہ الانعام آیت ۱۶۵﴾ ---

۳۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ

۱۔ وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۙ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ یَنۢحِنُّ سُسُۡمًا یَّحۡدِیۡكَ وَ تَقَدَّسَ لَّكَ ۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ۝

۲۔ وَ هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَكُمۡ خَلِیۡفَۃَۂ الْاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمۡ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبۡلُوۡکُمۡ فِیۡ مَا اٰتٰکُمۡ ۙ اِنَّ رَبَّکَ سَرِیۡعُ الْعِقَابِ ۙ وَ اِنَّهُ لَعَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۝

۳۔ وَ عَدَّ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِّنۡکُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡخَلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اسۡتَخَلَفَ الَّذِیۡنَ الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِہِمۡ ۙ وَ لَیَمۡسُکَنَّ لَہُمۡ دِیۡنَہُمُ الَّذِیۡ اٰتٰتَہُمۡ وَ لَیَمۡسُکَنَّ لَہُمۡ مِنْۢ بَعۡدِ خَوْفِہُمۡ اٰمٰنًا یَعۡبُدُوۡنَہِیۡ لَا یُشۡرَکُوۡنَ بِہِیۡ شَیۡئًا ۙ وَ مَنْ کَفَرَۢ بَعۡدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوۡنَ ۝

۴۔ اَمِّنٌ مُّجِیۡبٌ الْمُضۡطَرَّرِۡۤ اِذَا دَعَاہُ وَ یُکۡشِفُ السُّوۡءَ وَ یَجۡعَلُ لَکُمۡ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۙ عَالِمٌۭ مَّعَ اللّٰہِ ۙ قَلِیۡلًا مَّا تَذٰکُرُوۡنَ ۝

۵۔ هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمۡ خَلِیۡفَۃَۂ فِی الْاَرْضِ ۙ فَمَنْ کَفَرَۢ فَعَلِیۡہِ

بدا کردار ہیں ۵

--- ﴿سورہ النور آیت ۵۵﴾ ---

۳۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اس کی) تکلیف کو دور کرتا ہے اور (کون) تم کو زمین میں (انگلوں کا) جانشین بناتا ہے (یہ سب کچھ خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے (ہرگز نہیں مگر) تم بہت کم غور کرتے ہو ۵

--- ﴿سورہ النحل آیت ۶۲﴾ ---

۵۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں (پہلوں کا) جانشین



بنایا تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة قاطر آیت ۳۹﴾ ---

### انصارِ مدینہ

۱۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے۔ وہ اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۷۲﴾ ---

۲۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں ان کیلئے (خدا کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۷۲﴾ ---

۳۔ جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں

انسان اللہ کا نائب ہے

حریدہ حملی: الاعراف: ۶۸-۷۳-۱۶۸-یونس: ۱۳-۷۳-الاحزاب: ۷۳-۷۴-ممتحن: ۲۶-الغرف

نزدیک کیجئے: مقام انسانیت

کَفْرًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا  
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا



1- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

2- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

3- وَالشُّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

4- لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ

نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں اور اس نے ان کیلئے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور) ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۰۰﴾ ---

۳۔ بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار

پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی۔ بیشک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۱﴾ ---

۵۔ اور (ان لوگوں کیلئے بھی) جو مہاجرین سے پہلے (ہجرت) کے گھر (یعنی مدینے) میں مقیم اور ایمان میں (مستقل) رہے (اور) جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور (خلش) نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پائیوالے ہیں ۵

--- ﴿سورة الحشر آیت ۹﴾ ---

## انصافِ الہی کے اصول

۱۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے

انصار مدینہ نیز دیکھئے: ہجرت

۵۔ اَتَّبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ قَرِيقٍ فَبَإِذْنِهِمْ تَمَّتْ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝  
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخَيِّبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤَيِّدُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۝  
وَمَنْ يُؤَيِّدْ شَرًّا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰلِقُونَ ۝



۱۔ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝  
۲۔ لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ  
۳۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ لَمْ يَسْتَعْفِفِ اللّٰهُ يَحِدِ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا قَالِمًا يَّكْسِبْهُ

اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۸۳﴾ ---

۲۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اچھے کام کریگا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کریگا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۸۶﴾ ---

۳۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں قلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا

اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۱۰﴾ ---

۳۔ (اے محمد) یہ (جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو) اس لئے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو (کچھ بھی) خبر نہ ہو اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے (مقرر) ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں ۵

اور تمہارا پروردگار بے پروا (اور) صاحب رحمت ہے اگر چاہے (تو اے بندو) تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۳۳﴾ ---

۵۔ کیا یہ (کافر) اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس (جان نکالنے) آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم (عذاب) آ پینچے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے تھے اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو (ہر طرف سے) گھیر لیا ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۲۳﴾ ---

عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

4- ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْكٰفِرِيْنَ يَظْلِمُوْنَ وَاَهْلَهَا غٰفِلُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّنْهُمۡ عَمَلُوْنَ ۖ وَمَا رَّبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَرَّبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ اِنْ يَشَآءُ يُّدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَا اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخِرِيْنَ ۝

5- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يٰٓاْتِيْ اَمْرٌ رَّبُّكَ ۚ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا يَهْتَكِرُوْنَ ۝

6- كُلُّ نَفْسٍ ذٰٓئِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبِّئُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَاللّٰيِنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

7- وَلَا تَزِدُ وَاٰزِدًا وَّزْرًا اٰخِرٰى ۖ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يَحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّوَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۖ اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَمَنْ تَرَكٰى

۶۔ ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے ۵

--- ﴿سورة الانبياء آیت ۲۵﴾ ---

۷۔ اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بنانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ (اے پیغمبر) تم ان ہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں۔ اور جو شخص پاک ہوتا

ہے اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے اور (سب کو) خدا ہی کی طرف  
لوٹ کر جانا ہے ۵

﴿سورة قاطر آیت ۱۸﴾ ---

۸۔ اور لوگوں نے جیسے کام کئے ہونگے ان کے مطابق سب کے  
درجے ہونگے (غرض یہ ہے) کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ  
دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے ۵

﴿سورة الاحقاف آیت ۱۹﴾ ---

۹۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب  
خدا ہی کا ہے (اور اس نے خلقت کو) اسلئے (بیدا کیا ہے) کہ  
جن لوگوں نے برے کام کئے ان کو ان کے اعمال کا (برا) بدلہ  
دے اور جنہوں نے نیکیاں کیں ان کو نیک بدلہ دے ۵

﴿سورة النجم آیت ۳۱﴾ ---

۱۰۔ (وہ) یہ کہ کوئی شخص دوسرے (کے گناہ) کا بوجھ نہیں  
اٹھائے گا ۵

﴿سورة النجم آیت ۳۸﴾ ---

فَأَنَّمَا يُرِيدُ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝  
۸- وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ وَمَا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْيَابَهُمْ وَهُمْ  
لَا يَظْلَمُونَ ۝  
۹- وَإِلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ لِيُعْزِيَ الَّذِينَ  
أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيُعْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنٰى ۝  
۱۰- الْأَلْتَرِذُّ وَالْزِدَّةُ ۖ وَذَرَا الْخُرٰى ۝

## انقلاب

۱۔ اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا ۵  
اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص (مومن) بنادے اور کافروں کو نابود کر دے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۳۱﴾ ---

۲۔ اور تمہارا پروردگار بے پروا (اور) صاحبِ رحمت ہے۔ اگر چاہے (تو اے بندو) تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنادے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۳۳﴾ ---

۳۔ خدا اس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب خدا کسی قوم

1- وَ تِلْكَ الْآيَاتُ نُدُوبًا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ ۗ وَ لِيَخْصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يُعْتَقَ  
الْكُفْرَانَ ۝

2- وَ رِبِّكَ الْعَظِيمِ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ إِنَّ نَبْشَاتِ بِذُنُوبِكُمْ وَ يَسْتَكْلِفُ  
مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ ۗ كَمَا آتَاكُمْ مِنْ فَضْلِهِ قَوُّوا  
أَحْسِنَ ۝

3- إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَ إِذَا  
أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۗ وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ  
قَائِلٍ ۝

کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی اور خدا کے

سوالن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۱۱﴾ ---

## اولاد

۱۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ (حکم) اس شخص کے لئے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی (تو یاد رکھو کہ) نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور اسی طرح (نان و نفقہ) بچے کے وارث کے ذمے ہے اور اگر دونوں (یعنی ماں باپ) آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسکو دیکھ رہا ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۲۳۳﴾

۲۔ جو لوگ کافر ہوئے (اس دن) نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی (کچھ کام آئیگی) اور یہ لوگ آتش (جہنم) کا ایندھن ہونگے ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۰﴾

۱- وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ ۖ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْفُقُهُنَّ وَ كَسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً يَوْلِدُهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهَا ۚ وَ عَلَى الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ قَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

۲- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ۝

۳- يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ

۴- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

۳۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے

﴿سورة النساء آیت ۱۱﴾

۴۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افترا کر کے اسکی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھائے میں پڑ گئے وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں ۵

﴿سورة الانعام آیت ۱۳۰﴾

۵۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور (جب) انکی جان نکلے تو (اس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں ۵

﴿سورة التوبة آیت ۵۵﴾

۶۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا (کیونکہ) ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے ۶

﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۳۱﴾

۷۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں (ہمارا مقرب وہ ہے) جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہونگے ۷

﴿سورة سبأ آیت ۳۷﴾

۸۔ خدا کے (عذاب کے) سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئیگا اور نہ اولاد ہی (کچھ فائدہ دے گی) یہ لوگ اہل دوزخ ہیں اس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے ۸

﴿سورة الجادہ آیت ۱۷﴾

۹۔ مومنو! تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ۹

﴿سورة المنافقون آیت ۹﴾

5- فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَرَّهَتْ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵﴾

6- وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ لَنْ نَنْزِلَهُمْ وَلَا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ﴿۶﴾

7- وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصَّغِيرِ بِمِثْلِ الْعَمَلِ ۖ وَهُمْ فِي الْعُرْفِ أَمْنُونَ ﴿۷﴾

8- لَنْ نَغْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸﴾

9- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹﴾

10- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا فَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰﴾ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾

۱۰۔ مومنو! تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن (بھی) ہیں سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے ۱۰

تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزماتش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اجر ہے ۱۰

﴿سورة التباين آیت ۱۳-۱۵﴾



مزید حوالے: آل عمران: ۱۱۶، النساء: ۱۴، ۱۷، الانعام: ۱۳۷، ۱۵۲، الانفال: ۲۸، التوبة: ۶۹، ۸۵، الکہف: ۳۶، لقمان: ۳۳، الحدید: ۲۰

الممتحن: ۱۲، التباين: ۱۵، لوط: ۱۳، نیز دیکھئے: والدین کے حقوق

## اولیاء اللہ

1- **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ**  
**الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ**  
**الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ**  
**الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ**

2- **قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن رَّعَيْتُمْ أَكَلْتُم مِّنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ**  
**مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝**  
**وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ**  
**بِالظَّالِمِينَ ۝**

۱۔ سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ  
 غمناک ہوں گے ۝

(یعنی) وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہے ۝

ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں  
 بھی خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے ۝

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۶۲-۶۳﴾ ---

۲۔ کہہ دو کہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست  
 ہو اور لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو (ذرا) موت کی  
 آرزو تو کرو ۝

اور یہ ان (اعمال) کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو

نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے ۝

--- ﴿سورۃ الجمعہ ۷۶﴾ ---



## اُوہامِ جاہلیت

۱۔ (اے محمد) لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ گھٹنا بردھتا کیوں ہے) کہہ دو کہ وہ لوگوں کے (کاموں کی میعادیں) اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی اس بات میں نہیں کہ (احرام کی حالت میں) گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تا کہ نجات پاؤ۔

— ﴿سورة البقرہ آیت ۱۸۹﴾ —

۲۔ یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔

جس پر خدا نے لعنت کی ہے (جو خدا سے) کہنے لگا میں تیرے بندوں سے (غیر خدا کی نذر دلو اگر مال کا) ایک مقرر حصہ لے لیا کرونگا۔

اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور (یہ بھی) کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان

۱- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِبُ لِلنَّاسِ  
وَ الْحَجِّ ۚ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا  
وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَ أَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا  
وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

۲- إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهَا إِلَّا إِنثًا ۚ وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا  
شَيْطَانًا مَرِيدًا ۚ لَعَنَهُ اللَّهُ ۚ وَ قَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ  
نَسِيبًا مَفْرُوضًا ۚ وَ لَا ضَلَمَ لَهُمْ وَ لَا مَنِيئَهُمْ وَ لَا أَمْرَهُمْ  
فَلْيَبْتَئِنَّ أَذَانَ الْإِنْعَامِ وَ لَأَمْرَهُمْ فَلْيَخْتَفِنَّ خَلْقَ  
اللَّهِ ۚ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ  
خُسْرَانًا مُبِينًا ۚ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ وَ مَا يَعِدُهُمُ  
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝

۳- مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لَا سَائِبَةٍ وَ لَا وَصِيلَةٍ وَ لَا  
حَامٍ ۚ وَ لَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ  
وَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے۔

— ﴿سورة النساء آیت ۱۲۰ تا ۱۲۴﴾ —

۳۔ خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا

ہے وہی ہمیں کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے

ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں (تب بھی؟) ۵

--- (سورۃ المائدہ - آیت ۱۰۳-۱۰۴) ---

۴۔ اور (یہ لوگ) خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور

چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال

(باطل) سے کہتے ہیں کہ یہ (حصہ) تو خدا کا اور یہ ہمارے

شریکوں (یعنی بتوں) کا تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ

تو خدا کی طرف نہیں جاسکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے

شریکوں کی طرف جاسکتا ہے یہ کیسا برا انصاف ہے ۵

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں

کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں

ذال دیں اور ان کے دین کو ان پر غلط ملط کر دیں اور اگر خدا

چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اور ان کا

جھوٹ ۵

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع

ہے۔ اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور

(بعض) چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا

أَبَاءَنَا ۖ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

۴ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذُرًّا مِّنَ الْحَرَبِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا

هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا

يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ۚ

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُذَوُّوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ

دِينَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ قَدْ زُهِمَ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حَجَرَ ۖ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا

مَنْ نَشَاءُ بِرِغْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ طَهُورًا وَأَنْعَامٌ لَا

يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۖ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا

يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ

لِذُنُوبِنَا ۖ وَسُحْرٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مِّمَّنَّةً فَهُمْ فِيهِ

شُرَكَاءُ ۖ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ ۖ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ قَدْ خَسِرَ

الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ

خدا کا نام نہیں لیتے۔ سب خدا پر جھوٹ ہے وہ عنقریب ان کو ان

کے جھوٹ کا بدلہ دے گا ۵

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ

خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو (اس کا

کھانا) حرام ہے اور اگر وہ بچے مراہوا ہو تو سب اس میں شریک

ہیں (یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں) عنقریب خدا ان کو

ہے

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھائے میں پڑ گئے وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰﴾ ---

### اہل بیت

۱۔ اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونوں ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے

اے پیغمبر کی بیویوں اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پر بیزار رہنا چاہتی ہو تو (کسی اجنبی شخص سے) نرم نرم باتیں نہ کیا کرو تا کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید (نہ) پیدا کر لے اور (ان میں) دستور کے مطابق بات کیا کرو

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح (پہلے) جاہلیت (کے دنوں) میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی

اللَّهُ افْتَرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

۱- وَمَنْ يَقْتُلْ مَوْلًى يَكُنْ لِلَّهِ رَسُولًا وَكَعَمَلِ صَالِحًا تُؤْتَاهَا  
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝ يٰۤاَيُّهَا  
النَّبِيُّ لَسْتَ مِنَ الرِّسَالِ ۚ إِنَّ الرِّسَالَةَ إِنَّمَا تَنخَضُونَ  
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَنُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ۚ وَقُلْ نَبِيًّا  
مَعْرُوفًا ۚ وَرَبِّكَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ  
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَ  
أَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ وَادْكُرْنَ مَا  
يُنْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
لَطِيفًا خَبِيرًا

فرمانبرداری کرتی رہو۔ اے (پیغمبر کے) اہل بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی (کا میل کچیل) دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے

اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت (کی باتیں سنائی جاتی ہیں) ان کو یاد رکھو بے شک خدا باریک میں اور باخبر ہے

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۲۳ تا ۳۱﴾ ---

اوپر جاہلیت نیز دیکھئے: ردشکر

## اہل کتاب

۱۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا (دوسرا) حکم بھیجے۔ بیشک خدا ہر بات پر قادر ہے ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۰۹﴾ —

۲۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں (تسلیم کی گئی) ہے اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے اگر یہ لوگ (اس بات کو) نہ مانیں تو (ان سے)

کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم (خدا کے) فرمانبردار ہیں ۵

۳۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں (اور وہ پہلے ہو چکے) تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ۵

— ﴿سورۃ آل عمران آیت ۶۴﴾ —

۳۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ لوگ (حکیم خدا پر) قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں

۱- وَذَكَرَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْتَصُوا وَاصْتَعِمُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۲- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِزْهِيئِهِمْ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ إِلَّا نَجْمًا ۖ وَإِلَّا مِنْ بَعْدِهَا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

۳- لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِلَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي الصَّالِحِينَ ۝

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا

پڑھتے اور (اسکے آگے) سجدے کرتے ہیں ۵

(اور) خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے

کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور

یہی لوگ نیکو کار ہیں ۵

— ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۱۳﴾ —

۴۔ اے کتاب والو! قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے مونہوں کو بگاڑ

کران کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں

جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی۔ ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ اور خدا نے جو حکم فرمایا سو (سمجھ لو کہ) ہو چکا ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۴۷﴾ ---

۵۔ کہو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور (یہ قرآن) جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا تو تم قوم کفار پراسفوس نہ کرو ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۶۸﴾ ---

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْوَيسَ وُجُوهاً فَنُرَدَّهَا عَلٰى  
اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّبْتِ ۗ وَكَانَ  
اَمْرًا لِلّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

۵- قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتٰى تُقِيْمُوا الشُّرُوْعَ  
وَالْاَنْجِيْلَ وَمَا اَنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَلِكَيْ يَذِّنَ  
كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَّا اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيٰنًا وَّ  
كُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

ترید حوالے: یسود- البقرہ: ۶۲- ۱۱۱- ۱۱۳- ۱۲۰- ۱۳۵- آل عمران: ۶۷- النساء: ۱۲۰- المائدہ: ۱۸- ۳۱- ۵۱- ۶۹- ۸۲- التوبہ: ۳۰- الحج: ۱۷

نصاری: البقرہ: ۶۲- ۱۱۱- ۱۱۳- ۱۲۰- ۱۳۵- آل عمران: ۶۷- المائدہ: ۱۲- ۱۸- ۵۱- ۶۹- ۸۲- التوبہ: ۳۰- الحج: ۱۷

صائبین: البقرہ: ۶۲- المائدہ: ۶۹- الحج: ۱۷

نیز دیکھئے: یسود و نصاری

## آئمة کفر

۱۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اسکے لشکر کے مقابل میں آئے تو (خدا سے) دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں (لڑائی میں) ثابت قدم رکھ اور (لشکر) کفار پر فتیاب کر ۵  
تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ بھٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے ۵

--- سورة البقرہ آیت ۲۵۰ تا ۲۵۱ ---

۲۔ اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو ۵

--- سورة الانعام آیت ۷۴ ---

۳۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے اور فرعون ملک میں متکبر و مغتلب اور (کبر و کفر میں) حد سے بڑھا ہوا تھا ۵

--- سورة یونس آیت ۸۳ ---

۱۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا افرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۵  
فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ اِنَّ اللّٰهَ اللّٰهُ الْمَلِكُ وَالْحَكِيمُ وَعَلِمَهُ مَا يَشَاءُ ۵  
لَوْلَا دَفَعَهُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۵  
۲۔ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِرَبِّهٖ اِنَّكَ اَنْتَ الَّذِي اَصْنَمْنَا اِلٰهَةً اِنِّىۤ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۵  
۳۔ فَمَا اَمَرَ لِيُوَسِّىۤ اِلَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ قَوْمِهٖ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَٓئِهِمُ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۵ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۵ وَاِنَّهٗ لَكٰوْنُ السُّرْفِيْنَ ۵  
۴۔ وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَٓئِهٖ زَيْنَةً وَاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۵ قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

۳۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں (بہت سا) ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار۔ ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب الیم نہ دیکھ لیں ۵

(خدا نے) فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا ۵

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے

لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا۔ یہاں تک کہ جب اس کو غرق (کے عذاب) نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس (خدا) پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں ۵

(جواب ملا کہ) اب (ایمان لاتا ہے) حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا؟ ۵

تو آج ہم تیرے بدن کو (دریا سے) نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۹۲ تا ۹۸﴾ ---

۵۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا تو ہامان میرے لئے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا (دو پھر ایک (اونچا) محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں ۵ اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے ۵ تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا ۵

اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا وہ (لوگوں کو) دوزخ کی طرف

فَأَسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَ  
جِوْرًا بَيْنَىٰ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ  
بَغْيًا وَعَدُوًّا حَاسِبًا إِذْ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ  
إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝  
الَّذِينَ وَقَدِّ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ۝  
فَالْيَوْمَ لَنَجْزِيَنَّكَ بِعَذَابِكَ لِيَتَّكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۝ وَ  
إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغٰفِلُونَ ۝

۵- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي  
فَأَوْقِدْ فِي يَدَائِمِنِ عَلَى الظَّالِمِينَ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَظْلِمُ  
إِلَى إِلَهٍ مُّوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ ۝ وَاسْتَكَبَرَ  
هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ الْيَسُورَ  
لَا يُرْجَعُونَ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ  
فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ  
آيَةً يَذُكَّرُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۝  
۶- إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۝ وَأَتَيْنَاهُ

بلا تے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی ۵

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۲۱ تا ۲۸﴾ ---

۶۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا۔ اور

ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک

طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں جب اس سے اس کی قوم

نے کہا کہ اترا پیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ۵

اور جو (مال) تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی

بھلائی) طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی  
 خدانے تم سے بھلائی کی ہے (ویسی) تم بھی (لوگوں سے)  
 بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ خدا فساد کرنے  
 والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

بولاکہ یہ (مال) مجھے میری دانش (کے زور) سے ملا ہے۔ کیا اس کو  
 معلوم نہیں کہ خدانے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت  
 میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں اور گنہگاروں  
 سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا ۵

تو (ایک روز) قارون (بڑی) آرائش (اور ٹھاٹھ) سے اپنی  
 قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے  
 لگے کہ جیسا (مال و متاع) قارون کو ملا ہے کاش! ایسا ہی ہمیں  
 بھی ملے۔ وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے ۵

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں  
 اور نیکوکاروں کیلئے (جو) ثواب خدا (کے ہاں تیار ہے وہ)  
 کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا ۵

پس ہم نے قارون کو اور اسکے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو خدا

مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوعًا بِالْعُسْبَةِ أُولَى  
 الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْفَرِحِينَ ۝ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ  
 لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
 إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ  
 أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ  
 مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يَسْتَلْ عَن  
 دُؤْبِهِمُ الْعَجْرُمُونَ ۝ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ  
 قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِتَ لَنَا مِثْلَ مَا  
 أُوتِيَ قَارُونُ ۚ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ  
 صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ  
 الْأَرْضَ مَهْلًا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنِهِ يَتَصَرَّوْنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَّتْ لَهُمُ

کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلے لے سکا  
 اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے  
 ہائے شامت! خدا ہی تو اپنے بندوں سے جس کیلئے چاہتا ہے  
 رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ  
 کر دیتا ہے اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا  
 ہائے خرابی! کافر نجات نہیں پا سکتے ۵



۷۔ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو ۰

نہ تو اسکا مال ہی اسکے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا ۰

وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا ۰

اور اس کی جو رو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے ۰

اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی ۰

--- ﴿سورۃ الملہب آیت ۱ تا ۵﴾ ---

## ایام اللہ

۱۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو

تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن

یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لئے جو صابروشا کر ہیں

(قدرتِ خدا) کی نشانیاں ہیں ۰

--- ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۵﴾ ---

۲۔ اور بیشک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے

حساب کے رو سے ہزار برس کے برابر ہے ۰

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۷۷﴾ ---

بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآنَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ

بِنَا وَيَكَاثِبُ لَا يَفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ۝

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ

وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝



۱- وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ

الْعَالَمِيْنَ إِلَى الثُّورَىٰ وَذَكَرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِن فِي

ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

۲- وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

۳- تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّؤُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَالُهُ

ثَمَرِيْنَ أَلْفِ سَنَةٍ ۝



۳۔ جس کی طرف روح (الامین) اور فرشتے چڑھتے ہیں اور

اس روز (نازل ہوگا) جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا ۰

--- ﴿سورۃ المعارج آیت ۴﴾ ---

## ایمانی عہد

۱۔ اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اقرار کو پورا کرونگا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھی سے ڈرتے رہو

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۰﴾ ---

۲۔ اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۱﴾ ---

۳۔ اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرش ہوگی

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۴﴾ ---

1- وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

3- وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا



1- وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

2- وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

3- يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ

تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ



## ایمان

۳۔ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آجائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیگا یا اپنے ایمان (کی حالت) میں نیک عمل نہیں کئے ہونگے (تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبران سے) کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۵۸﴾ ---

۱۔ اور جس شخص نے ایمان (چھوڑ کر اس) کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۰۸﴾ ---

۲۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا

--- ﴿سورۃ مائدہ آیت ۵﴾ ---

ایمانی عہد: مزید حوالے: البقرہ: ۸۰-۸۳

۴۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو (کفر پر زبردستی) مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ جو (دل سے اور) دل کھول کر کفر کرے۔ تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۱۰۶﴾ ---

۵۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے ۵

لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے (اس وقت) ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ (یہ) خدا کی عادت (ہے) جو اس کے بندوں (کے بارے) میں چلی آتی ہے اور وہاں کافر گھائے میں پڑ کر رہ گئے ۵

۶۔ لیکن خدانے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجایا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں ۵

(یعنی) خدا کے فضل اور احسان سے۔ اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحجرات آیت ۸۷﴾ ---

4۔ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنۢ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝۵  
5۔ فَلَمَّا رَاوۡاۡ اٰمَنًا قَالُوۡا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدَّۥ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّاۤ بِهٖ مُّشْرِكِيۡنَ ۝۶ فَلَمَّ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاوۡاۡ اٰمَنًا سُبْحٰنَ اللّٰهِ الَّذِيۡ قَدْ خَلَقَ فِيۡ عِبَادِهٖۙ وَجَبَرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوۡنَ ۝۷

6۔ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَّ فِيۡ قُلُوۡبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوۡقَ وَالْعِصْيَانَ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوۡنَ ۝۸ فَضَلَّۤا مِّنۡ اللّٰهِ وَبِعِزَّةِ اللّٰهِ عَلَيۡمٌ حَكِيۡمٌ ۝۷

7۔ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۙ قُلْ لَمَّ تُوۡمِنُوۡا وَلٰكِنْ قُوۡلُوۡا اٰسَلَمْنَا

وَلَمَّا يَدۡخُلِ الْاِيْمَانُ فِيۡ قُلُوۡبِكُمْ ۙ وَاِنۡ تُطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ لَا يَكُنۡ لَّكُمْ شَيْۡءٌ ۙ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رّٰحِيۡمٌ ۝۸

8۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا عَلَيۡكُمُ اللّٰهُ اَنۡ اَسَلَمُوۡا ۙ قُلْ لَا تَمۡنُوۡا عَلٰٓى

۷۔ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے (بلکہ یوں) کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحجرات آیت ۱۳﴾ ---

۸۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ خدا تم پر احسان

رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے  
(مسلمان) ہو ۰

بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے  
اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے ۰

۹۔ جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو  
خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ  
دیکھو گے خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے  
لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان  
(پتھر پر لکیر کی طرح) تحریر کر دیا ہے اور فیض نبوی سے ان کی مدد  
کی ہے اور وہ ان کو بہشتوں میں جنکے تلے نہریں بہ رہی ہیں  
داخل کریگا ہمیشہ ان میں رہیں گے خدا ان سے خوش اور وہ خدا  
سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے (اور) سن رکھو کہ خدا ہی کا  
لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے ۰

﴿سورۃ الجادۃ آیت ۲۲﴾

إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝  
۹ لَا تَحِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ  
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ  
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ  
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِهِ ۗ إِنَّهُ يَذِّقُهُمُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ  
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

حرید حوالے: البقرہ: ۹۳-۱۱۷-۲۵۷- آل عمران: ۸۶-۱۰۶-۱۶۷-۱۷۳-۱۹۳- التسماء: ۳۵: المائدہ: ۱۶-۷۲-  
التوبہ: ۲۳-۲۴-۳۳- الرعد: ۱۶: الزمر: ۲۲- الحجرات: ۱۱- المائدہ: ۹-۲۸- الطور: ۲۱  
الحشر: ۹-۱۰- القف: ۸: التکوین: ۸- الطلاق: ۱۱- التحریم: ۸  
نیز دیکھئے: کفر



اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُحْمَلُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ  
 كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ  
 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ  
 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَلْسِينَ  
 ۝۵ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُحْمَلُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ  
 مَّيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں۔ پھر  
 خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بہ تہ  
 کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مینہ نکلنے لگتا  
 ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا  
 دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ۝

اور جو مہتر تو وہ مینہ کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے ۝

﴿سورۃ الرعد آیت ۳۸﴾

۵۔ اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی  
 ہیں پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس  
 سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح  
 مردوں کو جی اٹھنا ہوگا ۝

﴿سورۃ طہ آیت ۹﴾

## بارش

۱۔ اور مینہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز) کر دیتا ہے۔

--- ﴿سورة البقره آیت ۱۶۴﴾ ---

۲۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیارا تار رکھو مگر ہوشیار ضرور رہنا خدا نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۰۲﴾ ---

۳۔ اسی نے آسمان سے مینہ برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا۔ اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور (پانی) جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح خدا (صحیح اور غلط کی) مثالیں

--- ﴿سورة الشوری آیت ۲۸﴾ ---

مزید حوالے: البقرہ: ۲۳- الاعراف: ۸۳- الانفال: ۳۲- ہود: ۸۲- ۸۳- ابراہیم: ۲۲- النحل: ۱۰- ۶۵- الشعراء: ۱۷۳-

النمل: ۵۸- السجدہ: ۳۳-

نیز دیکھئے: بادل۔ زراعت

## باغ

۱۔ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور (کس نے) تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا۔ (ہم نے) پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے یہ (ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں ۰

— ﴿سورۃ النحل آیت ۶۰﴾ —

۲۔ تو انسان کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے ۰  
 بے شک ہم ہی نے پانی برسایا ۰  
 پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا ۰  
 پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا ۰  
 اور انگور اور ترکاری ۰ اور زیتون اور کھجوریں ۰  
 اور گھنے گھنے باغ ۰ اور میوے اور چارہ ۰

۱- اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ وَاللَّهُ قَعْمٌ لِّلَّذِينَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝  
 ۲- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَكَا صَبَيْنَا الْمَاءَ صَبَاءً ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعُنْبًا وَقِصْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَعْمَالِكُمْ ۝

(یہ سب کچھ) تمہارے اور تمہارے چار پایوں کیلئے بنایا ۰

— ﴿سورۃ عبس آیت ۲۳ تا ۳۲﴾ —



## بانجھ پن

۱۔ گھببص (یہ) تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان (ہے جو اس نے) اپنے بندے زکریا پر (کی تھی) ○  
 جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا ○  
 (اور) کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا ○  
 اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما ○  
 جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو۔ اور (اے) میرے پروردگار اس کو خوش اطوار بنا دے ○

اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا ○  
 انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا۔ جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں ○  
 حکم ہوا کہ اسی طرح (ہوگا) تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم

۱۔ گھببص ○ ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا ○  
 اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ○ قَالَ رَبِّ اِنِّى وَهِنَ الْعِظْمِ  
 مِنِّى وَاسْتَعَلَّ الرَّاسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْ بِدُعَاؤِكَ  
 رَبِّ شَقِيًّا ○ وَاِىُّ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَرَآئِى وَ  
 كَاٰتِبِ اَمْرًا نِّى عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ○  
 يٰرَبِّىْ وَبَرِّتْ مِنْ اٰلِ يٰعْقُوْبَ ○ وَاَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○  
 يٰزَكْرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهٗ  
 مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ○ قَالَ رَبِّ اَنۢى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّ كَاٰتِبِ  
 اَمْرًا نِّى عَاقِرًا وَّ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ○ قَالَ  
 كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ وَّ قَدْ خَلَقْتَكَ مِنْ  
 قَبْلُ وَاَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا ○

۲۔ اِلٰهُمُّلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ  
 يَشَاءُ اَنۡا ثَاوِيًّا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُوْرَ ○ وَيُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا  
 وَاُنَاثًا وَّ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْبًا ○ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

کچھ چیز نہ تھے ○

— ﴿سورۃ مریم آیت ۹۲﴾ —

۲۔ (تمام) بادشاہت خدا ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے ○  
 یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا (اور) قدرت والا ہے ○

— ﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۵۰﴾ —

## بُت پرستی

۱۔ اور (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو ۵

--- ﴿سورۃ الاحقاف آیت ۲۴﴾ ---

۲۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو (لوگوں کے لئے) امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ ۵  
اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۳۵﴾ ---

۳۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان (کے حال) سے واقف تھے ۵

جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا صورتیں ہیں جن (کی پرستش) پر تم مختلف (و قائل) ہو ۵  
وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ۵

(ابراہیم نے) کہا کہ تم بھی (گمراہ ہو) اور تمہارے باپ دادا بھی وہ بولے کیا تم ہمارے پاس (واقعی) حق لائے ہو یا تم کھیل

۱- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَّ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ  
إِنِّي أَرَىٰ أَرْبَابَكَ وَكَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

۲- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي  
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامَكَ ۖ رَبِّ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّضِلُّونَ  
كُفِرَ الَّذِينَ مِنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ  
عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَّحِيمٌ ۝

۳- وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ۖ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۖ  
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الصَّمَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا  
عَٰبِدُونَ ۖ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ ۖ قَالَ  
لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ قَالُوا  
أَجئْنَا بِالْحَقِّ ۖ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۖ قَالَ بَلْ رَجَعْتُمْ  
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ  
مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ  
أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۖ فَعَلَّهُمْ جُذُؤًا الْاَكْبَرًا لَّهُمْ  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا

(کی باتیں) کرتے ہو ۵

(ابراہیم نے) کہا (نہیں) بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور  
زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس  
(بات) کا گواہ (اور اسی کا قائل) ہوں ۵

اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے  
بتوں سے ایک چال چلوں گا ۵

پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے (بت) کو (نہ  
توڑا) تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں ۵

کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ ۵

وہ تو کوئی ظالم ہے ۵

لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں ۵

وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تا کہ وہ گواہ رہیں ۵

(جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے) کہا کہ ابراہیم بھلا یہ

کام ہمارے معبود کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ۵

(ابراہیم نے کہا) بلکہ یہ ان کے ان بڑے (بت) نے کیا (ہوگا)

اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو ۵

انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بیشک تم

ہی بے انصاف ہو ۵

پھر (شرمندہ ہو کر) سر نیچا کر لیا (اس پر بھی ابراہیم سے کہنے

لگے کہ) تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ۵

(ابراہیم) نے کہا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو

پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟

تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل

نہیں رکھتے؟ ۵

--- ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۶۷﴾ ---

۳۔ تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو ۵

صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر

اور جو شخص (کسی کو) خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ

إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدْعُرُهُمْ رَبُّهُم  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَشْهَدُونَ ۝ قَالُوا أَأنتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا ابْنَ مَرْيَمَ ۝  
قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِن كَانُوا  
يَنْطِقُونَ ۝ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ  
الظَّالِمُونَ ۝ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمَا  
هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۝ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ  
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

4۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝  
حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۝ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ  
بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ ۝

5۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ  
مَا تَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا فَنظُرُ لَهُمْ عَلَيْمِينَ ۝

گو یا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک

لے جائیں یا ہو کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۳۱﴾ ---

۵۔ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو ۵

جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم

کس چیز کو پوجتے ہو؟ ۵ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں

اور ان (کی پوجا) پر قائم ہیں (ابراہیم نے) کہا کہ جب تم ان کو

پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ ۵

یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟

انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح

کرتے دیکھا ہے

--- ﴿سورۃ الشعراء آیت ۲۹ تا ۳۲﴾ ---

## بتوں کے نام

۱۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا

اور تیسرے منات کو (کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں)

(مشرکوا) کیا تمہارے لئے تو بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں

یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے

--- ﴿سورۃ النجم آیت ۱۹ تا ۲۲﴾ ---

۲۔ (اسکے بعد) نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ

میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو

انکے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا

اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے

اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور (بالخصوص)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۚ وَيَفْعَلُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۚ

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۚ

1- أَقْرَعَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۚ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ۚ

الْكُمَلُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْإِنثَىٰ ۚ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۚ

2- قَالَ نُوحٌ رَبِّ انَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَ

وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۚ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ۚ وَقَالُوا

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۚ وَقَدْ أَصْلَحُوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا

ضَلَالًا ۚ

وَدُّ کو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث کو اور بغوث کو اور نسر کو کبھی ترک نہ

کرتا (پروردگار) انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے

تو تو ان کو اور گمراہ کر دے

--- ﴿سورۃ نوح آیت ۲۳ تا ۲۴﴾ ---

## بجلی

۱۔ یا ان کی مثال مینہ کی سی ہے کہ آسمان سے (برس رہا ہو اور) اس میں اندھیرے پر اندھیرا (چھا رہا) ہو اور (بادل) گرج (رہا) ہو اور بجلی (کو ندر ہی) ہو تو یہ کڑک سے (ڈر کر) موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور خدا کافروں کو (ہر طرف سے) گھیرے ہوئے ہے ۵

قریب ہے کہ بجلی (کی چمک) ان کی آنکھوں (کی بصارت) کو اچک لے جائے جب بجلی (چمکتی اور) ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں (کی شنوائی) اور آنکھوں (کی بینائی دونوں) کو زائل

کر دیتا۔ بلاشبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

۲۔ اور جب تم نے (موسیٰ سے) کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آگھیرا اور تم دیکھ رہے تھے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۵۵﴾ ---

۳۔ اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کیلئے بجلی دکھاتا

۱- اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ  
يَعْمَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ  
المَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ  
يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَافِئُهُمْ وَاِذَا  
اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَكُلَّمَا اَضَاءَ اللّٰهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ  
اَبْصَارَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝  
۲- وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّوْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً  
فَاخَذْنَاكَمُ الصُّعْقَةَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝  
۳- هُوَ الَّذِى يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ  
الْقِطْرَ ۝ وَكَيْسِرُ الرُّعْدِ بِحَمْدِ اللّٰهِ الْمَلِكِ ۝ وَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ  
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ  
فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْحِجَابِ ۝

اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے ۵

اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جن پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ

بڑی قوت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۱۳﴾ ---

## بچپن

۱۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت یعنی چاہئے جس طرح ان سے اگلے (یعنی بڑے آدمی) اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح خداتم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

— ﴿سورة النور آیت ۵۹﴾ —

۲۔ وہی تو ہے جس نے تم کو (پہلے) مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے (کہ تم) بچے (ہوتے ہو) پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم (موت کے) وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو ۵

— ﴿سورة المؤمن آیت ۶۷﴾ —

## بدعت

۱۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر (اور) پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت

۱۔ وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْفَالُ مِنْكُمْ أَحْلَمُوا فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝  
۲۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۱۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۚ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ۚ وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝

اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر (انہوں نے اپنے خیال میں) خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے (آپ ہی ایسا کر لیا تھا) پھر جیسا اس کو نباہنا چاہئے تھا نباہ بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں ۵

— ﴿سورة الحديد آیت ۲۷﴾ —

## بدکاری

۱۔ اور جو دوسرے تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکو کار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا (اور) مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۶﴾ ---

۲۔ اور (اسی طرح جب ہم نے) لوط کو (پیغمبر بنا کر بھیجا تو) اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا ۵

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر لوٹو  
پر گرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے

ہو ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۸۱﴾ ---

۱- وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَاۗ فَانۡ تَابَاۗ وَاصۡلَحَاۗ  
فَاَعۡرَضُوْا عَنْهَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًاۙ  
۲- وَتَوَّابًاۗ اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ اَتَاۡتُوۡنَ الفٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُمۡ بِهَا  
مِنۡ اَحَدٍ مِّنۡ الْعٰلَمِيۡنَۙ اِنۡكُمۡ لَتَاۡتُوۡنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً  
مِّنۡ دُوۡنِ النِّسَاءِۗ بَلۡ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوۡنَۙ

## بدگمانی

۱۔ اور اکثر لوگ زمین پر آباد ہیں (گمراہ ہیں) اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے انکل کے تیر چلاتے ہیں ۵

— ﴿سورة الانعام آیت ۱۱۶﴾ —

۲۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک کرتے) اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے (اگر ہے) (تو) اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور انکل کے تیر چلاتے ہو ۵

— ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۸﴾ —

۳۔ اور ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ بیشک خدا تمہارے (سب) اعمال سے واقف ہے ۵

— ﴿سورة یونس آیت ۳۶﴾ —

۴۔ اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض

۱- وَإِنْ نَطَعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝  
 ۲- سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۖ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذُاقُوا بَأْسَنَا ۖ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُونَا ۖ لَا تَنْتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝  
 ۳- وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ ۖ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝  
 ۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِمَّا قَالُوا ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا ۖ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۚ فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۝



گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے (تو غیبت نہ کرو) اور خدا کا ڈر رکھو بیشک خدا تو بہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۵

— ﴿سورة الحجرات آیت ۱۲﴾ —





۱۔ بدو لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام (شریعت) خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف (ہی) نہ ہوں۔ اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

اور بعض بدو ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں انہی پر بری مصیبت (واقع) ہو۔ اور خدا سننے والا (اور) جاننے والا ہے ۵ اور بعض بدو ایسے ہیں کہ خدا پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دُعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو وہ بے شبہ ان کے لئے (موجب) قربت ہے خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- سورة التوبة آیت ۹۶ تا ۹۹ ---

۲۔ اہلِ مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس بدور رہتے ہیں ان کو شایاں نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ اس لئے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا محنت کی یا بھوک

۱- الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سِوَا ذَلِكَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۲- مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُعِيبُوا أَنْفُسَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوِّئُونَ مَوْطِنًا يَخْفَى الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّكُمْ إِلَّا كَمَا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُفْقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا

کی یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لئے عمل نیک لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ خدا نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ۵

اور (اسی طرح) وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لئے (اعمالِ صالحہ میں) لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے ۵

--- سورة التوبة آیت ۱۲۰ تا ۱۲۱ ---

۳۔ جو بد پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا آپ ہمارے لئے (خدا سے) بخشش مانگیں یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے کہہ دو کہ اگر خدا تم (لوگوں) کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے (کوئی نہیں) بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے ۵

بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں۔ اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور (اسی وجہ سے) تم نے برے برے خیال کئے اور (آخر کار) تم ہلاکت میں پڑ گئے ۵ اور جو شخص خدا پر اور اسکے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے (ایسے) کافروں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے ۵

اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵ جب تم لوگ غلیصہ میں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے

کَتَبَ لَهُمْ لِحْزِهِمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۵  
 3- سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا  
 وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآيَاتِنَا أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ  
 قُلْ هِيَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ سَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ  
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵  
 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِّتَأْخُذُوا هَادِرُونَ  
 نَنبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا  
 كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْسَدُ وَنَنَا بَلْ  
 كَانُوا لَا يُفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۵ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ  
 سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِ أُولِي الْأَرْبَابِ شَدِيدٍ تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسَلِّمُوا

ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے پھر کہیں گے (نہیں) تم تو ہم سے حسد کرتے ہو بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم ۵ جو بد پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے (ساتھ لڑائی کے) لئے بلائے جاؤ گے ان سے تم (باتو) جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو

بڑی تکلیف کی سزا دے گا ۵

﴿سورة الحج آیت ۱۶۵﴾

۳۔ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے (بلکہ یوں) کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ

کم نہیں کرے گا بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة الحجرات آیت ۱۳﴾

## بدی

۱۔ ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ (ہر طرف سے) اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ (میں جانے) والے ہیں (اور) وہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۸۱﴾

۲۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے) گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کر دیں

﴿سورة النساء آیت ۳۱﴾

۵ گے

بدو: مزید حوالے: التوبہ-۹-۱۱۱- الاحزاب: ۲۰- الحجرات: ۱۳-۱۷

فَإِنْ تَطِيعُوا أَمْرًا اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ  
مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۵

۴۔ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا  
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ لَا يَلِفْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ ۵



۱۔ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۵

۲۔ إِنْ تَحْتَبُوا كِبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۵

۳۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ  
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۵

۳۔ جو کوئی (خدا کے حضور) نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی دس  
نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور

ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۵

﴿سورة الانعام آیت ۱۶۰﴾

۴۔ اور جنہوں نے برے کام کئے تو برائی کا بدلہ دیا ہی ہوگا اور ان کے مونہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے مونہوں (کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان) پر گویا اندھیری رات کے نکلنے اڑھادیئے گئے ہیں۔ یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ۵

— ﴿سورۃ یونس آیت ۲۷﴾ —

۵۔ اور دن کے دونوں سروں (یعنی صبح اور شام کے اوقات میں) اور رات کی چند (پہلی) ساعات میں نماز پڑھا کرو کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ان کیلئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں ۵

— ﴿سورۃ ہود آیت ۱۱۳﴾ —

۶۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے ۵

— ﴿سورۃ المؤمنون آیت ۹۶﴾ —

۷۔ جو شخص نیکی لے کر آئیگا اس کے لئے اس سے بہتر (صلہ موجود) ہے اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کئے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے ۵

— ﴿سورۃ القصص آیت ۸۴﴾ —

۸۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو (سخت کلامی کا)

4 وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

5 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْفَعُ بِالنَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ۝

6 إِدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۚ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝

7 مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

8 وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ إِدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَبِيٍّ حَمِيمٌ ۝

9 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا يَحْكُمُونَ ۝

ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے ۵

— ﴿سورۃ تم السجدہ آیت ۲۳﴾ —

۹۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے (اور) ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی یہ جو دعویٰ کرتے ہیں برے ہیں ۵

— ﴿سورۃ الجاثیہ آیت ۲۱﴾ —

## بڑھاپا

۱۔ نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں (کہ شریک جہاد ہوں یعنی) جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش (اور دل سے ان کے ساتھ) ہوں نیکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة التوبہ آیت ۹۱﴾

۲۔ اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا۔ پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور (بہت کچھ) جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں بیشک خدا (سب کچھ) جاننے والا (اور) قدرت والا ہے ۵

﴿سورة النحل آیت ۷۰﴾

۳۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ ۵

۴۔ وہی تو ہے جس نے تم کو (پہلے) مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے (کہ تم) بچے (ہوتے ہو)

۱- لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجًا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ مَا عَلَى الْحُسَيْنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝  
 2- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝  
 3- وَمَنْ نُعِذْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝  
 4- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّىٰ مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ۝

پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم (موت کے) وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تا کہ تم سمجھو ۵

﴿سورة المؤمن آیت ۶۷﴾

## برج

۱۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجا دیا ۵

— ﴿سورة الحجر آیت ۱۶﴾ —

۲۔ (اور خدا) بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں (آفتاب کا نہایت روشن) چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا ۵

— ﴿سورة الفرقان آیت ۶۱﴾ —

۳۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں ۵

— ﴿سورة البروج آیت ۱﴾ —

## برزخ

۱۔ (یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے) یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آجائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے ۵

تا کہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں۔ یہ ایک (ایسی) بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا (اور اسکے ساتھ عمل نہیں ہوگا) اور ان کے پیچھے برزخ ہے (جہاں وہ اس دن تک کہ (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے (رہیں گے) ۵

برج مزید حوالے: فلکیات

۱- وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝  
 ۲- تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا  
 وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝  
 ۳- وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

۱- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ لَعَلِّي  
 أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلِمًا هِيَ قَائِلُهَا وَمِن  
 وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝  
 ۲- وَحَاقَ بِالْأُفْرَعُونَ سُوءُ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا  
 غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ  
 أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

— ﴿سورة المؤمنون آیت ۹۹-۱۰۰﴾ —

۲۔ اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آگھیرا ۵

(یعنی) آتش (جہنم) کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور جس روز قیامت برپا ہوگی (حکم ہوگا کہ) فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو ۵

— ﴿سورة المؤمن آیت ۲۵﴾ —

## برکت

۱۔ پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کیلئے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے بابرکت اور جہاں کیلئے موجب

ہدایت ۰

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۹۶﴾ ---

۲۔ اور (وہی ہی) یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی (کتابوں) کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لئے (نازل کی گئی ہے کہ تم کے اور اسکے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔

--- ﴿سورة الانعام آیت ۹۲﴾ ---

۳۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات (کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی۔ سوان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا ۰

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۹۶﴾ ---

۴۔ وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ سننے والا

۱- اِنَّ اَوَّلَ كَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَرَّكًَا وَهُدًى  
لِّلْعَالَمِينَ ۝

۲- وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَرَّكَ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ  
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۝

۳- وَكُوْنُوا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمِنًا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ  
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا  
كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

۴- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ  
مِنَ السَّمَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

۵- وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَرَّكًَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۝

۶- فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِلْدَانًا فَأَسْلِمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ  
اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ ۝

۷- وَجَعَلَ فِيهَا رِوَايَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَاتٍ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا

(اور) دیکھنے والا ہے ۰

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱﴾ ---

۵۔ اور (یہ بھی) دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو

اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے ۰

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۲۹﴾ ---

۶۔ اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے (گھر والوں) کو سلام

کیا کرو (یہ) خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس

طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو ۰

--- ﴿سورة النور آیت ۶۱﴾ ---

۷۔ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا (سب) چار دن میں (اور تمام) طلبگاروں کے لئے یکساں ۵

--- ﴿سورة حم السجده آیت ۱۰﴾ ---

۸۔ تم ۵ اس کتاب روشن کی قسم ۵

کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رست دکھانے والے ہیں ۵

--- ﴿سورة الدخان آیت ۳۲﴾ ---

۹۔ اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ وستان اگائے اور کھیتی کا اناج ۵

--- ﴿سورة ق آیت ۹﴾ ---

## برکی عادت

۱۔ اور (اے بندے) جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان او آنکھ اور دل ان سب (جوارج) سے ضرور باز پرس ہوگی ۵

اور زمین پر اکڑ کر (اور تن کر) مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں (کی چوٹی) تک پہنچ جائے گا ۵ ان سب (عادتوں) کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت

أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوْءٌ لِّلسَّالِفِينَ ۝

۸۔ حَمِّهِ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا

كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝

۹۔ وَكَرَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَآبَيْنَاهُ بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ

الْحَصِيدِ ۝

۱۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۝ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

مَرَحًا ۝ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

۲۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۝ لَا تحسبوه

شُرَّكُمْ ۝ بَلْ هُوَ خَبْرٌ لَّكُمْ ۝ لِيُكَلِّمَ أُمْرِي ۝ مِّنْهُمْ مَا انْتَسَبَ

مِنَ الْإِثْمِ ۝ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ناپسند ہے ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۳۶-۳۸﴾ ---

۲۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برائہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے

اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اسکے لئے

اتقا وبال ہے اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ

اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۱۱﴾ ---



۳۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس (عذاب) کی وہ ہنستی اڑاتے تھے وہ ان کو آگھیرے گا ۵

--- ﴿سورۃ الباقیہ آیت ۲۳﴾ ---

۴۔ مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برنامہ رکھو! ایمان لانے کے بعد برنامہ (رکھنا) گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں ۵

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو ضرور نفرت کرو گے (تو غیبت نہ کرو) اور خدا کا ڈر رکھو بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحجرات آیت ۱۲﴾ ---

۵۔ ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے ۵  
جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے ۵  
اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ۵

3- وَيَذَرُ اللَّهُ نِسَاءً مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۵  
4- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۵  
يُسِّسَ الْأَسْمَ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۵ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۵  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۵ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۵ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۵ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۵ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۵  
5- وَيَلِكُلْ لِكُلِّ هَبْرَةٍ لُّمَزَةً ۵ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۵ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۵ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۵ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۵ نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَلْقَوْنَ فِيهَا ۵ تَنْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۵ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۵ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۵

ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا ۵

اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے ۵

وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے ۵

جو دلوں پر جا لپٹے گی ۵

(اور) وہ اس میں بند کر دیئے جائیں گے ۵

یعنی (آگ کے) لمبے لمبے ستونوں میں ۵

--- ﴿سورۃ الحمزہ آیت ۹۲﴾ ---

## بزدلی

۱۔ مومنو! ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے (مسلمان) بھائی جب (خدا کی راہ میں) سفر کریں (اور مر جائیں) یا جہاد کو نکلیں (اور مارے جائیں) تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۵۶﴾ ---

۲۔ اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ (عہد ادا کر لگاتا ہے۔ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۷۷﴾ ---

۳۔ اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا ۵

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لئے کنارے کنارے چلے (یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے) یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو (بھوکہ) وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا  
لَا خَافِيَهُمْ إِذَا صَرُّوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى لَوْ كَانُوا  
عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي  
قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝  
۲- وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَسْطُرُّنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا  
قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝  
۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا  
تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُولُوهُمْ يُومِنُ بِآيَاتِنَا دُونَ ذَلِكَ  
مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝  
۴- وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ انَّهُمْ لَكُمْ وَمَا هُمْ بِكُمْ وَلَكِنَّهُمْ  
قَوْمٌ يَنْفِرُونَ ۝ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَعْرِضًا أَوْ مَدَّخَلًا لَّوَلُوا  
إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ۝

وہ بہت ہی بری جگہ ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۱۶۵﴾ ---

۳۔ اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں ۵  
اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ (جیسے قلعہ) یا غار و مفاک یا (زمین کے اندر) گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں تڑاتے ہوئے بھاگ جائیں ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۵۷﴾ ---

## بشارت

۱۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے (نعت کے) باغ ہیں جنکے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہمشکل میوے دیئے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵﴾

۲۔ تو صبر کر نیوالوں کو (خدا کی خوشنودی کی) بشارت سنا دو ۵ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ۵ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷﴾

۳۔ (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب فرشتوں نے (مریم سے کہا) کہ مریم خداتم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح (اور مشہور) عیسیٰ ابن مریم ہوگا

۱- وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِهَا مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۵

۲- وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۵ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۵ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۵

۳- إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لَئِمْمَةَ إِنَّ اللَّهَ بِشْرُكَ يَكْفُرُ مِنْهُ ۵ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۵

۴- وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۵

۵- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۵ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ۵

میں سے ہوگا ۵

﴿سورۃ آل عمران ۳۵﴾

۴۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب الیم کی خبر سنا دو ۵

﴿سورۃ التوبہ آیت ۳۴﴾

۵۔ (یعنی) وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ۵

بھی خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۶۳-۶۴﴾ ---

۶۔ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو ۵

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو انکے دل ڈر جاتے

ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز

آداب سے پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو عطا فرمایا

ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۳۳-۳۵﴾ ---

۷۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے خدا کی طرف سے

بڑا فضل ہے ۵

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۴۷﴾ ---

۸۔ اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا

کی طرف رجوع کیا ان کے لئے بشارت ہے تو میرے بندوں

کو بشارت سنا دو ۵

جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ

لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۱۸﴾ ---

۹۔ اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا

6- وَيَسِّرِ الْغَيْبَاتِ ۚ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ  
قُلُوبُهُمْ وَالصَّيْرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُم وَالْمُقِيمِي

الصَّلَاةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

7- وَيَسِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ إِنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝

8- وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ

الْبُشْرَىٰ ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۗ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ ۝

9- وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ

اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا

بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ بَعْدِي ۖ اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝



کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں

(اور) جو (کتاب) مجھ سے پہلے آچکی ہے (یعنی) تورات

اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے

جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سنا تا ہوں۔ (پھر) جب وہ

ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لیکر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو

صریح جادو ہے ۵

--- ﴿سورۃ القف آیت ۶﴾ ---

مزید حوالے: آل عمران: ۳۹-۶۹-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۱۳

الذاریات: ۲۸-القف: ۱۳

نیز دیکھئے: تمبیہ

## بشر

۱۔ جب زلیخانے ان عورتوں کی (گفتگو جو حقیقت میں دیدارِ یوسف کے لئے ایک) چال (تھی) سنی تو ان کے پاس (دعوت کا) پیغام بھیجا اور ان کے لئے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کیلئے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور (یوسف سے) کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب (حسن) ان پر (ایسا) چھا گیا کہ (پھل تراشتے تراشتے) اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور بیساختہ بول انھیں کہ سبحان اللہ (یہ حسن) یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے ۵

— ﴿سورۃ یوسف آیت ۳۱﴾ —

۲۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھٹکھٹاتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں ۵ جب اس کو (صورتِ انسانیہ میں) درست کر لوں اور اس میں اپنی (بے بہا چیز یعنی) روح پھونک دوں تو اس کے آگے جہدے میں گر پڑنا ۵

— ﴿سورۃ الحجر آیت ۲۸﴾ —

۳۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں ۵ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے ۵

— ﴿سورۃ نبی اسرائیل آیت ۹۳﴾ —

۴۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ (البتہ) میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے تو جو

۱۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَيِّئًا وَقَالَتْ خِرْتُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۵  
۲۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۵ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۵  
۳۔ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا ۵ وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا مَّرْسُولًا ۵  
۴۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى إِلَيَّ الْكَلِمَٰتُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ فَعِمَّن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۵  
۵۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۵ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۵

شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہئے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے ۵

— ﴿سورۃ الکہف آیت ۱۱۰﴾ —

۵۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحبِ نسب اور صاحبِ قرابت دامادی بنایا اور تمہارا پروردگار (ہر طرح کی) قدرت رکھتا ہے ۵

— ﴿سورۃ الفرقان آیت ۵۴﴾ —

مزید حوالے: آل عمران: ۲۵۔ المائدہ: ۱۸۔ الانعام: ۳۳۔ ابراہیم: ۱۱۔ النحل: ۱۰۳۔ مریم: ۱۶۔ الانبیاء: ۳۔ المؤمنون: ۲۸۔

اشعراء: ۱۵۳۔ ۱۸۶۔ الروم: ۳۔ لیس: ۱۵۔ المؤمن: ۲۳۔ ۳۳۔ تم السجدہ: ۶۔ الشوری: ۵۱۔ محمد: ۲۵۔ ۲۹۔ ۳۱۔ ۶۔

التفابین: ۶۔ نیز دیکھئے: انسان۔ تخلیق انسان

## بغاوت و سرکشی

۱۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی۔ سوا اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اونچڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم توجیح کہنے والے ہیں ○

﴿سورة الانعام آیت ۱۳۶﴾ ---

۲۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ○

﴿سورة الاعراف آیت ۳۳﴾ ---

۳۔ خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور) تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو ○

﴿سورة النحل آیت ۹۰﴾ ---

۴۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کیلئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین

۱- وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزَمًا كُلَّ ذِي ظُلْفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعَنَزِ حَزَمًا عَلَيْهِمْ شُعُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

۲- قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

۳- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

۴- وَكَوَسَطَ اللَّهُ الْبَيْتَ لِيُعْبَادَهُ لِبَغْيِ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ○

۵- وَإِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْتُمْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

ساتھ نازل کرتا ہے بیشک وہ اپنے بندوں کو جاننا (اور) دیکھتا

ہے ○

﴿سورة الشوری آیت ۲۷﴾ ---

۵۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ

پڑیں تو ان میں صلح کرادو اور اگر ایک فریق دوسرے پر

زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک

کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع

کے صلح

انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۹﴾ ---

## بھائی چارہ

۱۔ اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کی (حالت کی) اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا (یعنی خرچ اکٹھا رکھنا) چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۲۰﴾ ---

۲۔ اور سب مل کر خدا کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۰۳﴾ ---

۳۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لئے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۱۱﴾ ---

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۵



۱- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۝

۲- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

۳- فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَتَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

۴- أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۝

۵- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

۴۔ مومنو! لے پالکوں کو ان کے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵﴾ ---

۵۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح

کرادیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۰﴾ ---

## بہتان

۱۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۱۱۱﴾ —

۲۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی دَرے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں ۵

— ﴿سورة النور آیت ۴﴾ —

۳۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے ۵

— ﴿سورة النور آیت ۶﴾ —

۴۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برانہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے

۱۔ وَمَنْ يَلْسِبْ اِثْمًا فَانْتَابَ يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَنْ يَلْسِبْ حَظِيْرَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْرًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بَهْتًا تَا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

۲۔ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوْنَ بِرَبْعَةِ شُهَدَاءَ فَاَجْلِدُوْهُم مَّنِيْنًا جَلْدًا ۙ وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

۳۔ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَكُوْنُوْنَ لَهُمْ شُهَدَاءَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدٍ هُمْ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَوْنُ الصّٰدِقِيْنَ ۝

۴۔ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا حَسْبُوْهُ لَكُمْ سَبُّ الْاِثْمِ ۙ وَ الَّذِيْ تَوَلٰى كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝

۵۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغٰفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُوْفٰى

اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے

لئے اتنا وبال ہے اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا

بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا ۵

جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں

اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور (کیوں نہ) کہا کہ یہ صریح

طوفان ہے ۵

— ﴿سورة النور آیت ۱۲۱﴾ —

۵۔ جو لوگ پرہیزگار (اور) برے کاموں سے بے خبر (اور)



ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت (دونوں) میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۳﴾ ---

۶۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام (کی تہمت) سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۸﴾ ---

۷۔ اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے خدا سے بخشش مانگو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة المتحذ آیت ۱۲﴾ ---

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  
6- وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا  
اَلتَّسَبُّوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا  
7- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيَعُكَ عَلَىٰ أَنْ  
لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا  
يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ  
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

۱۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے) اس طرح (حواس باختہ) انھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو (نفع کے لحاظ سے) ویسا ہی ہے جیسے سود (لینا) حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ (سود لینے سے) باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور (قیامت میں) اس کا معاملہ خدا کے سپرد اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں (جلتے) رہیں گے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۷۵﴾ ---

۲۔ اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس (کی دستاویز) کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لئے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر (ایسے معاملے کی) دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ (معاملہ کرنے

۱- الَّذِينَ يَكُونُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا ۚ فَمَا سَلَفَ ۚ وَأْمُرًا إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۲- وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُوبَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا قَوْلَهُ ۚ فَسَوْفَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۳- قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِمَّا قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ يَوْمَ لَا

والوں) کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں اگر تم (لوگ) ایسا کرو تو یہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہے اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو (کیسی مفید باتیں) سکھاتا ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۸۲﴾ ---

۳۔ (اے پیغمبر) میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہو گا اور نہ دوستی (کام آئے گی) ہمارے دیئے ہوئے مال

میں سے درپردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں ○

— ﴿سورة ابراہیم آیت ۳۱﴾ —

۴۔ (یعنی ایسے) لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ

دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت۔ وہ اس

دن سے جب دل (خوف اور گھبراہٹ کے سبب) الٹ جائیں

گے اور آنکھیں (اوپر چڑھ جائیں گی) ڈرتے ہیں ○

— ﴿سورة النور آیت ۳۷﴾ —

۵۔ مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو

خدا کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خرید و) فروخت

ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ○

— ﴿سورة الجمعة آیت ۹﴾ —

بَيِّعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ○

4- رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ  
وَالْأَبْصَارُ ○

5- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ○

## بیعت

۱۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا ۵

--- ﴿سورة الفتح آیت ۱۰﴾ ---

۲۔ (اے پیغمبر) جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو (صدق و غلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی ۵

اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں اور خدا غالب حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الفتح آیت ۱۸﴾ ---

۳۔ اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ

۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَبِيعُوْنَكَ اِلٰهًا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ يَدُلُّ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْۙ  
فَمَنْ لَّكَ فَاَلَمَّا يَبِيعُكَ عَلٰى نَفْسِهٖۙ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ  
عَلَيْهِ اللّٰهُ فَسِيُوْٓؤِيْهِۙ اَجْرًا عَظِيْمًاۙ

۲۔ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يَبِيعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  
فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْۙ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَۙ عَلَيْهِمْۙ وَاَنۡاَبَهُمْ  
فَتَمَّآ قَرِيْبًاۙ وَمَعَانِيْمَ كَثِيْرَةًۙ يَّاۡخُذُوْنَهَاۙ وَكَانَ اللّٰهُ  
عَزِيْزًا حَكِيْمًاۙ

۳۔ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّۙ اِذَا جَاۤءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيعُكَ عَلٰى اَنْ لَا  
يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْۡئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَازِنُوْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ  
اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهَاۙ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ  
وَآرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍۙ فَبِاَيۡهِنَّۙ وَاسْتَفُوْر  
لَهُنَّ اللّٰهُۙ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌۙ



اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے خدا سے بخشش مانگو۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الممتحنة آیت ۱۲﴾ ---



## بین الاقوامی تعلقات

۱۔ مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں (صلح کا) عہد ہو یا اس حال میں ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رُک گئے ہوں تمہارے پاس آجائیں (تواحر از ضرور نہیں) اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے پھر اگر وہ تم سے (جنگ کرنے سے) کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح (کا پیغام) بھیجیں تو خدا نے تمہارے لئے ان پر (زبردستی کر نیکی) کوئی سبیل مقرر نہیں کی ۰

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۹۰﴾ ---

۲۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اسکی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے ۰

--- ﴿سورۃ الانفال آیت ۶۱﴾ ---

۳۔ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو (کہ) خدا پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے ۰

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۴﴾ ---

۴۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو

۱- اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَى قُوْبِ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيَاقٌ اَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يَّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يَقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۗ وَكُوْشَاۤءَ اللّٰهِ لَسَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوْكُمْ فَاِنْ اَعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوْكُمْ وَالْقَوَا اِلَيْكُمْ السَّلَامُ ۗ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝

۲- وَاِنْ جَعَلُوْا لِّلسَّلَامِ فَاْجْتَمَعَتْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

۳- اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَكَمْ يَطٰهَرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاْتَيْتُمُوْا الْبَيْتَ عٰهَدَهُمْ اِلَىٰ مَدِيْنَتِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

۴- وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجْرُهٗ حٰثِيْ بِسْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلَغُهٗ مٰمَنَةً ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عٰهَدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهِ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے۔ پھر اس کو امن کی جگہ واپس

پہنچا دو اس لئے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں ۰

بھلا مشرکوں کے لئے (جنہوں نے عہد توڑ ڈالا) خدا اور اس

کے رسول کے نزدیک عہد کیونکر (قائم) رہ سکتا ہے ہاں جن

لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کے نزدیک

عہد کیا ہے اگر وہ (اپنے عہد پر) قائم رہیں تو تم بھی (اپنے قول

و قرار پر) قائم رہو بیشک خدا پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے ۰

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۷﴾ ---

۵۔ مومنو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو  
 خوب تحقیق کر لیا کرو (مبادا) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا  
 دو پھر تم کو اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے ۰

--- ﴿سورۃ الحجرات آیت ۶﴾ ---



### بیہودہ لٹریچر

۱۔ بیشک ایمان والے رستگار ہو گئے ۰

جو نماز میں معذور نیاز کرتے ہیں ۰

اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں ۰

--- ﴿سورۃ المؤمنون آیت ۳۱﴾ ---

۲۔ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے  
 تاکہ (لوگوں کو) بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس  
 سے استہزا کرے یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب  
 ہوگا ۰

--- ﴿سورۃ لقمان آیت ۶﴾ ---



۵۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ  
 تُصِیْبُوْا قَوْمًا بِمِیْثَاقِهِمْ فَتَنْصُرُوْهُمُوْا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ نِدْمِیْنَ ۰



۱۔ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝  
 وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝  
 ۲۔ وَ الَّذِیْنَ هُمْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِیْ لَهٗوَ الْحَدِیْثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ  
 اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۝ وَ یَتَّخِذُهَا هُزُوًا ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  
 مُّهِیْنٌ ۝



## پاک دامنی

۱۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ۵

مگر اپنی بیویوں سے یا (کینروں سے) جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے) انہیں ملامت نہیں ۵

--- ﴿سورة المؤمن آیت ۶۵﴾ ---

۲۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کیلئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے (اور) جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے ۵

اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش

(یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا

کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجوں اور اپنی (ہر قسم کی)

عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوائے ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی

چیزوں سے واقف نہ ہوں (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت (اور سنگار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں

۱- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ هِفْظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

۲- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ أَعْيُنَهُمْ ۝ ذٰلِكَ اَزْلٰى لَهُمْ ۝ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۝ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْاَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا

عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۝ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۝ وَتُذَوْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ۝ اِنَّهُم مِّنْ لَّعَلِّكُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

وَلِيَسْتَعْفِفَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ

اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ ماریں کہ (جھنکار

کانوں میں پہنچے) اور) ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں کو خدا کے آگے توبہ کرو تا کہ فلاح پاؤں ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۳۱﴾ ---

۳۔ اور جن کو بیاہ کا مقدر نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کئے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور جو غلام تم

سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں (صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے

ان کو بھی دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو

(بے شرمی سے) دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کیلئے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جوان کو مجبور کریگا تو ان (بیچاروں) کے مجبور کئے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے ۰

--- ﴿سورۃ النور آیت ۳۳﴾ ---

مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَإِنَّهُمْ مِنْ مَمَالِ اللَّهِ  
الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تُلْكَرُوا فَوَيْتَابِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ  
تَخَصُّصًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُلْكَرْهُنَّ فَإِنَّ  
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝



1- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَأَنْزَلَ مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا  
لِلَّهِ أَنْدَادًا ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

2- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ  
السَّائِرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

3- وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ

## پانی

۱۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انواع و اقسام کے میوے پیدا کئے۔ پس کسی کو خدا کا ہمسرنہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۳۲﴾ ---

کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقلمندوں کیلئے (خدا کی قدرت کی) نشانیاں ہیں ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۴﴾ ---

۳۔ اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے پھر ہم ہی (جو مینہ برساتے ہیں) اس سے ہر طرح کی روئیدگی اگاتے ہیں پھر اس میں سے سبز سبز کوٹلیں نکالتے ہیں اور ان کو نیلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور

۲۔ بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لئے رواں ہیں اور مینہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں



کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور (جب پکتی ہیں تو) ان کے پکنے پر نظر کرو ان میں ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں (قدرت خدا کی بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

﴿سورة الانعام آیت ۹۹﴾

۳۔ دنیا کی زندگی کی مثال مینہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ بزرہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا یہاں تک کہ زمین بزرے سے خوشنما اور آراستہ ہوگئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یادوں کو ہمارا حکم (عذاب) آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ (کرایا کر) ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم (اپنی قدرت کی) نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ۵

﴿سورة یونس آیت ۲۴﴾

۵۔ اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجودیکہ)

سَمِيٌّ فَآخَرَ جَانِمُهُ خَضِرًا نَّحْرُومُهُ حَبًّا مُّتْرَاكِيًا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ ط أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۭ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

4- إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۭ ط حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ نَّالِيًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ ۭ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ لَآيَاتِ الْقَوْمِ الَّتِي لَقُوا ۭ يَتَفَكَّرُونَ ۝

5- وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّمَّا جَوْرَتْ وَجَدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعَةٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَآجِدٍ وَنَقِضِلٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۭ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

6- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں ۵

﴿سورة الرعد آیت ۴﴾

۶۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مینہ برسایا۔ پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کئے اور کشتیوں (اور جہازوں) کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا (اور سمندر) میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی

تمہارے زیر فرمان کیا؟

--- ﴿سورة ابراہیم آیت ۲۲﴾ ---

۷۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے) جن میں تم اپنے چار پاؤں کو چراتے ہو

اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور (اور بیشمار درخت) اگاتا ہے۔ اور ہر طرح کے پھل (پیدا کرتا ہے) غور کرنے والوں کیلئے اس میں (قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے)

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۱۰﴾ ---

۸۔ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

--- ﴿سورة الانبیاء آیت ۳۰﴾ ---

۹۔ اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے

--- ﴿سورة النور آیت ۲۵﴾ ---

۱۰۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی (کھاتے ہیں) تو یہ

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

7- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ فِيهِ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

8- وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

9- وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۖ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

10- أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

11- أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ ؕ ؕ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ ؕ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَتَفَكَّرُونَ

دیکھتے کیوں نہیں؟

--- ﴿سورة السجدة آیت ۲۷﴾ ---

۱۱۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو

کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟

--- ﴿سورة الواقعة آیت ۶۸-۷۰﴾ ---

مزید حوالے: البقرہ: ۷۳، المائدہ: ۶، الاعراف: ۵۷، الحجر: ۲۲، النمل: ۶۵، الکہف: ۲۹-۳۶، طہ: ۵۳، الحج: ۵-۱۳

النمل: ۶۰، النحل: ۶۳، الروم: ۲۳، لقمان: ۱۰، السجدة: ۸، قاطر: ۲۷، الزمر: ۲۱، المؤمنون: ۱۸، حم السجدة: ۲۹

محمد: ۱۵، ق: ۹، القمر: ۱۱، الحجر: ۱۲، الواقعة: ۳۱، الملک: ۳۰، النجین: ۱۶، المرسلات: ۲۷، القہار: ۱۳

النازعات: ۳۱، یحییٰ: ۲۵، الطارق: ۶

۱۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اور ڈھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجیوں اور اپنی (ہر قسم کی) عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوائے ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت (اور سنگار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ ماریں کہ (جھنکار کانوں میں پہنچے اور) ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں سے خدا کے آگے توبہ کرو تا کہ فلاح پاؤں

--- ﴿سورۃ النور آیت ۳۱﴾ ---

۲۔ اے پیغمبر کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پر ہیز گار رہنا چاہتی ہو تو (کسی اجنبی شخص سے) نرم نرم باتیں نہ کیا کرو تا کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید (نہ) پیدا کر لے۔ اور (ان میں) دستور کے مطابق بات

۱- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِخَمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوَالِدَاتِ الَّتِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ  
النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ  
وَالْبُحْرَانُ ۖ وَتُؤْتُونَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُقَلِّبُونَ ۝

۲- يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتِنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ التَّقِيْنَ فَلَآ  
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ  
قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ  
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ

کیا کرو

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح (پہلے) جاہلیت (کے دنوں) میں اظہارِ تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ اے (پیغمبر کے) اہل بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی (کا میل کچیل) دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے

--- ﴿سورۃ الاحزاب ۳۳﴾ ---

۳۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو۔ یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کیلئے بہت پاکیزگی کی بات ہے ۵

— ﴿سورة الاحزاب آیت ۳۵﴾ —

۴۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ (باہر نکلا کریں تو) اپنے (مونہوں) پر چادر لٹکا کر گھونٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کیلئے موجب شناخت (دستیاز) ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

— ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۹﴾ —

## پرندے

۱۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ۵

کیا ان کا داؤس غلط نہیں کیا؟ (کیا) ۵

اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے ۵

۱۰۱۱۱ کنکر کا پتھر اور پھینکتے تھے ۵

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۱  
 هُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَّرَائِكَ حِجَابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۲  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بَيْنِهِنَّ ۳  
 ذَلِكَ آدَبٌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُذْهِبَنَّ ۴ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا رَحِيمًا ۵

۱۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۱  
 كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّبِهِ ۲ وَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۳  
 تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۵  
 ۲۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى كُلَّوَا ۱  
 مِنْ طَيْبَاتٍ مَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ ۲

تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس ۵

— ﴿سورة الفیل آیت ۵﴾ —

اور بادل کا تم پر سایہ کئے رکھا اور (تمہارے لئے) من و سلویٰ

اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان

کو کھاؤ (پیو) مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ

جانی) اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۵۷﴾ ---

۳۔ اب خدا نے ایک کو ابھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیونکر چھپائے کہنے لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۳۱﴾ ---

۴۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہد ہد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ۵ میں اے سخت مزادوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے (اپنی بے قصوری کی) دلیل صریح پیش کرے ۵

ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہد ہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس (شہر) سب سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۲۲ تا ۲۰﴾ ---

۵۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے (اڑتے رہتے) ہیں۔ ان کو خدا ہی تمہارے رکھتا

يَظْلُمُونَ ۵

۳- فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ

يُؤَارِي سَوْاقَةَ أَخِيهِ ط قَالَ يُؤَيِّلَنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ وَمِثْلَ

هَذَا الْغُرَابِ فَأُؤَارِي سَوْاقَةَ أَخِي ط فَأَصْبَحَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۵

۴- وَتَقَفَدَ الظَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُودَ أَذْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۵

لَأَعْدِيَّتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْهِجُهُ أَوْلِيَاءَ تَبِيَّتِي بِسُلْطَنِ

مُيَيْمِنٍ ۵ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ مَحْطُ

بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَّابِنَآ يَاقِينِ ۵

۵- أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّيْرِ مَسْعَرَتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ط مَا تَسْبِكُنَّ

إِلَّا اللَّهُ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۵

۶- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَالظَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدْعَةٍ لِمَا صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِمَا يَفْعَلُونَ ۵

ہے ایمان والوں کیلئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۷۹﴾ ---

۶۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں

خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی

اور سب اپنی نماز اور تسبیح (کے طریقے) سے واقف ہیں اور جو

کچھ وہ کرتے ہیں (سب) خدا کو معلوم ہے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۳۱﴾ ---

## پہاڑوں کے نام

۱۔ اور جب ہم نے تم سے عہد (کر) لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا (اور علم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں (لکھا) ہے اسے یاد رکھو تا کہ (عذاب سے) محفوظ رہو ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۳﴾ ---

۲۔ اور وہ درخت بھی (ہم ہی نے پیدا کیا) جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے (یعنی زیتون کا درخت کہ) کھانے کیلئے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے ۵

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۲۰﴾ ---

۳۔ بیشک (کوہ) صفا اور مرہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے (بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے) اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۵۸﴾ ---

۴۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ (اپنی جگہ پر) کھڑے ہیں مگر وہ (اس روز) اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل (یہ) خدا کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ بیشک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۸۸﴾ ---

مزید حوالے دیکھئے صفحہ ۲۵۳

- ۱- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
- ۲- وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْثُرُ بِالدُّهْنِ وَصَنِغٍ لِللَّاطِينِ ۝
- ۳- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعِمِرَ فَلَجَأَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝
- ۴- وَزَيَّ الْجِبَالِ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۝ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَنْ نَرَىٰ لَهُ شَيْئًا إِلَّا خَيْرًا يَسْمَعُ تَفْعَلُونَ ۝
- ۵- أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝
- ۶- يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝

۵۔ کیا ہم نے زمین کو پچھونا نہیں بنایا؟ ۵

اور پہاڑوں کو (اس کی) میخیں (نہیں ٹھہرایا)؟ ۵

--- ﴿سورة النباء آیت ۷۶﴾ ---

۶۔ (وہ قیامت ہے) جس دن لوگ ایسے ہونگے جیسے بکھرے ہوئے پتے ۵

اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون ۵

--- ﴿سورة القارعة آیت ۵۴﴾ ---

## پھلوں کے نام

۱۔ اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے چھتر یوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتر یوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں میں) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور (بعض باتوں میں) نہیں ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن (پھل) توڑو اور (کھیتی) کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بیچا نہ اڑانا کہ خدا بیچا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۴۱﴾ ---

۲۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی ۵ اور طور سینین کی ۵ اور اس امن والے شہر کی ۵

--- ﴿سورة التین آیت ۳۱﴾ ---

۳۔ اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی (تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو) کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق (کھاتے ہو) جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لئے ان (چیزوں) میں (قدرتِ خدا کی) نشانی ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۶۷﴾ ---

۴۔ اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے پھر ہم ہی (جو مینہ برساتے ہیں) اس سے ہر طرح کی روئیدگی اگاتے ہیں۔ پھر اس میں سے سبز سبز کوٹھلیں نکالتے ہیں اور ان کو ٹپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے

- 1- وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالتَّخْلُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُمُ الزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝
- 2- وَالزَّيْتِينَ وَالزَّيْتُونَ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
- 3- وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝
- 4- وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِبُهُ مِنْهُ حُبًّا مُّتْرَكِيًّا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ أَمْثَرٍ وَيُنْعِمُهُ اللَّهُ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝
- 5- وَالتَّخْلُ لِيُسْقَتَ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۖ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۖ

گا بھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور (جب پکتی) ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو ان میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان

لاتے ہیں (قدرتِ خدا کی بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۹۹﴾ ---

۵۔ اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گام بھاتا بتہ ہوتا ہے ۵

(یہ سب کچھ) بندوں کو روزی دینے کیلئے (کیا ہے) ۵

--- ﴿سورة ق آیت ۱۱۰﴾ ---

## پیغمبر کا ادب و احترام

۱۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لئے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لئے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کیلئے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لئے خدا سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

مومنو پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بیشک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہئے کہ (ایسا نہ ہو کہ) ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۶۲﴾ ---

۲۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں مومنو! تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو ۵

۱۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ قَاذَنَ لَيْسَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْ أَدَّأ فَلَيَعْذَرُ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۲۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلٰى النَّبِيِّ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ اِنَّ الَّذِينَ يُعٰذِرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا

جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا نیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کیلئے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۶﴾ ---

۳۔ مومنو! (کسی بات کے جواب میں) خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بے شک خدا سنتا جانتا ہے ۵

اے اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ ۵



اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو ۵

جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقویٰ کے لئے آزمائے ہیں ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے ۵

جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۳۱﴾ ---

۴۔ مومنو! جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے (مساکین کو) کچھ خیرات دے دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة المجادل آیت ۱۳﴾ ---

أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۵  
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۵  
إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَىٰ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُحُوبِكُمْ صَدَقَةٌ ۵ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرٌ ۵  
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۵

پھاڑوں کے نام: مزید حوالے: جودی-۱۱-۳۳-طور البقرہ: ۹۳-النساء: ۱۵۴-مریم: ۵۲-طہ: ۸۰-القصص: ۳۹-۳۶-الطور: ۱-آئین: ۲۰-عموی: الاعراف: ۱۳-۱۳۳-۱۷۱-ہود: ۳۳-الرعد: ۳-۳۱-الحجر: ۸۲-النحل: ۸۱-بنی اسرائیل: ۳۳-الکہف: ۴۷-طہ: ۱۰۵-الانبیاء: ۳۱-۷۹-الحج: ۱۸-النور: ۳۳-الشعراء: ۱۳۹-لقمان: ۱۰-الاحزاب: ۷۲-الفاطر: ۲۷-ص: ۱۸-الطور: ۱۰-الحاقہ: ۱۳-الزلزل: ۱۳-الرسالات: ۱۰-۲۷-النبا: ۷-التازعات: ۳۳-الکوثر: ۳

پھلوں کے نام: مزید حوالے: انار الانعام: ۹۹-الرحمن: ۶۸-انگور البقرہ: ۲۶۶-الانعام: ۹۹-الرعد: ۳-النحل: ۱۱-الکہف: ۳۳-المؤمنون: ۱۹-لہس: ۲۳-عیس: ۲۸-زیتون الانعام: ۱۳۱-النحل: ۱۱-المؤمنون: ۲۰-النور: ۲۵-عیس: ۲۹-آئین: ۱-کھجور البقرہ: ۲۶۶-الانعام: ۹۹-۱۳۳-الرعد: ۳-النحل: ۱۱-۲۷-بنی اسرائیل: ۹۱-الکہف: ۳۳-مریم: ۲۵-المؤمنون: ۱۹-الشعراء: ۱۳۸-لہس: ۳۳-الرحمن: ۱۱-عیس: ۲۹

پیغمبروں کا ادب و احترام مزید حوالے: انفال: ۳۰-التوب: ۶۱-الاحزاب: ۵۳-یزید کیسے سیرت النبوی

## تاریکی

۱۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵﴾

۲۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں ۵

﴿سورۃ الانعام آیت ۱﴾

۳۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلص دیتا ہے (جب) کہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو (اور کہتے ہو) اگر خدا ہم کو اس (تنگی) سے نجات بخشنے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں ۵

﴿سورۃ الانعام آیت ۶۳﴾

۴۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو عقل والوں کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ۵

﴿سورۃ الانعام آیت ۹۷﴾

۵۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے

۱- اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَٰهُمْ الشَّيْطٰنُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

۲- الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

۳- قُلْ مَنْ يَّبْتَغِيْكُمْ مِنَ ظُلُمٰتِ الدَّيْرِ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ اُنْجِبْنٰ مِنْ هٰذِهِ لَمَنْ تَدْعُوْنَ مِنَ الْمُشْكِكِيْنَ ۝

۴- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِي ظُلُمٰتِ الدَّيْرِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

۵- اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا تَبِيْئِيْنَ بِهٖ فِي النَّارِ كَمَنْ مَّقْتُلَهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخٰرِجٍ مِّنْهَا ۝ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

۶- اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لَّيْلِيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَآبٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَّ لَمْرٍ ۝

لئے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں ۵

﴿سورۃ الانعام آیت ۱۲۲﴾

۶۔ یا (ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے) جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو (اور) اس کے اوپر اور لہر (آ رہی ہو اور) اسکے اوپر بادل ہو غرض اندھیرے ہی

اندھیرے ہوں ایک پر ایک (چھایا ہوا) جب اپنا ہاتھ نکالے  
تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی)  
روشنی نہیں (مل سکتی) ۵

﴿سورة النور آیت ۳۰﴾

### تبلیغ

۱۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی  
طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں  
سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۰۴﴾

۲۔ (مومنو! جتنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم  
ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے  
کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل  
کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ان  
میں ایمان لانے والے بھی ہیں (لیکن تھوڑے) اور اکثر  
نافرمان ہیں ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۱۰﴾

۳۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ (حکیم خدا پر) قائم بھی ہیں جو

يَكْفُرُ بِهَا وَمَنْ كَفَرَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

۱۔ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُقْتَدِرُونَ ۵

۲۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكُؤْمِنُ أَهْلُ  
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَتَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
الْفَاسِقُونَ ۵

۳۔ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِلَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَ  
هُمْ يَسْجُدُونَ ۵ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ  
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۵

۴۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ

رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور (اسکے آگے) سجدے  
کرتے ہیں ۵

(اور خدا پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو  
کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی  
لوگ نیکو کار ہیں ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۱۳﴾

۴۔ اے پیغمبر جو ارشاداتِ خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے

ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا) اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا بیشک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۶۷﴾ ---

۵۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف (پیغام خدا کا) پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۹۹﴾ ---

۶۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة ابراہیم آیت ۴﴾ ---

۷۔ (اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے رستے سے بھٹک گیا۔ تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۲۵﴾ ---

تَقْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

5- مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

6- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَتَّبِعُونَ لَهْمُمْ ۗ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

7- أَدْعُرُّ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

8- وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَأُصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۗ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا ۗ تَحْنُ نَزْرُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝

9- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِعُكَ فِي الْأَمْرِ ۗ وَأَدْعُرُّ إِلَى رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ۝

۸۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے

روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور

(نیک) انجام (اہل) تقویٰ کا ہے ۵

--- ﴿سورة طہ آیت ۱۳۲﴾ ---

۹۔ ہم نے ہر ایک امت کے لئے ایک شریعت مقرر کر دی ہے

جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑانہ کریں اور

تم (لوگوں کو) اپنے پروردگار کی طرف بلائے رہو بیشک تم

سیدھے رستے پر ہو ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۶۷﴾ ---



## تجارت

۱۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ (حج کے دنوں میں بذریعہ

تجارت) اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۹۸﴾ ---

۲۔ مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی

رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو (اور اس سے مالی فائدہ

حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے) اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو

کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۹﴾ ---

۳۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور

خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے

بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور

اسکے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ

عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم (یعنی عذاب)

بھیجے اور خدا تا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۲۴﴾ ---

۴۔ جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں

اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ

۱۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

۳۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْتِرَتْ بَيْنَهُمْ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَ حَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

۴۔ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْعُونَ تِجَارَةً لَّن

تَبُورًا ۗ لِيُؤْتِيَهُمُ آجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ

عَفُورٌ شَكُورٌ ۝

۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّن

عَذَابِ أَلِيمٍ ۗ تَأْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي

کرتے ہیں وہ اس تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو

کبھی تباہ نہیں ہوگی ۵

کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ

بھی دے گا وہ تو بخشنے والا (اور) قادر دان ہے ۵

--- ﴿سورة فاطر آیت ۲۹﴾ ---

۵۔ مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب الیم سے

مخلص دے ۵

(وہ یہ کہ) خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا

کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے  
حق میں بہتر ہے ۵

--- ﴿سورة الغف آیت ۱۱۰﴾ ---

۶۔ مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو  
خدا کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خریدو) فروخت  
ترک کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ۵  
پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور  
خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تا کہ نجات پاؤ ۵

اور جب یہ لوگ سودا بکٹایا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ  
جاتے ہیں اور تمہیں (کھڑے کا) کھڑا چھوڑ جاتے ہیں کہہ  
دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر  
ہے: از خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة الجمعة آیت ۱۱۲۹﴾ ---

سَبِّحْ لِلَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۵ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي  
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ۵ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا  
وَتَرَكُوا قُلُوبَهُمْ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ  
التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۵

مزید حوالے: البقرہ: ۱۶-۲۵۳-۱۱۲۹، النور: ۷۳، نیرۃ کیلئے: حج - سود - تاپ تول

## تحریف

۱۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور سننے نہ سنوائے جاؤ اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے (تم سے گفتگو کے وقت) راعنا کہتے ہیں اور اگر (یوں) کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور (صرف) مع اور (راعنا کی جگہ) انظرنا (کہتے) تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں ۰

— ﴿سورۃ النساء آیت ۴۶﴾ —

۲۔ اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں (کچھ تو) ان میں سے (ہیں) جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں اور (کچھ) ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہوتا یہ غلط باتیں بنانے کیلئے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں (کے بہکانے) کیلئے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے (صحیح) باتوں کو ان کے مقامات (میں ثابت ہونے) کے بعد بدل دیتے ہیں اور (لوگوں سے) کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی (حکم)

۱- مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَحْرِفُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنَّمَا غَيْرُ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لِكَيْتَابِ السِّتَةِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ط وَكَلِمَاتِهِمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنَّمَا لَكُنَّ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝  
۲- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَابِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ يَقَوْمًا آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ بِتَحْرِفُونَ الْكَلِمَةَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهَا يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَاهُمْ هَذَا فَعَدُوٌّ وَإِنْ لَمْ نُؤْتُوهُ فَأَحَدَرُوا ط وَمَنْ يُدِرِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَكُنْ تَمَلِكْ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهِرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ط وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝



طے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ طے تو (اس سے) احتراز کرنا اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کیلئے تم کچھ بھی خدا سے (ہدایت کا) اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کیلئے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے ۰

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۴۱﴾ —





## تخلیق انسان

۱۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور (قطع مودت) ارحام سے (بجو) کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱﴾ ---

۲۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر (مرنے کا) ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تم (اے کافر و خدا کے بارے میں) شک کرتے ہو ۵

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۲﴾ ---

۳۔ اور ہم نے انسان کو کھٹکھٹاتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحجر آیت ۲۶﴾ ---

۴۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے ۵  
پھر اس کو ایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا ۵  
پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا۔ پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا۔ پھر اس کو نبی

۱۔ یٰٰلَیْہَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْہَا زَوْجَہَا وَبَثَّ مِنْہُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰہَ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِہِ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا ۝

۲۔ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰی اَجَلًا وَاَجَلَ مُّسَمًّی عِنْدَہُ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝

۳۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنَ ۝

۴۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلٰلٰةٍ مِنْ طِیْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰہُ نَظْفًا فِیْ قَرَارٍ مَّکِیْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَیْقًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَکَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاہُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَرَّکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِیْنَ ۝

۵۔ وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فِجَعَلْہٗ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَکَانَ رَبُّکَ قَدِیْرًا ۝

صورت میں بنا دیا تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۱۳۲﴾ ---

۵۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت و امامدی بنایا اور تمہارا پروردگار (ہر طرح کی) قدرت رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الفرقان آیت ۵۴﴾ ---

۶۔ اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں (پہلے) ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو ۵

﴿سورة الزمر آیت ۶﴾

۷۔ وہی تو ہے جس نے تم کو (پہلے) مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ بنا کر پھر تو تھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے (کہ تم) بچے (ہوتے ہو) پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم (موت کے) وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو ۵

﴿سورة المؤمن آیت ۶۷﴾

۸۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو (اور) خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بیشک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے ۵

﴿سورة الحجرات آیت ۱۳﴾

۶۔ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ يُخَلِّقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظَلَمَاتٍ لَّئِيْلٌ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالِي تَصْرَفُونَ ۵

۷۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّ كُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۵

۸۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۵

۹۔ أَيْحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۗ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّنْ قَبْضِي يَمِينِي ۗ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۗ فَعَلَّ مِنْهُ الْزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۗ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِخَ الْمَوْتَىٰ ۗ

۹۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یونہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ۵ کیا وہ

مٹی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ۵

پھر (تو تھڑا ہوا پھر) (خدا نے) اس کو بنایا پھر (اسکے اعضاء کو)

درست کیا ۵

پھر اس کی دو قسمیں بنائیں (ایک) مرد اور (ایک) عورت ۵

کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے ۵

﴿سورة القیمة آیت ۲۲-۲۰﴾

۱۰۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اسکو سنتا دیکھتا بنایا ۵  
(اور) اسے رستہ بھی دکھا دیا (اب وہ) خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر ۵

--- ﴿سورة الاحقاف آیت ۳۲﴾ ---

۱۱۔ تو انسان کو دیکھنا چاہتے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے ۵  
وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے ۵  
جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے ۵

--- ﴿سورة الطارق آیت ۷ تا ۹﴾ ---

## تخلیق کائنات

۱۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۴﴾ ---

۲۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا (تمہارے پیدا کرنے سے) مقصود

10- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۚ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ

سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۚ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كٰفِرًا ۝

11- فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانَ وَمِمَّ خُلِقَ ۗ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝



1- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ

اَيَّامٍ وَّتَمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ ۚ يَعْنٰى الْبَيْتَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ

حٰثِيًا ۗ وَالْقَمَسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مَسْتَعْرَبًا بِاَمْرِ ۝

اَلَا لَهٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

2- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ

كَانَ عَرْشُهُ عَلٰى الْمَآءِ لِيَسْئَلَكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

3- اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ تَمَّ اسْتَوٰى عَلٰى

الْعَرْشِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ لِّجُزْئِيٍّ لَّا جَبَلٍ مِّنْهُنَّ

یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔

--- ﴿سورة هود آیت ۷﴾ ---

۳۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم

دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے۔ پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج

اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش

کر رہا ہے وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے (اس

طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے

پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو ۵

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے۔ اور ہر طرح کے میوؤں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ۵

﴿سورة الرعد آیت ۳۲﴾

۴۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو و لعل کے لئے پیدا نہیں کیا ۵

﴿سورة الانبیاء آیت ۱۶﴾

۵۔ اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

۶۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھر دو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر خدا ہی چھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

﴿سورة النکبوت آیت ۲۰﴾

۷۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کو بہت آسان ہے اور آسمانوں

يَذُرُ الْأَمْرَ يَقْضِلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝  
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمَنْ  
حَلَّ الشَّمْسِ جَعَلَ فِيهَا رُجُومًا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ  
الْتَّهَامُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

4- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝

5- وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى  
بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي  
عَلَى أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
6- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ  
اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ۝

7- وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ  
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

8- خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَتْ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے ۵

﴿سورة الروم آیت ۲۷﴾

۸۔ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے تاکہ تم کو بلا ہلانہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیئے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر (اس سے) اس میں ہر قسم کی نفیس

۱۲۔ وہ (خدا) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۵

اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست (اور) بخشنے والا ہے ۵

اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے (اے دیکھنے والے) کیا تو (خدائے) رحمن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو (آسمان میں) کوئی شکاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ (سہ بارہ) نظر کر تو نظر (ہر بار) تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی ۵

--- ﴿سورة الملك آیت ۲۱﴾ ---

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۵

12- تَبْرَكَ الَّذِي يَدُبُّ الْمَلَائِكَةَ وَيُوحِي السَّمْعَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَاقِبَةُ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلِغَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۚ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوِيتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ

الْبَصَرُ حَايِبًا ۚ وَهُوَ حَسِيرٌ ۵



مزید حوالے: البقرہ: ۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵

## تزکیہ نفس

۱۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں (نہیں) بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ۵

۲۔ (اے پیغمبر) تم ان ہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے اور (سب کو) خدا ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے ۵

﴿سورۃ فاطر آیت ۱۸﴾

۳۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے (محمد کو) پیغمبر (بنا کر) بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے ۵

﴿سورۃ الجحد آیت ۲﴾

۴۔ قسم انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا ۵

۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزُوْنُ اَنْفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللّٰهُ يَزِيْٓءُ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَلَا يَظْلَمُوْنَ فٰتِيْلًا ۝

۲۔ اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ۗ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَمَنْ تَذٰكِرٰى فَاِنَّهَا يَتَذٰكِرُ لِنَفْسِهٖ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

۳۔ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاَقْبَامِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

۴۔ وَنَفْسٍ وَّمَا سُوِّبَهَا ۗ فَالْهَمَّهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوِيَهَا ۗ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝



پھر اسکو بدکاری (سے بچنے) اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی ۵ کہ جس نے (اپنے) نفس (یعنی روح) کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا ۵

اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا ۵

﴿سورۃ الفس آیت ۷ تا ۱۰﴾

## تسبیح

۱۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ۔

— ﴿سورة آل عمران آیت ۱۹۱﴾ —

۲۔ اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔

— ﴿سورة المائدہ آیت ۱۱۶﴾ —

۳۔ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور (اسکی) خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔

— ﴿سورة الحج آیت ۹۸﴾ —

۴۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار (اور) غفار ہے۔

— ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۴۳﴾ —

۵۔ پس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے

۱- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

۲- وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ آتِ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ ۝

۳- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

۴- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ طَائِفٌ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

۵- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الْقَمَرِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَِا وَمِنْ أَنْفَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

۶- وَذَا النُّجُومِ إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

نکلتے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات (اولین) میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف (یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی) تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔

— ﴿سورة طہ آیت ۱۳۰﴾ —

۶۔ اور ذوالنون (کو یاد کرو) جب وہ (اپنی قوم سے ناراض ہو کر) غصے کی حالت میں چل دیئے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پاسکیں گے آخر اندھیرے میں (خدا کو) پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے (اور) بیشک میں

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

7- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوا  
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٧﴾

8- سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَ  
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

9- فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَكَلُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْيَوْمَ تَرْجَعُونَ  
١٠- سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩﴾

11- الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴿١٠﴾

12- وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ  
مَا تَرْكَبُونَ ۗ لِيَسْتَوِيَ عَلَيْكُمْ ظُهُورُهُمْ تَذْكُرُوا

نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي  
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١١﴾

13- فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ  
الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۗ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ

تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے  
پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ (ذات) پاک ہے جس

نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس  
کو بس میں کر لیتے ﴿١٣﴾

13- تو جو کچھ یہ (کفار) جانتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے  
طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے

پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو ﴿١٣﴾

﴿سورة الانبياء آیت ٨٤﴾

۷۔ اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو ﴿٧﴾

اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو ﴿٨﴾

﴿سورة الاحزاب آیت ٣٢﴾

۸۔ وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان

کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ﴿٩﴾

﴿سورة النبین آیت ٣٦﴾

۹۔ وہ (ذات) پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت

ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے ﴿١٠﴾

﴿سورة النبین آیت ٨٣﴾

۱۰۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت

ہے (اس سے) پاک ہے ﴿١١﴾

﴿سورة الصافات آیت ١٨٠﴾

۱۱۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد (حلقہ

باندھے ہوئے) ہیں (یعنی فرشتے) وہ اپنے پروردگار کی تعریف

کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے

ہیں اور مومنوں کیلئے بخشش مانگتے رہتے ہیں ﴿١٢﴾

۱۲۔ اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کئے اور تمہارے لئے

کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو ﴿١٣﴾



اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس (کے نام) کی تزییہ کیا کرو ○

--- ﴿سورۃ ق ۳۹﴾ ---

۱۳ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے ○

--- ﴿سورۃ الحمد یٰ آیت ۱﴾ ---

## تسخیر کائنات

۱۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مینہ برسایا۔ پھر اس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کئے اور کشتیوں (اور جہازوں) کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا (اور سمندر) میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا ○

اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں (دن رات) ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا ○

اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو (مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے)

### السُّجُودُ

14- سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ



1- اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرٰتِ بُرْقًا لَّكُمۡ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِّئِيْنَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَ اَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُ ۗ وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمًا كٰفٰرًا

2- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمۡ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۗ وَيَسِيْكُ السَّمٰءِ اَنْ تَقَعَ

کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف (اور) ناشکرا ہے ○

--- ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۳۲﴾ ---

۲۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں (سب) خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں (بھی) جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تمہارے رہتا ہے کہ زمین پر (نہ) گر پڑے مگر اس کے حکم سے پیشک خدا لوگوں

مزید حوالے: البقرہ: ۳۰- النساء: ۱۶۱- الانعام: ۱۰۱- الاعراف: ۱۳۳- یونس: ۱۰- یوسف: ۱۰۸- النحل: ۱- ۳۹- بنی اسرائیل: ۱- الانبیاء: ۲۰

تسبیح المومنین: ۹۱- النور: ۳۱- ۳۲- ۳۱- الفرقان: ۵۸- القصص: ۶۸- الروم: ۱۷- ۳۰- الزمر: ۳- ۶۷- المؤمن: ۵۵- الشوری: ۵- الزخرف: ۸۲-

التغی: ۹- الطور: ۲۸- ۳۹- الواقہ: ۷۳- ۹۳- ۱- الحشر: ۱- ۲۲- الصف: ۱- البقرہ: ۱- النجین: ۱- القلم: ۲۸- ۲۹- الخاقہ: ۵۳- الدھر: ۲۶- الاعلیٰ: ۱

نیز دیکھئے: حمد ذکرائلی

پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۶۵﴾ ---

۳۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن ۵

--- ﴿سورة لقمان آیت ۲۰﴾ ---

۴۔ خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو ۵

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے (حکم) سے تمہارے کام میں لگا دیا جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لئے اس میں (قدرتِ خدا کی) نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة الجاثیة آیت ۱۳، ۱۴﴾ ---

عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَذُنُّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ  
رَّحِيمٌ ۝

۳- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن  
يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ۝

۴- اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا  
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْلَهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

## تعدوا زواج

۱۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے

--- ﴿سورة النساء آیت ۳﴾ ---

۲۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا

مہربان ہے

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۲۹﴾ ---

## تعلیم

۱۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین (کا علم سیکھتے اور اس) میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سنا تے تاکہ وہ

۱۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَالْكَفْوُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا ۗ  
۲۔ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ نَصَلْتُمْ وَإِنْ تَصَلُّوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

۱۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ كَأَقْوَٰةٍ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا وَاٰلِيَهُمْ اٰوَاٰ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝  
۲۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۙ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۙ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۙ

حذر کرتے

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۲۲﴾ ---

۲۔ (اے محمد) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے (عالم

کو) پیدا کیا

جس نے انسان کو خون کی پھلکی سے بنایا

پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے

جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا

اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا

--- ﴿سورة العلق آیت ۵﴾ ---

## تغیّر و تبدل

۱۔ بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کیلئے رواں ہیں اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقلمندوں کیلئے (خدا کی قدرت کی) نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۶۳﴾ ---

۲۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۹۰﴾ ---

۳۔ رات اور دن کے (ایک دوسرے کے پیچھے) آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں (سب میں) ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ۵

۴۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے آسمانوں

۱- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَرَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخْرِجِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۵  
 ۲- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۵  
 ۳- إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۵  
 ۴- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّعَالَمِينَ ۵

اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا اہل دانش کے لئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۲۲﴾ ---

## تقدیر

۱۔ (اے جہاد سے ڈرنے والو) تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ بڑے بڑے مخلوق میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو (اے محمد تم سے) کہتے ہیں کہ یہ (گزند) آپ کی وجہ سے (ہمیں پہنچا) ہے کہہ دو کہ (رنج و راحت) سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے ۵

(اے آدم زاد) تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے اور نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے اور (اے محمد) ہم نے تم کو لوگوں (کی ہدایت) کیلئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۷۸﴾ ---

۲۔ وہی رات کے اندھیرے سے (صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو (موجب) آرام (ٹھہرایا) اور سورج اور چاند کو (ذرائع) شمار بنایا ہے یہ خدا کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں جو غالب (اور) علم والا ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۹۶﴾ ---

۳۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس

۱۔ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۚ مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَقِنِ اللّٰهُ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَيَقِنِ لَنَفْسِكَ ۚ وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝

۲۔ فَالِقَ الْاَصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالنَّجْمِ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

۳۔ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَمْ يَتَّبِعُوْنَكَ وَاَنْتَ كَاذِبٌ ۚ يٰكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَاٰهُ تَقْدِيْرًا ۝

۴۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

۵۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۚ وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاَحَدَةٌ ۝

نے (کسی کو) بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۲﴾ ---

۳۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا ۵

--- ﴿سورة السجده آیت ۱۳﴾ ---

۵۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا

تکلم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے ۵

— ﴿سورۃ القمر آیت ۲۹-۵۰﴾ —

۶۔ اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لئے (رِجْحُ وِجْن سے)

مخلصی کی صورت پیدا کرے گا ۵

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم و) گمان

بھی نہ ہو اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا

خدا اپنے کام کو (جو وہ کرنا چاہتا ہے) پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے

ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے ۵

— ﴿سورۃ الطلاق آیت ۳۲﴾ —

۷۔ (اے پیغمبر) اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح

کرو ۵

جس نے انسان کو بنایا پھر (اسکے اعضاء کو) درست کیا ۵

اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا (پھر اس کو) راستہ بتایا ۵

— ﴿سورۃ الاعلیٰ آیت ۳۲﴾ —

كَلِمَةٍ بِالْبَصَرِ ۵

۶۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۵ وَيَرْزُقْهُ مِنْ

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۵ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

حَسْبُهُ ۵ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۵ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

شَيْءٍ قَدْرًا ۵

۷۔ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۵ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۵ وَالَّذِي

قَدَّرَ فَهَدَى ۵

## تقویٰ

۱۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب (قبلہ سمجھ کر ان) کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور (خدا کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں (کے چھڑانے) میں (خرچ کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کا رزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (خدا سے) ڈرنے والے ہیں ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷﴾ —

۲۔ اور نیکی اس بات میں نہیں کہ (احرام کی حالت میں) گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکو کار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تا کہ نجات پاؤ ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۸۹﴾ —

۱۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

۲۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ  
مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

۳۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَكَزَّوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ  
الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝

۴۔ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

۳۔ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا اور زاد راہ (یعنی راستے کا خرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر (فائدہ) زاد راہ (کا) پرہیزگاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۷﴾ —

۴۔ اور جو حلال طیب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور خدا سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو ۵

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۸۸﴾ —

۵۔ اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور (جو) پرہیزگاری کا لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۲۶﴾ ---

۶۔ خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں (داخل) ہوں ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۸﴾ ---

۷۔ تم اس (مسجد) میں کبھی (جا کر) کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا (اور) نماز پڑھایا) کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے ۵

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۰۸﴾ ---

۵۔ یٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْۤاۤتِکُمْ وَرِیۡظًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیۡرٌۢ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوۡنَ ۵

۶۔ اِنۡمَآ یَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالیَومِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰی الزَّکٰوةَ وَکَلِمَ یُخۡشِ اِلَّا اللّٰہَ فَعَسٰی اُولٰٓئِکَ اَنْ یَّکُوۡنُوۡا مِنَ الْمُهۡتَدِیۡنَ ۵

۷۔ لَا تَقۡمُ فِیۡہِۭ اَبۡدًا لِّمَسٰجِدٍ اُتِیۡسَ عَلٰی التَّقْوٰی مِنْ اَوَّلِ یَومٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوۡمَ فِیۡہِۭ فِیۡہِۭ رِجَالٌ یُّحِبُّوۡنَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوۡا وَّاللّٰہُ یُحِبُّ الْمُطَهَّرِیۡنَ ۵ اَمۡنٌ اَسَّسَ بُنِیَانُہٗ عَلٰی تَقْوٰی مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَیۡرٌ اَمۡرٌ مِّنۡ اَسَّسَ بُنِیَانُہٗ عَلٰی شَفَا جُرۡفٍ هٰرٍ فَانۡهَارَ بِہٖ فِیۡ نَارٍ جَہَنَّمَ ۵ وَاللّٰہُ لَا یَہۡدِی الْقَوۡمَ الظَّالِمِیۡنَ ۵

۸۔ وَاَمۡرًا هَلٰکَ بِالصَّلٰوةِ وَاَصۡطَبِرْ عَلَیۡہَا لَا نَسۡئَلُکَ رِزۡقًا ۵ نَحۡنُ نَرۡزُقُکَ ۵ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰی ۵

۹۔ ذٰلِکَ ۵ وَمَنْ یُعۡظِمۡ شَعَابِرَ اللّٰہِ فَاِنَّہَا مِنْ تَعْوٰی

۸۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو) ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور (نیک) انجام (اہل) تقویٰ کا ہے ۵

--- ﴿سورة طہ آیت ۱۳۲﴾ ---

۹۔ یہ (ہمارا حکم ہے) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی عظمت رکھے تو یہ (فعل) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۳۳﴾ ---



### الْقُلُوبِ

10- تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

11- مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ

12- وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

۱۰۔ وہ جو آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے

(تیار) کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے

اور انجام (نیک) تو پر ہیزگاروں ہی کا ہے ۵

--- ﴿سورة القصص آیت ۸۳﴾ ---

۱۱۔ (مومنو) اسی (خدا) کی طرف رجوع کئے رہو اور اس سے

ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۳۱﴾ ---

۱۲۔ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق

کی وہی لوگ متقی ہیں ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۲۳﴾ ---

## تقویم

۱۔ (اے محمد) لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے) کہہ دو کہ وہ لوگوں کے (کاموں کی میعادیں) اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ ۱۸۹﴾ ---

۲۔ وہی (رات کے اندھیرے سے) صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو (موجب) آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو (ذرائع) شمار بنایا ہے یہ خدا کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں جو غالب (اور) علم والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۹۶﴾ ---

۳۔ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں (بارہ ہیں یعنی) اس روز (سے) کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں (برس کے) بارہ مہینے (لکھے ہوئے) ہیں ان میں سے چار مہینے ادب کے ہیں۔ یہی دین (کا) سیدھا (رستہ) ہے تو ان (مہینوں) میں (قتال ناحق سے) (اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ خدا پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے ۵

امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ ادب کے

۱۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآيَاتِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ

۲۔ قَالِقِ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الْاَيُّلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حِسَابًا ۗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

۳۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اِتْنَا عَشَرَ ۚ شَهْرًا ۚ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ۚ وَ

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاْفًا ۗ كَمَا يَقَاتِلُوْنَكُمْ كَاْفًا ۗ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا الْعِيْلُ زِيَادَةٌ ۗ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهٖ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَحِلُّوْنَہٗ عَامًا وَيَحْرِمُوْنَہٗ عَامًا ۗ اِيَّوَاطُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيَحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۗ ذٰلِكَ لَعَلَّهُمْ سُوْءَ اَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

۴۔ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرًا مِّنْ اٰيٰتٍ لِّتَعْلَمُوْا عِدَّةَ السِّنِّيْنَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

مہینوں کی جو خدا نے مقرر کئے ہیں گنتی پوری کر لیں اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور خدا کا فر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ ۲۶۲﴾ ---

۴۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (کاموں کا) حساب معلوم کرو یہ (سب کچھ) خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کیلئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۵﴾ ---

## تکبر

۱۔ خدا تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۶﴾ ---

۲۔ سچ اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے (عار رکھتے ہیں) اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا ۵

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے (کچھ) زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے (بندہ ہونے سے) عار و انکار اور تکبر

کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دیگا اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۷۲﴾ ---

۳۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لئے اور لوگوں کو دکھانے کیلئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ

1- إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۵

2- لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا

الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۵ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ

وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۵ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَبِأُولَئِكَ أُجْرُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ

مِنْ فَضْلِهِ ۵ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا

فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۵ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۵

3- وَلَا تَلُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرَأْيَاءَ

النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۵ وَاللَّهُ يَهْتَكُمُ

يَعْمَلُونَ مِحْطًا ۵

4- إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا ۵ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۵ لَا جَرَمَ أَنْ

اللَّهُ يَعْلَمَ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يَعْلَنُونَ ۵ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْتَكْبِرِينَ ۵

کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے ۵

۳۔ تمہارا معبود تو اکیلا خدا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں ۵

یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں خدا ضرور اس کو

جانتا ہے۔ وہ (خدا) سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۲۲﴾ ---

۵۔ سودوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۲۹﴾ ---

۶۔ وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے (تیار) کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام (نیک) تو پر ہمیزگاروں ہی کا ہے ۵

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۸۳﴾ ---

۷۔ اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا ۵ اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا اور (بولتے وقت) آواز نیچی رکھنا کیونکہ (اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں ہے سب سے بری آواز گدھوں کی ہے ۵

--- ﴿سورۃ لقمان آیت ۱۹/۱۸﴾ ---

۸۔ موسیٰ نے کہا کہ میں ہر تکبر سے جو حساب کے دن (یعنی قیامت) پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۲۷﴾ ---

۵۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَيْسَ مَثْوًى  
الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

۶۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ عَلْوًا  
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

۷۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۚ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۖ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ  
وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ  
الْحَمِيرِ ۝

۸۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا  
يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

۹۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ  
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذُخْرَيْنَ ۝

۹۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیا تے ہیں عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونگے ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۶۰﴾ ---

مزید حوالے: التسماء-۱۷۳- الانعام: ۹۳- الاعراف: ۸۸-۱۳۶- بنی اسرائیل: ۳۷- الانبیاء: ۱۹- المؤمنون: ۳۵-۳۶- القصص: ۷۶-

السجده: ۱۵-۱۶- فاطر: ۳۳-۳۴- الزمر: ۵۹-۶۰- المؤمن: ۲۷-۳۵-۷۵- حم السجده: ۳۷-۳۸- الجاثیہ: ۳۱-۳۲- الاحقاف: ۲۰-

الحدید: ۲۳-۲۴- النافقون: ۵- المرسلات: ۳۸- الانشقاق: ۲۱-۲۲-

## تلاوت

۱۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو (ایسا) پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۲۱﴾

۲۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۶۳﴾

۳۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے ۵

﴿سورة الاعراف آیت ۲۰۴﴾

۴۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵

﴿سورة الانفال آیت ۲﴾

۵۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو ۵

﴿سورة النحل آیت ۹۸﴾

۱۔ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

۲۔ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

۳۔ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

۴۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمٰنًا وَاَوْسَعٰلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

۵۔ فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

۶۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً يَّذٰرُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُوْرًا ۝

لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

۶۔ جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی ۵

کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا وہ تو بخشنے والا (اور) قادر دان ہے ۵

﴿سورة فاطر آیت ۲۹﴾

## تشبیہ

۱۔ اور ان کو حسرت (افسوس) کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کردی جائیگی اور (ہیبات) وہ غفلت میں (پڑے ہوئے) ہیں اور ایمان نہیں لاتے ۵

--- ﴿سورۃ مریم آیت ۲۹﴾ ---

۲۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے ۵  
(اے مخاطب) جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہونگے بلکہ (عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہونگے) بیشک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے ۵

--- ﴿سورۃ اٰنج آیت ۲۱﴾ ---

۳۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آسکے بیشک خدا کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا (شیطان) تمہیں خدا

1- وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۵

2- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۵ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۵

3- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ وَأَخْشُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۵ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ لَكٰفِرُونَ ۵

کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے ۵

--- ﴿سورۃ لقمان آیت ۳۳﴾ ---

۴۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ۵

--- ﴿سورۃ سباء آیت ۳۲﴾ ---

مزید حوالے: البقرہ: ۶، ۱۱۹، ۲۱۳- المائدہ: ۲۱، الانعام: ۱۹، ۹۲- الاعراف: ۱، التوبہ: ۱۲۲، یونس: ۲، ابراہیم: ۲۳، النحل: ۲۰

بنی اسرائیل: ۱۰۵، الکہف: ۲، ۳- مریم: ۹۸، الحج: ۳۹، الفرقان: ۸، الشعراء: ۲۱۳، القصص: ۲۱، نس: ۱۰، ۱۱

المدثر: ۱، ۲- الکافرون: ۱، ۶ نیز دیکھئے: بشارت

## توبہ

۱۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس (عیش و نشاط) میں تھے اس سے ان کو نکلا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ (بہشت بریں سے) چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش (مقرر کر دیا گیا) ہے ۵

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے (اور معافی مانگی) تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بیشک وہ معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۳۶-۳۷﴾ ---

۲۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں (کسی غرض فاسد سے) چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم نے ان لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ۵

ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور (احکام الہی کو) صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا (اور) رحم والا ہوں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۵۹-۱۶۰﴾ ---

۳۔ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۲۲﴾ ---

۱- فَازْهَبَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

۲- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۗ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ ۗ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

۳- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

۴- إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَىٰ اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّرُوءَ بِحِبَالٍ ۗ لَئِذَا لَمْ يَبْتَئِنُوا مِنَ اللَّهِ لِيُنزِلْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ يَلْعَنُوا لَهُمْ لَعْنَةً كَلِيمًا ۝

وَكَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّيْءَ ۗ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ وَالَّذِينَ يَبُوءُونَ وَهُمْ كَظَّارٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

۳۔ خدا انہیں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے ۵ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو (ساری عمر) برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی (توبہ قبول ہوتی ہے)

جو کفر کی حالت میں مرے ایسے لوگوں کیلئے ہم نے عذاب الیم تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۸﴾ ---

۵۔ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکو کار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- سورة المائدة آیت ۳۹ ---

۶۔ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو (ان سے) سلام علیکم کہا کرو خدا نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکو کار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- سورة الانعام آیت ۵۴ ---

۷۔ اور جنہوں نے برے کام کئے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد (بخش دے گا کہ وہ) بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- سورة الاعراف آیت ۱۵۳ ---

۸۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات (و خیرات) لیتا ہے اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۵

--- سورة التوبة آیت ۱۰۴ ---

۹۔ پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا۔ پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکو کار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکو کار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور (ان پر) رحمت کرنے والا

۵۔ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۶۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَمَا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۷۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

۸۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

۹۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

۱۰۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

۱۱۔ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَلِكُمْ

ہے

--- سورة النحل آیت ۱۱۹ ---

۱۰۔ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں ۵

--- سورة طہ آیت ۸۲ ---

۱۱۔ پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں

کی معافی مانگو اور (اور) مومن مردوں اور مومن عورتوں کیلئے بھی

اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے ۵

--- سورة محمد آیت ۱۹ ---



۱۲۔ مومنو! خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو باغبنائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ (بلکہ) ان کا نور (ایمان) ان کے آگے اور داہنی طرف (روشنی کرتا ہوا) چل رہا ہوگا اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں

معاف فرما۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورۃ التہیم آیت ۸﴾ ---

۱۳۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے

مغفرت مانگو۔ بیشک وہ معاف کرنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النصر آیت ۳﴾ ---

۱۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ  
أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ  
يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا  
وَاعْفُرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
۱۳۔ قَسَّبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ  
تَوَّابًا ۝

مزید حوالے: البقرہ: ۵۳-۱۲۸-۲۴۹-آل عمران: ۸۹-۹۰-۱۳۳-۱۳۱-النساء: ۲۶-۲۷-۳۱-۱۰۶-۱۳۵-۱۳۶-المائدہ: ۳۳-۴۱

الاعراف: ۱۳۳-الانفال: ۳۳-۳۸-التوبہ: ۳-۵-۱۱-۱۵-۲۷-۴۳-۱۰۲-۱۰۶-۱۳۶-ہود: ۳-۵۲-۶۱-۹۰-۱۱۲

الرعد: ۳-بنی اسرائیل: ۲۵-مریم: ۵۹-۶۰-طہ: ۱۲۳-النور: ۳-۵-۱۰-۳۱-الفرقان: ۷۸-۷۹-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶

## توحید

۱۔ اور (لوگو) تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ اس بڑے مہربان (اور) رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۳﴾ ---

۲۔ خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی (گواہی دیتے ہیں کہ) اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۸﴾ ---

۳۔ اور (یہ) نہ کہو (کہ خدا) تین (ہیں اس اعتقاد سے) باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے خدائی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور خدائی کار ساز کافی ہے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۷۱﴾ ---

۴۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بیشک کافر ہیں۔ (ان سے) کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدائی کی بادشاہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۱۷﴾ ---

۱- وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

۲- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۳- وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۖ إِنَّمَا هُوَ خَدَايَاكُمْ ۖ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ

سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَكْدٌ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

۴- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ

الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ وَلِلَّهِ

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۵- أَيْدِيكُمْ لِتُشْهَدُوا ۖ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ الْخَرَىٰ ۖ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۖ

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝

۶- وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

۵۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں (اے محمد) کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ۵

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۹﴾ ---

۶۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو شریک خدا ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی

نے پیدا کیا اور بے سمجھے (جھوٹ بہتان) اس کیلئے بیٹے اور

بیٹیاں بنا کھڑی کیں وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان

کرتے ہیں پاک ہے اور (اس کی شان) (ان سے) بلند ہے ۵

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۰۰﴾ ---

۷۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے ۵

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۳۱﴾ ---

۸۔ بھلا کئی جدا جدا آقا جیسے یا (ایک) خدائے یکتا وغالب؟ ۵ جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں خدانے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی (سن رکھو کہ) خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۵

--- ﴿سورۃ یوسف آیت ۲۰، ۲۹﴾ ---

۹۔ اور خدانے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ معبود ہی ایک ہے تو مجھی سے ڈرتے رہو ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۵۱﴾ ---

۱۰۔ اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملائیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۲﴾ ---

۱۱۔ اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ (ایسا کرنے سے) ملامت زدہ اور (درگاہ خدا سے) راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دئے

7- اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ  
وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا امْرُؤًا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ  
وَاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

8- اَرْبَابٌ مُّتَّفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝  
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمِيْتُمْ بِهَا اَنْتُمْ وَ  
اَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۝ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ  
اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۝ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ  
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

9- وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهِنْدِ اثْنَيْنِ ۝ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ  
فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ ۝

10- لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ الْهٰٓءَا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَدْمُومًا مَّخَذُوْلًا ۝

11- وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ الْهٰٓءَا اٰخَرَ فَتَلْفُ فِيْ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُوْرًا ۝

12- قُلْ لَوْ كٰنَ مَعَهُ اِلٰهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا لَابَسَغُوْا اِلَىٰ  
ذِي الْعَرْشِ سَيْلًا ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ  
عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝

جاؤ گے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۹﴾ ---

۱۲۔ کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور (خدائے) مالک عرش کی طرف (لڑنے بھڑنے کیلئے) رستہ نکالتے ۵

وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے (اس کا رتبہ)

بہت عالی ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۳، ۳۴﴾ ---

۱۳۔ اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱۱۱﴾ ---

۱۴۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ (البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہئے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے ۵

--- ﴿سورة الکہف آیت ۱۱۰﴾ ---

۱۵۔ (وہ) معبود (برحق) ہے (کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے (سب) نام اچھے ہیں ۵

--- ﴿سورة طہ آیت ۸﴾ ---

۱۶۔ اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدائے مالک عرش ان سے پاک ہے ۵

۱۷۔ خدانے نہ تو کسی کو (اپنا) بیٹا بنایا ہے اور نہ اسکے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا

۱۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْضُدْ وَكَلَّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِئَاتٌ مِّنَ الدِّينِ وَكَبِيرَةٌ تَكْبِيرًا ۝

۱۔ قُلِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنبَاءُ إِلَهكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَدْعُو إِلَهًا مَّسْرُومًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

۱۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۝  
۱۔ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۗ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

۱۔ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّ مَا كَانَ لَكُمْ مَعَهُ مِنَ الْوَالِدِ اَلَّذِى يَخْتَلِفُ اِلَيْهَا خَلْقٌ وَّلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

۱۔ وَاَتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهَا اِلٰهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يَخْلُقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ (خدا کے بارے میں) بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے ۵

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۹۱﴾ ---

۱۸۔ اور (لوگوں نے) اس کے سوا اور معبود بنائے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ (مر کر) اٹھ کھڑے ہونا ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۳﴾ ---

۱۹۔ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور (کس نے) تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا۔ (ہم نے) پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں ۰

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لئے پہاڑ بنائے (اور) کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی (یہ سب کچھ خدا نے بنایا) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ ان میں سے اکثر دانش نہیں رکھتے۔ ۰

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اس کی) تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون (تم کو زمین میں اگلوں کا) جانشین بناتا ہے (یہ سب کچھ خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں مگر) تم بہت کم غور کرتے ہو بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور (کون) ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے (یہ سب کچھ خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا (کی شان) اس سے بلند ہے ۰

بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا۔ پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے اور (کون) تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے (یہ سب کچھ خدا کرتا ہے) تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز

19- اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ مَهْجَبٍۭۭۭ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا شَجْرَهَا ؕ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُوْنَ ؕ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَافَهَا اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَآسِي وَّجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَاہُ وَاِيْتِيْفُ الشُّوْءِ وَّيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ اَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَّمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ تَعْلٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ؕ اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَّمَنْ يَزِفُّكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَآئِذَا بَرَأْتُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۲۰ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ تَعْلٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ؕ اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَّمَنْ يَزِفُّكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَآئِذَا بَرَأْتُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۲۰ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ تَعْلٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ؕ اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَّمَنْ يَزِفُّكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاَلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَآئِذَا بَرَأْتُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۲۰

نہیں) کہہ دو کہ (مشرک) اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو ۰  
 --- ﴿سورۃ النمل آیت ۶۰﴾ ---

۲۰۔ اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود (سمجھ کر) نہ پکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی ذات (پاک) کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے ۰  
 --- ﴿سورۃ القصص آیت ۸۸﴾ ---

۲۱۔ کہو کہ وہ (ذات پاک جس کا نام اللہ ہے) ایک ہے ۰  
 (وہ) معبود برحق بے نیاز ہے۔ ۰  
 نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ۰

--- ﴿سورة الاخلاص آیت ۳ تا ۱﴾ ---

## تورات

۱۔ اس نے (اے محمد) تم پر بھی کتاب نازل کی جو پہلی (اسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی ○

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۳﴾ ---

۲۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہیں کے قوموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور انکو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلی (کتاب) ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے ○

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۴۶﴾ ---

۳۔ کہو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل

وَلَمْ يَكُن لَّهُ لَفَوْا أَحَدًا



۱۔ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَفَقِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ ۚ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ جَعَلُونَهُ قُرْآنًا يَتَّبِعُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ لَمَّا ذَرَهُمْ فِي

ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۶۸﴾ ---

۴۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا

مزید حوالے: البقرہ: ۲۲-۱۱۶-آل عمران: ۶-النساء: ۴۸-۸۷-۱۱۶-۱۱۷-المائدہ: ۴۲-۴۳-۴۶-الانعام: ۲۲-۲۳-۵۶-۸۰-۱۰۱-۱۰۲

۱۰۷-۱۰۸-الاعراف: ۱۳۸-۱۳۹-التوبہ: ۳۰-۱۲۹-یونس: ۱۸-۶۸-یوسف: ۳۰-الرعد: ۱۶-۳۰-النمل: ۲۲-۵۷-۷۳-۷۴

بنی اسرائیل: ۲۳-الکہف: ۱۵-مریم: ۳۵-۳۶-۸۸-۹۳-طہ: ۱۳-۹۸-الانبیاء: ۲۳-۲۶-۲۹-۱۰۸

الحج: ۳۱-۳۳-الفرقان: ۲-۶۸-النمل: ۲۶-۶۱-۶۳-القصص: ۶۸-۷۰-۷۲-الروم: ۳۰-فاطر: ۳-یس: ۲۳-۷۳-الصافات: ۳-۱۵۸

۱۶۰-ص: ۶۵-۶۶-الزمر: ۳-۶-۳۸-المومن: ۳-۱۲-۱۶-۲۲-۶۵-حم السجدہ: ۶-۹-الدخان: ۸-ق: ۲۶-الذاریات: ۵۱

الحشر: ۲۳-۲۴-التغابن: ۱۳-۱-الجن: ۲-۳-۱۸-۲۰-المزمل: ۹

نیز دیکھیے: رد شمیت رد شرک

تھا؟ جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق (پر نقل) کر رکھا ہے۔ ان (کے کچھ حصے) کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو (اس کتاب کو) خدا ہی نے (نازل کیا تھا) پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں ۵

﴿سورة الانعام آیت ۹۱﴾

۵۔ محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے) جھکے ہوئے سر سجدہ ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ (کثرت) سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں (وہ) گویا ایک کھیتی ہیں جس نے (پہلے زمین سے) اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر

خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝

۵- فَحَسْبُ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزِعٍ أُخْرِجَ شَطَنُهَا فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝



موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلانے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے ۵

﴿سورة الفتح آیت ۲۹﴾



## توکل

۱۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا۔ مگر خدا ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۱۲﴾ ---

۲۔ اور جب (کسی کام) کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو بیشک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۵۹﴾ ---

۳۔ (جب) ان سے لوگوں نے آکر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے (مقابلے کے) لئے (لشکر کثیر) جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۷۳﴾ ---

۴۔ اور خدا ہی کارساز کافی ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۸۱﴾ ---

۵۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲﴾ ---

۶۔ اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۳۹﴾ ---

۷۔ اور اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل

۱۔ اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ اَنْ تَفْشَلُوْا وَاللّٰهُ وَلِيُّهَا  
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۵

۲۔ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۵

۳۔ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَبِعَمَلِ  
الْوَكِيْلِ ۵

۴۔ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۵

۵۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا  
تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ اٰيَةٌ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۵

۶۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۵

۷۔ وَاِنْ جَمَعُوْا لِلسَلْمِ فَاَجْمَعْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ  
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۵

۸۔ وَيَلِيْهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْيَدِيْهِ يَجْعَلُ الْاَمْرَ كَلِمًا  
فَاعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۵

۹۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَيَحْمِلُ عَمَلَكُمْ وَكَفَى بِهٖ

ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے ۵

۸۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ۵

--- ﴿سورة ہود آیت ۱۲۳﴾ ---

۹۔ اور اس (خدا کے) زندہ پر بھروسہ رکھو جو (کبھی) نہیں مرے

گا اور اس کی تعریف کے ساتھ شیعہ کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں



کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے ۵

﴿سورة الفرقان آیت ۵۸﴾

۱۰۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کا سازگاری ہے ۵

﴿سورة الاحزاب آیت ۲۸﴾

۱۱۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف (سے ہوگا) یہی خدا میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ

رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ۵

﴿سورة الشوری آیت ۱۰﴾

۱۲۔ اور جو خدا پر بھروسا کرے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا ۵

﴿سورة الطلاق آیت ۳﴾

يَذُنُّوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا

۱۰- وَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَذَعْرَ اٰذِنَهُمْ وَتَوَكَّلْ

عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝

۱۱- وَمَا اٰخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحٰكِمَةُ اِلَى اللّٰهِ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللّٰهُ اٰنِيبٌ ۝

۱۲- وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝



۱- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوٰكِ الْغٰمِسِ اِلَى عَسَقِ الْاَيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ الْاَيْلِ فَتَجَدَّدْ بِهِ نَافِلًا

لَكَ ۝ عَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

۲- يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْقَلِيلُ ۝ قُمْ اِلَى الْاَيْلِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِصْفَةَ اَوْتَقْصُ

مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ اُوْرِدْ عَلَيْهِ وَرَبَّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝ اِنَّ

شب خیزی (تہارے لئے) (سبب) زیادت قریب ہے کہ خدا

تم کو مقام محمود میں داخل کرے ۵

﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۷۸﴾

۲۔ اے (محمد!) جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو ۵

رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات ۵

یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم ۵

## تہجد

۱۔ (اے محمد) سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک

(ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا کی) نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا

کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور (ملائکہ) ہے ۵

اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو (اور تہجد کی نماز پڑھا کرو یہ

مزید حوالے: توبکل: النساء: ۱۸۔ المائدہ: ۱۱۔ الانفال: ۲۔ التوبہ: ۵۱۔ ۱۳۵۔ یونس: ۷۱۔ الرعد: ۳۰۔ ابراہیم: ۱۱۔ النحل: ۳۲۔ الشعراء: ۲۱

النحل: ۷۹۔ الاحزاب: ۳۔ الزمر: ۳۸۔ الشوری: ۳۶۔ المجادلہ: ۱۰۔ النہجین: ۱۳۔ الملک: ۲۹۔ المرسل: ۹

یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ۵

ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے ۵

کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا (نفس بھیگی کو) سخت پامال کرتا

ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے ۵

دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے مشغل ہوتے ہیں ۵

تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر

اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ ۵

— ﴿سورۃ المزمل آیت ۸۳﴾ —

۳۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے

لوگ (کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور (کبھی) آدھی رات

اور (کبھی) تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور خدا تو رات اور دن

کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو

اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے (اتنا)

قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے

ہیں اور بعض خدا کے فضل (یعنی معاش) کی تلاش میں ملک میں

سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو جتنا آسانی

سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے

سَلِّقْ عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

وَطَأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ۝

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَكَبَّكُلِّ إِلَيْهِ تَبَيُّلًا ۝

۳- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْلَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَبِضْفَةِ

وَتُنُكَةٍ وَطَافِقَةٍ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۝ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ ۝ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا

مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۝ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۝

وَأخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۝

وَأخْرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝ فَاقْرَءُوا مَا تيسَّرَ

مِنْهُ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا ۝ وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۝ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝



رہو اور خدا کو نیک (اور خلوص نیت سے) قرض دیتے رہو اور جو

عمل نیک تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اسکو خدا کے ہاں بہتر

اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے اور خدا سے بخشش مانگتے رہو بیشک

خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

— ﴿سورۃ المزمل آیت ۲۰﴾ —



۱- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ  
 الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ الرَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا  
 صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا  
 يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  
 وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

تیمم

۱۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے  
 ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل  
 سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم)  
 کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ  
 تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم  
 شکر کرو ۝

﴿سورۃ المائدہ آیت ۶﴾

## ثواب

- ۱۔ اور جو شخص دنیا میں (اپنے اعمال) کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں طالبِ ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب (بہت اچھا) صلہ دیں گے ۵
- ۲۔ جو شخص دنیا (میں عملوں) کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت (دونوں) کیلئے اجر (موجود) ہیں اور خدا سنتا دیکھتا ہے ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۱۲۳﴾

- ۳۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (رونق و) زینت ہیں۔ اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں ۵

﴿سورۃ الکہف آیت ۳۶﴾

- ۴۔ تو (ایک روز) قارون (بڑی) آرائش (اور ٹھاٹھ) سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے

﴿سورۃ القصص آیت ۸۰﴾

- ۱۔ وَمَنْ يُؤِدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُؤِدُّ ثَوَابَ  
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجْزِي الشُّكْرِينَ ۵
- ۲۔ مَنْ كَانَ يُؤِدُّ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ۵ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۵
- ۳۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ  
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۵
- ۴۔ فَذَرَيْهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۵ قَالَ الَّذِينَ يُؤِدُّونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلْبِثُ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۵ إِنَّكَ  
لَدُوَّ حَقِّ عَظِيمٍ ۵
- وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُنذِرَكُمْ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ  
أَمَنَ وَكَمَلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۵

- کہنے لگے کہ جیسا (مال و متاع) قارون کو ملا ہے کاش (ایسا ہی) ہمیں بھی ملے۔ وہ تو بڑا ہی صاحبِ نصیب ہے ۵
- اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کیلئے (جو) ثوابِ خدا (کے ہاں تیار ہے وہ) کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا ۵

## جانور

۱۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں (مگر) یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانا ہے ۰

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۳﴾ ---

۲۔ اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لئے چار پائے جانور (جو چرنے والے ہیں) حلال کر دیئے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام (حج) میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے ۰

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۱﴾ ---

۳۔ خدا نے تو بجز کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے ۰

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۱۰۳﴾ ---

۴۔ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور

۱- ذُیْنٍ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِیۡمِ ۝

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذِقُوا بِالْعُقُوبَةِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ ۗ إِلَّا مَا يَبْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

۳- مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۗ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

۴- وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ ۖ حَرَّمَ جَزْءٌ ۚ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ ۖ بَرِّعِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۗ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ ۖ لَذِكُورِنَا وَمُحَرَّمَ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۗ وَإِنْ يَكُنْ مَآئِنَةً

(بعض) چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا

گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر (ذبح کرتے وقت)

خدا کا نام نہیں لیتے۔ سب خدا پر جھوٹ ہے وہ عنقریب ان کو ان

کے جھوٹ کا بدلہ دیگا ۰

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ

خاص ہمارے مردوں کیلئے ہے اور ہماری عورتوں کو (اس

کا کھانا) حرام ہے۔ اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں

شریک ہیں (یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں) عنقریب

خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دیگا۔ بیشک (وہ) حکمت والا خبردار ہے ۵

﴿سورة الانعام آیت ۱۳۹﴾

۵۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سو اس کے جوان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم توجیح کہنے والے ہیں ۵

﴿سورة الانعام آیت ۱۳۶﴾

۶۔ اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے لئے جڑ اول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں (جنگل سے) لاتے ہو اور جب صبح کو (جنگل) چرانے لیجاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے ۵

اور (دور دراز) شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا (اور) مہربان ہے ۵ اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لئے رونق و زینت (بھی ہیں) اور وہ (اور چیزیں بھی) پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں ۵

﴿سورة النحل آیت ۸۵﴾

۵۔ وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۵

۶۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَّحِيمٌ ۖ وَالْحَيْلَ وَالْأَعْنَاقَ وَالْحَمِيرَ لِيَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَسَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ

۷۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَدَةً ۖ نَسُواكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۖ

۸۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَيْمَاتِهِ الْأَنْعَامِ ۖ فَاَلْهَمُّ لَهِ وَالْحَدِّ ۖ

۷۔ اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی (مقام) عبرت (وغور ہے) کہ ان کے پیٹوں میں جو گو برا اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کیلئے خوشگوار ہے ۵

﴿سورة النحل آیت ۲۲﴾

۸۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی کا طریق مقررہ کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے ان کو دیئے ہیں (ان کے ذبح کرنے کے وقت) ان پر خدا کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ۔

﴿سورة الحج آیت ۳۳﴾

۹۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائرِ خدا مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لئے فائدے ہیں تو (قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لوجب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو ۵

﴿سورۃ الحج آیت ۳۶﴾

۱۰۔ اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے مل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

﴿سورۃ النور آیت ۳۵﴾

۱۱۔ اور جب انکے بارے میں (عذاب کا) وعدہ پوا ہوگا تو ہم انکے لئے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دیگا۔ اس لئے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے ۵

﴿سورۃ النمل آیت ۸۲﴾

۱۲۔ انسانوں اور جانوروں اور چار پایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں ۵

﴿سورۃ قاطر آیت ۲۸﴾

۱۳۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں

قَلَّةَ أَسْلَمُوا ۝

۹- وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهِنَّ شُعَائِرَ لِلَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۚ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمُعْتَصِمَ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۱۰- وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۱۱- وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝

۱۲- وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صَبًا سَوِيًّا أُنْعَامًا ۚ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۚ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝



سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کیلئے چار پائے پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں ۵

اور ان کو انکے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں ۵

اور ان میں ان کے لئے (اور) فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ ۵

--- ﴿سورۃ سجن آیت ۷۳ تا ۷۷﴾ ---

## جبر و اختیار

۱۔ وہی تو ہے جو (ماں کے) پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۵

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں (اور) وہ اصل کتاب ہیں اور بعض تشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقلمند ہی قبول کرتے ہیں ۵

اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرماؤ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ۵

— ﴿سورۃ آل عمران آیت ۸۲۵﴾ —

۲۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لئے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں (پیشک ان کو نہیں کھانا چاہئے) مگر اس صورت میں کہ ان کے (کھانے کے) لئے

۱۔ هُوَ الَّذِي يَصَوِّرْكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۵

۲۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۵ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِنْمَاءِ وَبِاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنْمَاءَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۵ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ

ناچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو (خدا کی مقرر کی ہوئی) حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ۵

اور ظاہری اور پوشیدہ (ہر طرح کا) گناہ ترک کر دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کئے کی سزا پائیں گے ۵

— ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۲۰﴾ —

۳۔ تم لوگوں نے ان (کفار) کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل



کیا اور (اے محمد) جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے (احسانوں) سے اچھی طرح آزما لے بیشک خدا سنتا جانتا ہے ۵

﴿سورة الانفال آیت ۷﴾

۴۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے ۵

﴿سورة ابراہیم آیت ۴﴾

۵۔ اگر تم ان (کفار) کی ہدایت کیلئے لپچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا ۵

﴿سورة النحل آیت ۳۷﴾

۶۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا (کی شان) میں علم (و دانش) کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں ۵

رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيَلْبِغِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ  
حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيَتَّبِعُونَ لَهْمًا  
فَضْلًا ۚ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

إِنْ تَحْرِضْ عَلَىٰ هَدْيِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ  
يُضِلُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ فِي اللَّهِ بَعْضَ عِلْمِهِ وَبِتَوْبِهِ  
كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ ۚ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَىٰ اللَّهِ  
فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝



جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا  
تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے

۵

﴿سورة الحج آیت ۴۳﴾

مزید حوالے: البقرہ: ۲۲۱-۲۵۳- الانعام: ۱۱۴- الرعد: ۳۱- النحل: ۱۱۶-۱۱۷- الحج: ۸-۱۰- لقمان: ۲۰-۲۲- فاطر: ۸- نوس: ۸-۹

الشوری: ۸-۱۰-۱۶

نیز دیکھئے: تقدیر

## جرم و سزا

۱۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا اس لئے کہ مکاریاں کرتے تھے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۳﴾ ---

۲۔ اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحبِ رحمت و وسیع ہے مگر اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے نہیں ملے گا ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۳۷﴾ ---

۳۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افتراء کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گنہگار قلاح نہیں پائیں گے ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۷۱﴾ ---

۴۔ اور اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ۵

ان کے کرتے گندھک کے ہونگے اور ان کے مونہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی ۵

--- ﴿سورة ابراہیم آیت ۵۰﴾ ---

۵۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے (بطور) مہمان جمع کریں گے ۵

اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیا سے ہانک لے جائیں گے ۵

--- ﴿سورة مريم آیت ۸۶﴾ ---

1- سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۵

2- فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِيدُ بِأْسَاءِ عِبَادِهِ الْقَوْمَ الْجَارِمِينَ ۵

3- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۵

4- وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۵  
سَرَابِطُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۵

5- يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۵ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا ۵

6- إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۵

7- وَأَلْوَتْرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۵

۶۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جنے گا ۵

--- ﴿سورة طہ آیت ۷۲﴾ ---

۷۔ اور (تم تعجب کرو) جب دیکھو کہ گنہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہونگے (اور کہیں گے کہ) اے ہمارے

پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو (دنیا میں) واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں بیشک ہم یقین کرنے والے ہیں ۵

--- ﴿سورة السجدة آیت ۱۲﴾ ---

گنہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لئے جائیں گے ۵

--- ﴿سورة الرمن آیت ۲۱﴾ ---

۹۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سچین میں ہیں ۵  
اور تم کیا جانتے ہو کہ سچین کیا چیز ہے ۵

ایک دفتر ہے لکھا ہوا ۵

--- ﴿سورة لطفین آیت ۹۷﴾ ---

### جزاء

۱۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے (نعمت کے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائیگا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہمشکل میوے دیئے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۵﴾ ---

۲۔ جو کوئی (خدا کے حضور) نیکی لے کر آئیگا اس کو ویسی دس نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی

جزاء و سزا: مزید حوالے: الکہف: ۵۳۔ نلس: ۵۹۔ العارج: ۱۱۱۔ الانفطار: ۱۳

8۔ يَعْرِفُ الْعَجْرُمُونَ سِيْبَهُمْ فَيُوْخَذُ بِالتَّوَاصِي  
وَالْأَقْدَامِ ۝

9۔ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُتُوْرَانِ لَفِي سِجِّينٍ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝  
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝



1۔ وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا  
قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِهَا مُتَسَاوِينَ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا  
فِيهَا أَنْوَاعٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

2۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۝ وَمَنْ جَاءَ  
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا وِشْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

3۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۶۰﴾ ---

۳۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے (نیک) عمل کرنے والوں کا (یہ) خوب بدل ہے ۵

جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الحکبوت آیت ۵۹﴾ ---

۴۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں (ہمارا مقرب وہ ہے) جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہونگے ۵  
 جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہر ادیس وہ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے ۵

﴿سورۃ سباء آیت ۲۸-۳۷﴾

عَرَفًا نَحْبِرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَتَحَلَّىٰ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ أَتَيْنَا مُلْعَجِينَ ۝ وَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ۝



۱۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝



## جزیہ

۱۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روزِ آخرت پر (یقین) رکھتے ہیں (اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں ۵

﴿سورۃ التوبہ آیت ۲۹﴾

۱۱۷: مزید حوالے: التمل: ۸۹، ۹۰۔ العنکبوت: ۵۳-۵۴۔ السجده: ۱۹-۲۱۔ الشوری: ۲۲-۳۰۔

نیز دیکھئے: الحدید: ۱۱-۱۸-۱۹۔ التائبین: ۱۷

گناہ-۲۱

۱۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنی قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا (یہ) کیا (بات ہے کہ) تم کتاب (خدا) کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کئے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۵۸﴾

۲۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے (یعنی مکے سے) وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور (دین سے گمراہ کرنے کا) فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو۔ کافروں کی یہی سزا ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۹۱﴾

۳۔ اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ (یا تو)

۱- ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ لِتُبْهَرُوا عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَةِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ فَذُوقُوا وَّهُمْ هُمُ الْمُحَرَّمُونَ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفْتَوْا مُنُونٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۲  
 ۲- وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْقِتْلَةُ أَسَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِن قُتِلُوا فَمَنْ قَتَلَهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَمَا قُتِلُوا ۝۳  
 ۳- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُسْلِمَهُمُ لَنَخَرَّجَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهَلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝۴ وَكُنُسِيكَمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۝۵ ذَلِكَ لِيُنْزِلَ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ۝۶  
 ۴- أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۝۷ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے ۵

اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے یہ اس شخص کیلئے ہے جو (قیامت کے روز) میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے ۵

﴿سورة ابراہیم آیت ۱۳﴾

۴۔ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت

ہے (کہ وہ بھی لڑیں) کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا (ان کی مدد کرے گا وہ) یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے ۵

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے (انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا) ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے) صومعے اور (عیسائیوں کے) گرجے اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے بیشک خدا توانا (اور) غالب ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۳۹﴾ ---

۵۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا (کے عذاب) سے بچالیں گے مگر خدا نے ان کو وہاں سے آلیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے تو اسے (بصیرت کی) آنکھیں رکھنے والو عبرت پکڑو ۵

اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو

نَصْرِهِمْ لَقَدْ بَدَّ إِلَيْنَا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَكَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَكَيُنصَرْنَ إِلَيْهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

5- هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَتَاعٌ كَافِرٌ ۚ فَهُوَ غَوِيٌّ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ وَكَوَلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَكَيُنصَرْنَ إِلَيْهِ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لئے آگ کا عذاب (تیار) ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحشر آیت ۲۵﴾ ---

۶۔ اور ان مفلسان تارک الوطن کے لئے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج (اور جدا) کر دیئے گئے ہیں (اور) خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے

مددگار ہیں یہی لوگ سچے (ایماندار) ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الحشر آیت ۸﴾ ---

## جمعہ

۱۔ مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو خدا کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خریدو) فروخت ترک کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ۵

پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تا کہ نجات پاؤ ۵

— سورة الجمعة آیت ۱۰۹ —

## جن

۱۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان (سیرت) انسانوں اور جنوں کو ہر چیز کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکا دینے کے لئے ایک دوسرے کے دل میں ملع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ

۵

— سورة الانعام آیت ۱۱۲ —

۲۔ اور جس دن وہ سب (جن و انس) کو جمع کریگا (اور فرمایگا کہ) اے گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝



۱۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَكُلُّ شَاءِ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝  
۲۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لِيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ قَدِ اسْتَكْبَرُوا مِنَّا مِنَ الْإِنْسِ ۚ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْمِعْ بَعْضَنَا بَعْضًا ۚ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثَلُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

(فائدے) حاصل کئے تو جو انسانوں میں ان کے دوستدار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور (آخر) اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا۔ خدا فرمائے گا (اب) تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے ہمیشہ اس میں (جلتے) رہو گے مگر جو خدا چاہے بیشک تمہارا پروردگار وانا (اور) خبردار ہے ۵

— سورة الانعام آیت ۱۲۸ —

۳۔ اور ہم نے انسان کو کھنکھاتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا

کیا ہے ۵

اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا

کیا تھا ۵

--- ﴿سورۃ الحجر آیت ۲۶﴾ ---

۴۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن

جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لائیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے

مددگار ہوں ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۸﴾ ---

۵۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اسکے کہ

آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا

ہوں اور مجھے اس پر قدرت (بھی) حاصل ہے (اور) امانتدار

(بھی) ہوں ۵

--- ﴿سورۃ النمل آیت ۳۹﴾ ---

۶۔ اور ہوا کو (ہم نے) سلیمان کا تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی

منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی

اور ان کے لئے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے

ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے اٹکے آگے کام کرتے

تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم

۳۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ  
مَسْنُونٍ ۝ وَالْجِبَّانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ  
الشَّمُورِ ۝

۴۔ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِثَبَلٍ  
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِثَبَلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  
ظَهِيرًا ۝

۵۔ قَالَ عَفِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ  
مَقَامِكَ ۝ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝

۶۔ وَكُلَّيْنِ الرَّيْحِ غُدُوًّا شَهْرًا وَرَوْحَهَا شَهْرًا ۝ وَأَسَلْنَا لَهُ  
عَيْنَ الْقِطْرِ ۝ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ  
رَبِّهِ ۝ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ آمُرِنَا نُنزِقُ لَهُ مِنْ عَذَابِ  
السَّعِيرِ ۝ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَكِبَائِلٍ  
وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۝ وَإِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۝  
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ  
مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتِهِ ۝

(جہنم کی) آگ کا مزہ چکھائیں گے ۵

وہ جو چاہتے یہ ان کے لئے بناتے یعنی قلعے اور محسے اور (بڑے

بڑے) لگن جیسے تالاب اور دیکھیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے

داؤد کی اولاد (میرا) شکر کرو ۵

اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں ۵

پھر جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے

ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو

کھا تا رہا جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا (اور کہنے لگے)



کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے ۰

--- ﴿سورۃ سہا آیت ۱۳۲﴾ ---

۷۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں ۰

--- ﴿سورۃ الذاریات آیت ۵۶﴾ ---

۸۔ اے گروہ جن وانس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں ۰

--- ﴿سورۃ الرحمن آیت ۳۳﴾ ---

## جنت

۱۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے (نعت کے) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہمشکل میوے دیئے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵﴾ ---

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَوْثُوا فِي الْعَذَابِ الْبُهِينِ ۝

۷- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

۸- يَعْبُدُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝

۱- وَيَسِّرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزَارٌ مُطَهَّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۲- وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

۳- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝

۲۔ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو (خدا سے) ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے ۰

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۳۳﴾ ---

۳۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ (بے آزمائش) بہشت میں جا داخل ہوں گے (حالانکہ) ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں اور (یہ بھی مقصود ہے کہ) وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے ۰

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۳۲﴾ ---

۴۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لئے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہونگے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۳۰﴾ ---

۵۔ جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ۵

(ان سے کہا جائیگا کہ) ان میں سلامتی (اور خاطر جمع) سے داخل ہو جاؤ ۵

اور انکے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال (کر صاف کر) دیں گے (گویا) بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ۵

نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ۵

--- ﴿سورة الحجر آیت ۲۸﴾ ---

۶۔ (اور) جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ۵

ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے (مخلوں کے) نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان کو وہاں سونے کے ٹنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے (اور) تختوں پر بچھے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ (کیا)

۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا نَقْفَعُ لَهُمْ اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَخْرُجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۝ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ۝

۲۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَعَيُّوْنَ ۝ اَدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ ۝ لَا يَسْتَهْمُ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ فِيْهَا بِمُعْتَرَجِيْنَ ۝

۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَمْكُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خَضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِنِيْنَ فِيْهَا عَلٰى الْاَرَآئِكِ ۝ نِعْمَ النَّوَابِٓ ۝ وَحَسَنَتْ مَرْتَفَقًا ۝

۴۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتٌ الْفُرْدُوْسُ نَزْلًا ۝

۵۔ وَلَيَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّتٍ ۝ فَيَآئِ الْاٰءِ رَبِّنَا

خوب بدلہ اور (کیا) خوب آرامگاہ ہے ۵

--- ﴿سورة الكهف آیت ۳۱﴾ ---

۷۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کے لئے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے ۵

--- ﴿سورة الكهف آیت ۱۰﴾ ---

۸۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو باغ ہیں ۵

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ۵

ان دونوں میں بہت سی شاخیں (یعنی قسم قسم کے میوؤں کے درخت ہیں) ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
ان میں دو چشمے بدرہے ہیں ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
ان میں سب میوے دودو قسم کے ہیں ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
(اہل جنت) ایسے بچھونوں پر جکے استراٹلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے

ہونگے اور دونوں باغوں کے میوے قریب (جھک رہے) ہیں ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی

انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
گویا وہ یا قوت اور مرجان ہیں ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
دونوں خوب گہرے سبز ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○  
ان میں دو چشمے اہل رہے ہیں ○

تُكذِّبِينَ ۚ ذَوَاتَا أَفْنَابٍ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۝  
فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۝  
فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۝  
تُكذِّبِينَ ۝ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۗ  
وَجَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۝  
فِيهِنَّ قِصْرٌ الطَّرْفُ لَمْ يَطْفِئْتُهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا  
جَانٌّ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۖ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ  
وَالْمَرْجَانُ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۖ هَلْ جَزَاءُ  
الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۝  
وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۖ  
مُدْهَامَتَيْنِ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۖ فِيهِمَا  
عَيْنَانِ نَضَّاجَتَيْنِ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۖ فِيهِمَا  
فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۖ  
فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۖ  
حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ ۖ فَيَأْتِي آلَاءَهُنَّ مُكَذِّبِينَ ۖ

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○

ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○

ان میں نیک سیرت (اور) خوبصورت عورتیں ہیں ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○

(وہ) حوریں (ہیں جو) خیموں میں مستور (ہیں) ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○

ان کو (اہل جنت سے) پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے ○

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○

سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ○  
 تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے ○؟  
 (اے محمد) تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام  
 بڑا بابرکت ہے ○

— ﴿سورۃ الرحمن آیت ۷۸ تا ۸۶﴾ —

۹۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں (ان کا کیا کہنا) وہ آگے ہی  
 بڑھنے والے ہیں ○  
 وہی (خدا کے) مقرب ہیں ○  
 نعمت کے بہشتوں میں ○  
 وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے ○  
 اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ○  
 (لعل و یا قوت وغیرہ سے) جڑے ہوئے تنکوں پر ○  
 آنے سے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ○

نوجوان خدمتگذار جو ہمیشہ (ایک ہی حالت میں) رہیں گے ان  
 کے آس پاس پھریں گے ○  
 یعنی آنکھوں سے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر ○  
 اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی ○  
 اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں ○  
 اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے ○  
 اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ○  
 جیسے (حفاظت سے) تہ کئے ہوئے (آب دار) موتی ○

تَكَذَّبِينَ ۙ لَمْ يَطْمِئِنُّوا ۙ اِنَّ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ۙ  
 فَبِآيِ الْاَعْرَابِ رَبُّكَ تَكَذَّبِينَ ۙ مُتَكَبِّرِينَ عَلٰى رَفْرَفِ  
 خُضْرٍ وَعَبَقْرِى حِسَانٍ ۙ فَبِآيِ الْاَعْرَابِ رَبُّكَ تَكَذَّبِينَ ۙ  
 تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذٰى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۙ

وَالشَّقِيۡنَ ۙ الشَّقِيۡنَ ۙ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوۡنَ ۙ فِى جَنَّتِ  
 النَّعِيۡمِ ۙ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيۡنَ ۙ وَقَلِيۡلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيۡنَ ۙ  
 عَلٰى سُرۡرٍ مَّوْضُوۡنَةٍ ۙ مُتَكَبِّرِيۡنَ عَلَیْهَا مُتَقَبِّلِيۡنَ ۙ  
 يَطۡوِفُ عَلَیْهِمْ وَاِلٰٓئِذَا نَزَعُوۡا مِنْهَا عَلٰٓفًا ۙ وَاَنۡبَاقًا ۙ  
 وَكَاۡبِۡنَ مِّنۡ مَّعِيۡنٍ ۙ لَا يَصۡدَعُوۡنَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُوۡنَ ۙ  
 وَقَاكِبَۡةٍ مِّمَّا يَخۡتَارُوۡنَ ۙ وَمِنْ حَمۡرٍ طَيِّبٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ۙ  
 وَخَوۡرٍ عِيۡنٍ ۙ كَاۡمِثَالِ اللُّوۡلُؤِ الْمَكۡنُوۡنِ ۙ حِزۡاۡءٌ  
 مِّمَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ۙ لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَغۡوًا وَّلَا  
 تَاۡثِيۡمًا ۙ اِلَّا قَلِيۡلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۙ وَاَصۡحٰبُ الْيَمِيۡنِ ۙ  
 مَاۤ اَصۡحٰبُ الْيَمِيۡنِ ۙ فِىۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ ۙ وَطَلۡحٍ  
 مَّنۡضُوۡدٍ ۙ وَظِلِّۡنَ مَمۡدُوۡدٍ ۙ وَمَاۤ اَسۡكُوۡبٍ ۙ وَاَۤ

یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے ○  
 وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ○  
 ہاں ان کا کلام سلام سلام (ہوگا) ○  
 اور داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا (ہی عیش  
 میں) ہیں ○  
 (یعنی) بے خار کی بیر یوں ○  
 اور تہ بتہ کیلوں ○  
 اور لہ لہے لہے سایوں ○  
 اور پانی کے جھرنوں ○

فَاكْفَرَهُ كَثِيرًا ۖ لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ ۖ وَقُرَيْشٍ  
مَرْفُوعَةَ ۖ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ۖ فَبَعَلْنَهُنَّ  
أَبْنَاءَ ۖ عَرَبًا أَثْرَابًا ۖ لَا صَاحِبَ الْيَمِينِ ۖ ثَلَاثَةٌ مِنَ  
الْأَوَّلِينَ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۖ

۱- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۖ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ  
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ  
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۗ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ  
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ۖ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

اور میوہ ہائے کثیرہ (کے باغوں) میں ۰

جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے ۰

اور اونچے اونچے فرشوں میں ۰

ہم نے ان (حوروں) کو پیدا کیا ۰

تو ان کو کنواریاں بنایا ۰

(اور شوہروں کی) پیاریاں اور ہم عمر ۰

(یعنی) داہنے ہاتھ والوں کے لئے ۰

(یہ) بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں ۰

اور بہت سے پچھلوں میں سے ۰

— ﴿سورة الواقعة آیت ۲۰ تا ۳۰﴾ —

## جنگ بندی

گمراہ کرنے کا) فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب

تک وہ تم سے مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کے پاس نہ لڑیں تم بھی

وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو

کافروں کی یہی سزا ہے ۰

اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے ۰

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور

۱۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر

زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۰

اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے

(یعنی مکے سے) وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور (دین سے

مزید حوالے: البقرہ: ۳۵-۸۲- آل عمران: ۱۵-۱۸۵- النساء: ۱۲۳- الاعراف: ۱۹-۲۲-۲۴- التوبہ: ۱۱۱- ہود: ۲۳- مریم: ۶۳-

الفرقان: ۶۳- فاطر: ۳۳- المؤمن: ۴۰- الاحقاف: ۱۳- الحديد: ۲۱ نیز دیکھئے: جہنم

(ملک میں) خدا ہی کا دین ہو جائے اور اگر وہ (فساد سے) باز آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں (کرنی چاہئے) ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۹۰ تا ۱۹۳﴾ ---

۳۔ مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں (صلح کا) عہد ہو یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں تمہارے پاس آجائیں (تو احتراز ضرور نہیں) اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے پھر اگر وہ تم سے (جنگ کرنے سے) کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح (کا پیغام) بھیجیں تو خدا نے تمہارے لئے ان پر (زبردستی کرنے کی) کوئی سبیل مقرر نہیں کی ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۹۰﴾ ---

۳۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۶۱﴾ ---

۴۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو۔ اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو

نیز دیکھئے: جنگی قیدی۔ صلح

الَّذِينَ يَلُوبُوا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْغَنَائِمُ ۚ

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ  
أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا  
قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنْ  
اعْتَرَضْتُمْ لَهُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُواكُمْ وَالْقَوْلُ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ ۚ فَمَا جَعَلَ  
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِبْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ  
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ  
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى  
تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَإِفْسَاطٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  
إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۵

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تا کہ تم پر رحمت کی جائے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۰﴾ ---

## جنگی قیدی

۱۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم (اس بات کے) گواہ ہو ۵

پھر تم وہی ہو کہ اپنی قوت بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا (یہ) کیا (بات ہے) کہ تم کتاب (خدا) کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کئے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں ۵

— (سورۃ البقرہ آیت ۸۵) —

۲۔ پیغمبر کو شایاں نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں کثرت سے خون (نہ) بہا دے تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور خدا غالب حکمت والا ہے ۵

اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب (نازل) ہوتا ۵

۱۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ مِنْ دِيَارِكُمْ لَا تَبْلُغُونَ أَسْرَى نَفْسَهُمْ وَهُمْ يُنَادُونَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَإِنْ يَأْتُواكُمْ بِبَغْيٍ الْكُتُبِ وَتُكْفَرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَسْوَطِ الْعَذَابِ ۵ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ۵

۲۔ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ لَآ أُسْرَى حَتَّى يَبِخُنَ فِي الْأَرْضِ ۵ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۵ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۵ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۵ فَكُلُوا مِنْهَا غَنِيمَتَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۵ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۵ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ مِنَ الْأَسْرَى ۵ إِنَّ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا لِمَوْتِكُمْ

تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ (کہ وہ تمہارے لئے)

حلال طیب (ہے) اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بیشک خدا بخشنے والا

مہربان ہے ۵

اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں (گرفتار) ہیں ان سے کہہ دو

کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو (مال) تم سے

چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ

بھی معاف کر دیگا۔ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

اور اگر یہ لوگ تم سے دعا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دعا

کر چکے ہیں تو اس نے ان کو (تمہارے) قبضے میں کر دیا اور خدا  
 وانا حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۷۶﴾ ---

۳۔ جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک  
 کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو (جو زندہ پکڑے جائیں ان کو)  
 مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اسکے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا  
 چاہئے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ (فریق مقابل) لڑائی  
 (کے) ہتھیار (ہاتھ سے) رکھ دے یہ (حکم یاد رکھو) اور اگر خدا  
 چاہتا تو (اور طرح) ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ  
 تمہاری آزمائش ایک (کو) دوسرے سے (لڑوا کر) کرے اور  
 جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں

کرے گا ۵

--- ﴿سورة محمد آیت ۴﴾ ---



### جوا

۱۔ اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے  
 ہیں کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ  
 فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱۹﴾ ---

خَيْرًا مِّمَّا آخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ  
 فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۳۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا  
 أَخَذْتُمُوهُمْ فَاسْدُقُوا الْوَدَّاعِ ۚ فَإِمَّا مَثًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً  
 حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أوزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ ۗ وَكُوَيْبَشَاءُ اللَّهِ  
 لَا تَنْصَرُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَسْئَلُوا بِعُضْمِ كُمْ يَبْغِضُ ۗ وَالَّذِينَ  
 قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنْ لِيُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝



۱۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ  
 مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ  
 ۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
 وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  
 وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ  
 الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

۲۔ اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے (یہ سب)

ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ  
 نجات پاؤ ۵

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس  
 میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے  
 روک دے تو تم کو (ان کاموں سے) باز رہنا چاہئے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۹۰﴾ ---



## جوانی

۱۔ لوگو! اگر تم کو (مرنے کے بعد) جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا تھا (یعنی ابتدا میں) مٹی سے پھر اس سے نطفہ بنا کر۔ پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر۔ پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر (اپنی خالقیت ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض (قبل از پیری) مر جاتے ہیں اور بعض (شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی) نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ (بہت کچھ) جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں ۵

— ﴿سورۃ الحج آیت ۵﴾ —

۲۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور چالیس برس کو پہنچ

۱۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نَّرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَدَّدٍ ثُمَّ نُضِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّهُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ وَمِنْكُمْ مَّن يَئُودُ إِلَىٰ آرْذَلٍ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَوَضِعْنَا الْإِنسَانَ يَوْمَ الدِّينِ أَحْسَنًا ۖ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَالْأَنبِيَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝



جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے اور میرے لئے میری اولاد میں اصلاح (وتقویٰ) دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں ۵

— ﴿سورۃ الاحقاف آیت ۱۵﴾ —



## جہاد

۱۔ اور (خدا کی راہ) میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لئے تمہارے باپ ابراہیم کا دین (پسند کیا) اسی نے پہلے (یعنی پہلی کتابوں میں) تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی (وہی نام) رکھا ہے۔

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۷۸﴾ ---

۲۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے محنت کرتا ہے۔ (اور) خدا تو سارے جہان سے بے پروا ہے ۰

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۶﴾ ---

۳۔ اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھادیں گے اور خدا تو نیکو کاروں کے ساتھ ہے ۰

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۶۹﴾ ---

۴۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور

۱۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَوْلَا إِلَيْكُمْ اٰرْثِهِمْ هُوَ سِسْكُمْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۰

۳۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ الْمُحْسِنِينَ ۰

۴۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَمْثَلًا ۰

۵۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَنْ الْمَصِيرُ ۰

تمہارے حالات جانچ لیں ۰

--- ﴿سورۃ محمد آیت ۳۱﴾ ---

۵۔ اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ۰

--- ﴿سورۃ التہریم آیت ۹﴾ ---

## جھاڑ پھونک

۱۔ دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے ۰

اور لوگ کہنے لگیں (اس وقت) کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے ۰

اور اس (جاں بلب) نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے ۰

اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے ۰

اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے ۰

--- ﴿سورۃ القیمہ آیت ۲۶ تا ۳۰﴾ ---

۲۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ۰

ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ۰

اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے ۰

اور گنڈوں پر (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے والیوں کی برائی سے ۰

اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے ۰

--- ﴿سورۃ الفلق آیت ۵ تا ۷﴾ ---

۱- كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ ۖ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۖ وَظَنَّ أَنَّهُ  
الْفِرَاقِيُّ ۖ وَالْتَفَتِ النَّاقُ بِالنَّاقِ ۖ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِيُّ ۖ  
۲- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۖ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۖ وَ  
مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۖ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ  
فِي الْعُقَدِ ۖ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۖ



نیز دیکھیے: سحر

## جہالت

۱۔ (اے محمد) غمنا اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں

سے کنارہ کر لو ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۱۹۹﴾ ---

۲۔ خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو

ناشائستہ افعال ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ

نادان نہ بنو ۵

--- ﴿سورة ہود آیت ۴۶﴾ ---

۳۔ پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا۔ پھر اس کے بعد توبہ

کی اور نیکو کار ہو گئے تو تمہارا پروردگار (ان کو) توبہ کرنے اور نیکو

کار ہو جانے کے بعد بخشنے والا (اور ان پر) رحمت کرنے والا

ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۱۹﴾ ---

۴۔ اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں

اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو سلام

کہتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۶۳﴾ ---

۵۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں

۱۔ خذ الْعَقْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۵  
 ۲۔ قَالَ يَنْفُورُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۵  
 فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ  
 مِنَ الْجَاهِلِينَ ۵

۳۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ  
 بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ۵

۴۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا  
 خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۵

۵۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَ  
 لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ لَا تَتَّبِعِ الْجَاهِلِينَ ۵

۶۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ  
 تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۵



اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال تم کو سلام

ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں ۵

--- ﴿سورة القصص آیت ۵۵﴾ ---

۶۔ مومنو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو

خوب تحقیق کر لیا کرو (مبادا) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا

دو پھر تم کو اپنے کئے پر نادام ہونا پڑے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۶﴾ ---

مزید حوالے: اللع ۲۶: نیز دیکھئے: علم



عذاب الیم کی خبر سنا دو ۵

جس دن وہ (مال) دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان (بخیلوں) کی پیشانیاں اور پہلو اور پٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا کہ) یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۳۴-۳۵﴾ ---

۷۔ جو لوگ (غزوة تبوک میں) پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور (اوروں سے بھی) کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلتا (ان سے) کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ (اس بات کو) سمجھتے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۸۱﴾ ---

۸۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا ۵ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پئے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آرہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورة ابراهيم آیت ۹۶-۹۷﴾ ---

۹۔ جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں (کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے) ہاں بدر اہوں میں سے جو تیرے

۷۔ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۗ يُؤْمَرُ بِحَرْبِ اللّٰهِ وَبِحَبْلِهَا يُتَمَّ ۗ وَتُكْفَىٰ بِنَارِ جَهَنَّمَ خَمْسًا مِّآءَ اَلْفِ مِآءَ مَرَّةٍ ۗ كَذٰلِكَ يُخَوِّفُ اِلٰهِي الَّذِي لَمْ يَلْمِزْهُمْ اَشْئًا ۗ فَمَنْ ذُو الْعَرْسِ ۗ لَئِنْ لَّمْ يَرْجِعِ الْاِنۡسَانُ اِلٰى رَبِّهِمْ اَلْبَابُ لَفِي عَذَابٍ اَلْوَسَطِ ۗ

۸۔ مِّنۡ وَّرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ ۗ وَسُقِيَ مِنْ مَّاءٍ صٰٓدِرٍ يُّٰتِجُّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسۡغِئُهُ ۗ وَيٰٓاَيُّهَا الْمَوۡتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۗ وَمَا هُوَ بِمَوۡتٍ ۗ وَمِنۡ وَّرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيۡظٌ ۗ

۹۔ اِنَّ عِبَادِيۡ لَيَسۡ لَكَ عَلَيْهِمۡ سُلۡطٰنٌ اِلَّا مَنِ اَبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيۡنَ ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ۗ لَهَا سَبۡعَةُ اَبۡوَابٍ ۗ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٌ مَّقۡسُوۡمٌ ۗ فَوَرۡيۡكَ لَخَشۡرَتُهُمۗ وَالشَّيۡطٰنِۦنَ ثُمَّ لَخَضۡرَتُهُمۗ

پیچھے چل دیئے ۵

اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ۵

اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کیلئے ان میں سے

جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۲۲-۲۳﴾ ---

۱۰۔ تمہارے پروردگار کی قسم! ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں

کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے (اور وہ) گھٹنوں

پر گرے ہوئے (ہونگے) پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں

کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے ۵

اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں ۵

اور تم میں کوئی (شخص) نہیں مگر اسے اس پر گزرتا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے ۵

پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے ۵

--- ﴿سورۃ مریم آیت ۶۸ تا ۷۲﴾ ---

۱۱۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جنے گا ۵

--- ﴿سورۃ طہ آیت ۷۴﴾ ---

۱۲۔ (کافر اس روز) تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے (اور) تم (سب) اس میں داخل ہو کر رہو گے ۵

اگر یہ لوگ (درحقیقت) معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے سب اس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے ۵

وہاں ان کو چیلانا ہوگا اور اس میں (کچھ) نہ سن سکیں گے ۵

--- ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۹۸ تا ۱۰۰﴾ ---

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثْيًا ۖ ثُمَّ لَنُنَزِّلَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ إِلَيْهِمْ  
أَشَدُّ عَلَى الرُّوحِ مِنْ عَيْتِي ۖ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ  
أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۖ وَإِنْ مِنْكُمْ أُولَآءِ وَآرِدُهُمْ عَلَىٰ رَبِّكَ  
حَاطِمًا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ لَنُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ  
فِيهَا جِثْيًا ۖ

11- إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا  
وَلَا يَحْيَىٰ ۖ

12- إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ  
أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ۖ لَوْ كَانَ هُوَ إِلَّا إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا وَ  
كُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا  
يَسْمَعُونَ ۖ

13- فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ  
مِنْ فَوْقٍ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ  
وَالْجُلُودُ ۖ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا  
أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا

۱۳۔ تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں

گے (اور) ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا ۵

اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں

گی ۵

اور ان (کے مارنے ٹھوکنے) کیلئے لوہے کے ہتھوڑے ہونگے ۵

وہ چاہیں گے کہ اس رنج (و تکلیف کی وجہ) سے دوزخ سے نکل

جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور (کہا جائے گا کہ)

جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو ۵

— ﴿سورة الحج آیت ۲۲ تا ۲۹﴾ —

۱۳۔ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے

تئیں خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ۵

آگ ان کے مونہوں کو چھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری

چڑھائے ہوں گے ۵

— ﴿سورة المؤمنون آیت ۱۰۳ تا ۱۰۴﴾ —

۱۵۔ بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے

جھٹلانے والوں کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے ۵

جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو (غضبناک ہو رہی ہوگی اور

یہ اسکے جوش (غضب) اور چیخنے چلانے کو سنیں گے ۵

اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں (زنجیروں میں) جکڑ کر

ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے ۵

آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو ۵

— ﴿سورة الفرقان آیت ۱۳ تا ۱۴﴾ —

۱۶۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے (رہنے کے) لئے دوزخ

ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹنا

دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے

عَذَابَ الْحَرِيقِ ۵

۱۴۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي

جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۵ تَلْفَعُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۵

۱۵۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۵ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۵

إِذَا رَأَوْهُمُ مِنْ مَكَانٍ يَبْعِدُونَ ۵ سَمِعُوا لَهَا نَغِيظًا وَزَفِيرًا ۵ وَأَذًا

أَلْقُوا ۵ وَهِيَ مَكَانًا صَبِيغًا مُفْقَرِينَ ۵ دَعَا هُنَالِكَ لَبُورًا ۵ لَا

تَدْعُوا الْيَوْمَ نُبُورًا ۵ وَإِذْ دَعَا نُبُورًا كَثِيرًا ۵

۱۶۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۵ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا

مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ۵ الَّذِي

كُنْتُمْ بِهِ تَكذِّبُونَ ۵

۱۷۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۵ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ

فِيهَا نَبَأٌ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۵ كَذَٰلِكَ

تَجَزَىٰ كُلُّ كَفُورٍ ۵ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۵ أَوْ لَمْ نَعْمَلْ مَا

يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ۵ وَجَاءَكُمُ التَّنْذِيرُ ۵ قَدْ وَقُوا ۵

عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو ۵

— ﴿سورة السجدة آیت ۲۰﴾ —

۱۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے نہ انہیں

موت آئے گی کہ مرجائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے

ہٹا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ۵

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے (اب) ہم

نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو (پہلے) کرتے تھے کیا ہم نے تم کو نبی

عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس



ڈرانے والا بھی آیا تو اب مزے چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ۵

﴿سورة القاطر آیت ۳۶﴾

۱۸۔ اور سرکشوں کے لئے براٹھکانا ہے ۵

(یعنی) دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرا مگاہ ہے ۵

یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ (ہے) اب اس کے مزے چکھیں ۵

اور اسی طرح کے اور بہت سے (عذاب ہونگے) ۵

یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی ان کو خوشی نہ ہو یہ

دوزخ میں جانے والے ہیں ۵

کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو تم ہی تو یہ (بلا) ہمارے سامنے

لائے ہو۔ سو (یہ) براٹھکانا ہے ۵

وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو

دوزخ میں دو ناعذاب دے ۵

اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ (یہاں) ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے

جن کو بروں میں شمار کرتے تھے ۵

کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا (ہماری) آنکھیں ان (کی

طرف) سے پھر گئی ہیں؟ ۵

بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے ۵

﴿سورة ص آیت ۵۵﴾

۱۹۔ اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے

یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے

لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَصْوِيرٍ

18- وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَا يَبْتَغُونَ ۚ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسَوْنَ إِلَيْهَا ۚ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ۚ وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا ۚ

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَضٍ مَعَكُمْ لَأَمْحِبَّاءُ لَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ۚ قَالُوا

بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْحِبَّاءُ بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَنَّوْنَا لَنَا فَيَنْسَوْنَ الْقَارِءَ ۚ

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّرْنَا هَذَا أَفْزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۚ وَقَالُوا

مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا لَنَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۚ أَتُخَذُ نُهُمُ يُخْرَجُونَ

أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمًا أَهْلِ النَّارِ ۚ

19- وَيَسْبِقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُمًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا

جَاءُوهَا فَتَبَحَّتْ أِبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ۚ

هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيَنْسَوْنَ مَثْوَى

الْمُتَكَبِّرِينَ ۚ

20- الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ

دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے

کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے

جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن

کے پیش آنے سے ڈراتے تھے کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں

کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا ۵

کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس

میں رہو گے تکبر کرنے والوں کا براٹھکانا ہے ۵

﴿سورة الزمر آیت ۲۱﴾

۲۰۔ جن لوگوں نے کتاب (خدا) کو اور جو کچھ ہم نے اپنے

پتھروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ عنقریب معلوم کر لیں گے ۵  
جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی (اور) گھسیٹے  
جائیں گے ۵

(یعنی) کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیئے  
جائیں گے ۵

پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم (خدا کے) شریک  
بناتے تھے ۵

(یعنی) غیر خدا۔ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے  
کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ  
کرتا ہے ۵

﴿سورة المؤمن آیت ۷۰ تا ۷۷﴾

۲۱۔ بلاشبہ تمہو ہر کا درخت ۵

گنہگار کا کھانا ہے ۵

جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ پیٹوں میں (اس طرح) کھولے گا ۵

جس طرح گرم پانی کھولتا ہے ۵

(حکم دیا جائے گا کہ) اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے پیٹوں  
بچ لے جاؤ ۵

پھر اسکے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو (کہ عذاب پر) عذاب  
(ہو) ۵

(اب) مزہ چکھ تو بڑی عزت والا (اور) سردار ہے ۵

یہ وہی (دوزخ) ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے ۵

﴿سورة الدخان آیت ۲۳ تا ۲۷﴾

يَعْلَمُونَ ۚ إِذِ الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلِيلُ ۗ  
يُسْحَبُونَ ۚ فِي الْحَبِيمِ ۚ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۚ ثُمَّ  
قِيلَ لَهُمْ آئِنَّا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۚ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ  
قَالُوا صَلُّوا عَلَيْنَا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۗ  
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝

21- إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوِمِ ۖ طَعَامٌ الْأَيْمِ ۖ كَالْمُهْلِ ۖ يُعْطَىٰ

فِي الْبُطُونِ ۖ كَغَلِيِّ الْحَبِيمِ ۖ خُدُوءَةٌ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ  
سَوَاءِ الْجَبِيمِ ۖ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيمِ ۖ  
ذُقْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۖ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ  
تَمْتَرُونَ ۝

22- يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝

23- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا

النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

24- وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّاتِرُونَ

۲۲۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی

کہ کچھ اور بھی ہے؟ ۵

﴿سورة ق آیت ۳۰﴾

۲۳۔ مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے

بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تندخو اور سخت

مزاج فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی

نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں ۵

﴿سورة التحريم آیت ۶﴾

۲۴۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لئے

جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے ۵

جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی ۵

گو یا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ ۵

وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلادیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں (پڑے ہوئے) ہو ۵

اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے ۵

پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لئے (رحمت خدا سے) دوری ہے ۵

﴿سورة الملك آیت ۱۱۲﴾

إِذَا الْقُؤُوقُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ۝ تَكَادُ  
تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْفِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا  
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا  
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي  
صَلِيلٍ كَيْبِيرٍ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي  
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا  
لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝



مزید حوالے: البقرہ: ۲۳: آل عمران: ۱۲-۱۰۶-۱۳۱- الانعام: ۳۷- الاعراف: ۲۷- الانفال: ۱۳-۳۶-۳۷- یوسف: ۲۷- الفرقان: ۲۵-۲۶  
الہجدہ: ۱۳- یس: ۶۳- الزمر: ۱۶-۲۳-۲۵-۳۷-۳۸-۶۰-۷۱-۷۲- المؤمن: ۳۹-۵۰- الشوری: ۳۳-۳۵- محمد: ۱۵-  
الطور: ۱۱-۱۶- الرحمن: ۳۳-۳۴- المعارج: ۱۱-۱۸- المکرمل: ۱۳-۱۳- الدھر: ۳- التباہ: ۲۱-۲۶- التازعات: ۲۶  
الاعلیٰ: ۱۳-۱۳- الیل: ۱۳-۱۷- القارع: ۹-۱۱- العاکثر: ۳-۷- المہلب: ۳  
نیز دیکھئے: جنت- شجر زقوم

معلوم کرو یہ (سب کچھ) خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۵﴾ ---

۴۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک معیاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے (اس طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو ۵

--- ﴿سورة الرعد: آیت ۲﴾ ---

۵۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو ( مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة الحج: آیت ۱۸﴾ ---

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

۴- اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ

يَذَرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝

۵- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْجِدُ لِمَنْ يَشَاءُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُؤْمِنِ

۶- اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝



۶۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ (گھٹنے

گھٹنے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے ۵

نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن

سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں ۵

--- ﴿سورة یونس: آیت ۳۹-۴۰﴾ ---



معلوم کرو یہ (سب کچھ) خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۵﴾ ---

۳۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک معیار معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے (اس طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲﴾ ---

۵۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۱۸﴾ ---

مَنَازِلَ لِيَعْلَمُوا عَدَدَ النِّجْمِ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۵  
 ۴- اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الْقَمَسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ وَاللَّهُ وَابٌّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْدِرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۵  
 ۵- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْقَمَسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ وَاللَّهُ وَابٌّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْدِرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۵  
 ۶- لَا الْقَمَسَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۵



۶۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ (گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے ۵  
 نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۲۹-۳۰﴾ ---



ابراہیم: ۳۳- النحل: ۱۴- الانبیاء: ۳۳- الفرقان: ۶۱- العنکبوت: ۶۱- لقمان: ۲۹- طہ: ۱۳- الزمر: ۵- حم السجدة: ۳۷- القمر: ۱  
 الرحمن: ۵- نوح: ۱۶- المدثر: ۳۲- القصم: ۸- ۹- الانشقاق: ۱۸- الشمس: ۳- نیز دیکھئے: تنخیر کائنات- تقویم- کائنات

## چوری

۱۔ اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے اور خدا زبردست (اور) صاحب حکمت ہے ۵  
اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکو کار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة المائدہ آیت ۳۸﴾

۲۔ اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے خدا سے بخشش مانگو۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۲﴾

۱- وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا  
تَكَالُفِينَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ مِنْ  
بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ  
عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۲- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيْعُكَ عَلَىٰ أَنْ لَا  
يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَظُنِّيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ  
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ  
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْتَصِمْنَ فِي مَعْرُوفٍ فَلْيَبِيْعْنَ وَاِسْتَعْفِرْ  
لَهُنَّ اللّٰهُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

## چیونٹی

۱۔ اور سلیمان کے لئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے گئے اور وہ قسم وار کئے گئے تھے ۞

یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو چل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو ۞

تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما ۞

﴿سورۃ النمل آیت ۱۹ تا ۲۱﴾

۱۔ وَحِشْرَ لَسِينِ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞  
حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَبِيْلَةٌ يَأْكُلِ النَّمْلُ أَذْخُلُوا  
مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِبُكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞  
فَتَسْتَمِضُوْنَ حِكْمًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۞  
أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۞

## حب الہی

۱۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک (خدا) بناتے اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۶۵﴾---

۲۔ (اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۳۱﴾---

۳۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کھاتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم (یعنی عذاب) بھیجے اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۵

﴿سورة التوبہ آیت ۲۴﴾---

۴۔ یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی

۱۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِذًا يُحِوُّنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

۲۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۳۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأُخْوَالُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۝ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

۴۔ يَوْمَ نَبِّئُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّهُمْ كَمَا نَبَّئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَن يَكْفُرُوا بَعْدَ ذَلِكَ سَاءَ أَلْطَمَاتُ الْكَافِرِينَ ۝ وَاللَّهُ لَا يُرِيدُ مِنكُمُ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝

بھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں ۵

اور باوجودیکہ ان کو خود طعام کی خواہش (اور حاجت) ہے فقیروں

اور قیدیوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں ۵

(اور کہتے ہیں کہ) ہم تم کو خالص خدا کے لئے کھلاتے ہیں نہ تم

سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکرگزاری کے (طلبگار) ۵

ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو (چہروں کو) کریمہ

المنظر اور (دلوں کو) سخت (مضطر کر دینے والا) ہے ۵

﴿سورة الدھر آیت ۱۰ تا ۱۱﴾---



## حج و عمرہ

۱۔ بیشک (کوہ) صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے (بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے) اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۵۸﴾

۲۔ (اے محمد) لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ گھنٹا بڑھا کیوں ہے) کہہ دو کہ وہ لوگوں کے (کاموں کی میعادیں) اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور نیکی اس بات میں نہیں کہ (احرام کی حالت میں) گھروں میں ان کے پچھوڑے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکو کار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تا کہ نجات پاؤ ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۸۹﴾

۳۔ اور خدا (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر (رستے میں) روک لئے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو (کردو)

۱۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۵

۲۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۵

۳۔ وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى فَمِنْ رَأْسِهِ فِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۵ ذَلِكَ لِيَعْنِ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ

اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈالے تو اسکے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب (تکلیف دور ہو کر) تم مطمئن ہو جاؤ تو جو (تم میں) حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جسکو (قربانی) نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے اہل و عیال کے میں نہ

رہتے ہوں اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے ۵

حج کے مہینے (معین ہیں جو) معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا اور زادراہ (یعنی رستے کا خرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر (فائدہ) زادراہ (کا) پرہیزگاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو ۵

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ (حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت) اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام (یعنی مزدلفہ) میں خدا کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس سے پیشتر تم لوگ (ان طریقوں سے محض) ناواقف تھے ۵

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور خدا سے بخشش مانگو بیشک خدا بخشنے والا (اور) رحمت کرنے والا ہے ۵

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو (منیٰ میں) خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو (خدا سے) التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو (جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کرا ایسے لوگوں کا

الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَيِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ فَمَنْ النَّاسُ مَنِ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا

آخرت میں کچھ حصہ نہیں ۵

اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو ۵

یہی لوگ ہیں جن کیلئے ان کے کاموں کا حصہ (یعنی اجر نیک تیار) ہے اور خدا جلد حساب لینے والا (اور جلد اجر دینے والا) ہے ۵ اور (قیام منیٰ کے) دنوں میں (جو) گنتی کے (دن ہیں) خدا کو یاد کرو اور اگر کوئی جلدی کرے (اور) دو ہی دن میں (چل دے) تو

اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو بعد تک ٹھہرا ہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کیلئے ہیں جو (خدا سے) ڈرے اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کئے جاؤ گے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۱۹۶ تا ۲۰۳﴾ ---

۴۔ پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کیلئے مقرر کیا گیا تھا وہ یہ ہے جو مکے میں ہے۔ باہرکت اور جہان کیلئے موجب ہدایت ۵ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے گھرے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل ہو اس نے امن پالیا اور لوگوں پر خدا کا حق (یعنی فرض) ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۹۶ تا ۹۷﴾ ---

۵۔ اور (ایک وقت تھا) جب ہم نے ابراہیم کے لئے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا (اور ارشاد فرمایا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں (اور) سجدہ کرنے والوں کیلئے میرے گھر کو صاف رکھا کرو ۵

كَسْبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ الْتَقَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

4- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًىٰ لِلْعَالَمِينَ ۚ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۚ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّمٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

5- وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا ۚ وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۚ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ۚ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ۚ عَلَىٰ مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا

اور لوگوں میں حج کے لئے ندا کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور (دراز) رستوں سے چلے آتے ہوں (سوار ہو کر) چلے آئیں ۵

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لئے حاضر ہوں۔ اور (قربانی کے) ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی (کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیئے ہیں ان پر خدا کا نام لیں۔ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر در ماندہ کو بھی کھاؤ ۵

پھر چاہئے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نذریں پوری کریں اور خانہ قدیم (یعنی بیت اللہ) کا طواف کریں ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۲۶ تا ۲۹﴾ ---

۶۔ بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا (اور) صحیح خواب دکھایا۔ کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتر وا کر امن و امان سے داخل ہو گے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فسخ کرادی ۵

--- ﴿سورۃ الفتح آیت ۲۷﴾ ---



### حُدُود

۱۔ مومنو! تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص (یعنی خون کے بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے (اس طرح پر کہ) آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اور اگر قاتل کو اس کے (مقتول) بھائی کے قصاص میں) سے کچھ معاف کر دیا جائے تو (وارث مقتول کو) پسندیدہ طریق سے (قرار داد کی) پیروی (یعنی مطالبہ خون بہا)

مِنْهَا وَأَطَعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ ۖ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقْتِهِمْ وَلِيُوقُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

۶۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝



۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۲۔ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَكَ يُدْخِلْهُ

کرنا اور (قاتل کو) خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لئے دکھ کا عذاب ہے ۵ اور اے اہل عقل (حکم) قصاص میں (تمہاری) زندگی ہے کہ تم (قتل و خون ریزی سے) بچو ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۷۸ تا ۱۷۹﴾ ---

۲۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی

حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۴﴾ ---

۳۔ اور کسی مومن کو شایاں نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے ہاں اگر وہ معاف کر دیں (تو ان کو اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ

متواتر دو مہینے کے روزے رکھے۔ یہ (کفارہ) خدا کی طرف سے (قبول) توبہ (کے لئے) ہے اور خدا سب کچھ جانتا (اور) بڑی

حکمت والا ہے ۵

اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور ایسے شخص کیلئے اس نے بڑا (سخت) عذاب

تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۹۲-۹۳﴾ ---

نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۵

۳۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَتَّقَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْيِرُ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا، فَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْيِرُ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً، وَإِنْ كَانِ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْيِرُ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَمَنْ يَتَّقَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّدًا فَجْرًا أَوْ ذُوًّا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۵

۴۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ

۴۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں

فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیئے

جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے

ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا ملک سے

نکال دیئے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں

ان کے لئے بڑا (بھاری) عذاب (تیار) ہے ۵

ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی

تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۳۳﴾ ---

۵۔ اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ

ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے۔ اور خدا

زبردست (اور) صاحب حکمت ہے ۵

اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکو کار ہو جائے تو خدا اس کو

معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۳۸﴾ ---

۶۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لئے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ

جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے

بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت

اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جو شخص بدلہ معاف

کر دے وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا اور جو خدا کے نازل فرمائے

ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف

ہیں ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۴۵﴾ ---

۷۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد (جب

ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سو

اللہ غفور رحیم ۵

5- وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ايديهما جزاء بما كسبا

نكالا من الله ۵ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۵ فَمَنْ تَابَ مِنْ

بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۵ إِنَّ اللهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵

6- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

بِإِصْصٍ ۵ فَمَنْ نَصَّدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ ۵ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ

بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۵

7- الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ

جَلْدَةٍ ۵ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنَّ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ۵ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۵

8- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوا هُنَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ۵ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۵

درے مارو اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع

خدا (کے حکم) میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہئے کہ ان

کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲﴾ ---

۸۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس

پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارو اور کبھی ان کی شہادت

قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں ۵

## حرام

۱۔ اس نے تم پر مہرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں جو ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد (ضرورت) سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں پیشک خدا بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے ۵

--- سورة البقرہ آیت ۱۷۳ ---

۲۔ تم پر مہرا ہوا جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کر کھائیں مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قیمت معلوم کر دیہ سب گناہ (کے کام) ہیں۔

--- سورة المائدہ آیت ۳ ---

۳۔ مومنو! جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو

۱۔ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُكِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۲۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُكِلَ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْدَةُ وَالْمَثْرَوِيَّةُ وَالنَّطِيْجَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذِيْحَ عَلٰى النَّصْبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۗ ذٰلِكُمْ فُسْقٌ ۗ

۳۔ يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْمِلُوْا ظِلْمًا مَّا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

۴۔ يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّمَّنْ عَمِلَ الشَّيْطٰنُ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُثْوِقَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ۝

دوست نہیں رکھتا ۵

--- سورة المائدہ آیت ۸۷ ---

۳۔ اے ایمان والو! شراب اور خمر اور بت اور پانسے (یہ سب) ناپاک کام اعمالِ شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ ۵

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے

روک دے تو تم کو (ان کاموں سے) باز رہنا چاہئے ۵

--- سورة المائدہ آیت ۹۱ ---

۵۔ اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھائیو کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان (لوگ) اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بیشک تم بھی مشرک ہوئے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۲۱﴾ ---

۶۔ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اسکے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۴۵﴾ ---

۵۔ وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ  
وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوتِنُ إِلَىٰ آلِهِمْ لِيَجْأِدُنَا لَكُمْ وَإِنْ  
أَطَعْتُمْهُمْ أَفْعَتُمْهُمْ أَنْكُمْ لَبِشْرٌ كُونَ ﴿۵﴾  
۶۔ قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ  
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ  
رِجْسٌ أَوْ فُسْقًا إِنَّهُ لَغَيْرُ اللَّهِ بِهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَضطرُّ عَرِيضًا  
وَلَا عَادُ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶﴾



## حرص

۱۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۹۶﴾ —

۲۔ اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

— ﴿سورۃ النساء آیت ۱۲۸﴾ —

۳۔ اور (ان لوگوں کیلئے بھی) جو مہاجرین سے پہلے (ہجرت) کے گھر (یعنی مدینے) میں مقیم اور ایمان میں (مستقل) رہے (اور) جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور (خلش) نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچایا گیا تو

- ۱- وَتَجِدَهُمْ آخِرَ صَبَإٍ عَلَىٰ حَيْوَةٍ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَٰثِرُ ٱلْفَسَقَ ۚ وَمَا يُؤْمِرُ خِرَاجَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۖ إِنَّ يُعَٰثِرُ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۙ
- ۲- وَأَخْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ
- ۳- وَٱلَّذِينَ تَتَوَكَّلُ ٱلْدَارَ ٱلْأَيْمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُخَيِّبُونَ مَن هَٰجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَٰجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤَيِّدُونَ عَلَىٰ ٱنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُؤْتِكُمْ شَيْئًا فَمِنَ نَّفْسِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۙ
- ۴- فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا ۚ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِينَ هُمْ يُؤْتِكُمْ ۚ وَمَن يُؤْتِكُمْ شَيْئًا فَمِنَ نَّفْسِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۙ

ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں ۵

— ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۲۹﴾ —

۳۔ سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور (اسکے احکام کو) سنو اور اس کے فرمانبردار رہو اور (اس کی راہ میں) خرچ کرو (یہ) تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں ۵

— ﴿سورۃ النعمان آیت ۱۶﴾ —

## حسب ونسب

۱۔ پھر جب صور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور

نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے ۵

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۱۰۱﴾ ---

۲۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو

صاحب نسب اور صاحب (قرابت و نامادی بنایا اور تمہارا پروردگار

(ہر طرح کی) قدرت رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۵۲﴾ ---

۳۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو

باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آسکے

بیشک خدا کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال

دے اور نہ فریب دینے والا (شیطان) تمہیں خدا کے بارے میں

کسی طرح کافریب دے ۵

--- ﴿سورة لقمان آیت ۳۳﴾ ---

۴۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور

تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو (اور)

خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار

۱- فَادْفُخْ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۵

۲- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَعَمَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۵

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۵

۳- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَخِزِي وَالِدًا

عَنْ وَكَلِمَةً وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

حَقٌّ فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۵

۴- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۵

۵- لَنْ نَنْفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ

بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۵



ہے۔ بیشک خدا سب کچھ جاننے والا (اور) سب سے خبردار

ہے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۳﴾ ---

۵۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ

اولاد اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا

اس کو دیکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة الممتحنة آیت ۳﴾ ---

## حسد

۱۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا (دوسرا) حکم بھیجے۔ بیشک خدا ہر بات پر قادر ہے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۰۹﴾

۲۔ کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے (تو) لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے ۵

یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندانِ ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۵۳﴾

۳۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ۵  
ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ۵

۱- وَذَلَّلِيَّزِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْا ذُنُوْبَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِتْيَانِكُمْ كُفَّارًا ۝  
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْتَوْا  
وَاصْتَحَبُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
۲- أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝  
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ  
آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝  
۳- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي الْفَلَقِ ۝ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَ  
مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ  
فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

اور شب تار یک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے ۵  
اور گنڈوں پر (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے والیوں کی برائی سے ۵  
اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے ۵  
﴿سورۃ الفلق آیت ۵۲﴾

## حسن سلوک

۱۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب (اس عہد سے) منہ پھیر کر پھر بیٹھے ۵

۲۔ مومنو! تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص (یعنی خون کے بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے (اس طرح پر کہ) آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اسکے (مقتول) بھائی (کے قصاص میں) سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو) پسندیدہ طریق سے (قرارداد کی) پیروی (یعنی مطالبہ خون بہا) کرنا اور (قاتل کو) خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہئے یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادتی کرے اسکے لئے دکھ کا عذاب ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۷۸﴾ ---

۳۔ اور جب تم کو کوئی دغا دے تو (جواب میں) تم اس سے بہتر (کلمے) سے (اسے) دغا دیا نہیں لفظوں سے دغا دو۔ بیشک خدا

۱۔ وَاذْخُرْنَا بِنِيقَاقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  
وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
أَلْحَدُّ بِأَلْحَدٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ  
عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأْتِيَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَادَّأءَ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۳۔ وَإِذَا حُجِّبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

۴۔ أَدْعُرَالِي سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ  
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

۵۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ

ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ۵

۳۔ (اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۲۵﴾ ---

۵۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ (لوگوں سے) ایسی باتیں

کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان (بری باتوں سے) ان میں فساد ڈلوادیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ۰

— ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۳﴾ —

۶۔ مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں میں گھر والوں سے اجازت لئے اور ان کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہوا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ) شاید تم یاد رکھو ۰

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو اور اگر (یہ) کہا جائے کہ (اس وقت) لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے ۰

(ہاں) اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب (رکھا) ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے ۰

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کیلئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے (اور) جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی

بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۖ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى  
تَسْتَأْذِنُوا وَكَسِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا  
حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ  
لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ۚ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ  
يَعْتَصِمُونَ مِنْ أَنْبَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاحَهُمْ ۚ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ  
مِنْ أَنْبَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا  
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُبُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءً بِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّوَابِعِينَ

شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھ لیاں (اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی (ہی قسم کی) عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں) (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت اور (سنگار کے مقامات) کو

ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ  
 ماریں کہ (جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم  
 ہو جائے اور مومنوں کو خدا کے آگے توبہ کر دتا کہ فلاح پاؤں

--- ﴿سورة النور آیت ۲۷﴾ ---

۷۔ مومنو تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں  
 پہنچے تین دفعہ (یعنی تین اوقات میں) تم سے اجازت لیا کریں  
 (ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم  
 کپڑے اتار دیتے ہو اور (تیسرے) عشاء کی نماز کے بعد (یہ  
 تین وقت) تمہارے پردے (کے) ہیں ان کے (آگے) پیچھے  
 یعنی دوسرے وقتوں میں) نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ (کام  
 کاج کیلئے) ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح خدا  
 اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا بڑا علم والا (اور)  
 بڑا حکمت والا ہے

اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح  
 اجازت یعنی چاہئے جس طرح ان سے اگلے (یعنی بڑے آدمی)  
 اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح خدا تم سے اپنی  
 آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جانتے والا (اور)  
 حکمت والا ہے

اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے

غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَهُمْ لَمْ يَطْهَرُوا  
 عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا  
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ  
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

7-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 وَالَّذِينَ لَمْ يَلْبُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ  
 صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ  
 بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا  
 عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۚ طَوَّفُوهُنَّ عَلَيْكُمْ بِعِصْمٍ عَلَىٰ بَعْضِ  
 مَا كَذَلِكَ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ الْآيَاتُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا  
 بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ الْآيَاتُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝  
 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ  
 جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ  
 يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَىٰ

اتار کر (سرنگ کر) لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ اپنی  
 زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو (یہ) ان  
 کے حق میں بہتر ہے اور خدا استنا جانتا ہے

نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم  
 پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا  
 اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی  
 بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی

پھو پھو کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی  
 خالوں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے  
 ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے (اور اسکا بھی) تم  
 پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ اور جب گھروں  
 میں جایا کرو تو اپنے (گھر والوں) کو سلام کیا کرو (یہ) خدا کی  
 طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں  
 کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو ۵

مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اسکے رسول پر ایمان لائے اور جب  
 کبھی ایسے کام کے لئے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس

جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے اے پیغمبر جو

لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اسکے رسول

پر ایمان رکھتے ہیں سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کیلئے اجازت

مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور

ان کے لئے خدا سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا

الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
 حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ  
 أَوْ بُيُوتِ إِهْتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
 أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ  
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَطَارِحَةً أَوْ صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى  
 أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  
 الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ  
 جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ  
 يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ  
 فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لَنْ سِئْتٍ مِنْهُمْ  
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝  
 ۸- يُبَيِّنُ آيَاتِ الصَّلَاةِ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهًا عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

مہربان ہے ۵

— ﴿سورة النور آیت ۶۲۵۸﴾ —

۸۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور (لوگوں کو) اچھے کاموں کے کرنے

کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع

ہو اس پر صبر کرنا بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور (ازراہ غرور

لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی  
اتر آنے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا ۵

اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور (بولتے وقت) آواز نیچی  
رکھنا کیونکہ (اوپنی آواز گدھوں کی سی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ)  
سب سے بری آواز گدھوں کی ہے ۵

﴿سورۃ لقمان آیت ۱۷﴾

وَلَا تَصْعِقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۖ وَاقْصِدْ فِي  
مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ الْأَصْوَاتَ  
لَصَوْتُ السَّيِّئِ ۚ

1- اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ  
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ  
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْعَلِيمُ ۝  
2- خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ  
صُورَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

## حُسن وجمال

۱- خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ اور  
آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی  
اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں یہی خدا تمہارا  
پروردگار ہے پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے ۵

﴿سورۃ المؤمن آیت ۶۴﴾

۲- اسی نے آسمانوں اور زمین کو مٹی برکت پیدا کیا اور اسی نے  
تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں اور اسی کی  
طرف (تمہیں) لوٹ کر جانا ہے ۵

﴿سورۃ التھان آیت ۳﴾



## حسن و جمالِ فطرت

۱۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کیلئے اسکو سجایا ۵

— ﴿سورة الحجر آیت ۱۶﴾ —

۲۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیونکر بنایا اور (کیونکر) سجایا اور اس میں کہیں شکاف تک نہیں۔ اور زمین کو (دیکھو اسے) ہم نے پھیلا یا اور اس میں پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں ۵ تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل

کریں ۵

اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ وستان

اگائے اور کھیتی کا اناج ۵

اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گاجھانہ بتہ ہوتا ہے ۵

— ﴿سورة ق آیت ۱۱۶﴾ —

۱۔ وَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝  
 ۲۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقِبْتَا فِيهَا رَوَابِي ۝ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ ۝ تَنْصُرًا ۝ وَذَكَرَى لِحُكْمٍ عَبْدًا مُبِينٍ ۝ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبًّا وَعَسَبًا وَاصْنُفًا وَأَثَلًا أَصْنَفًا ۝ لَهَا طَلْعٌ نَبِيذٌ ۝ رِزْقًا يُعْبَادُ ۝ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا كَآفِيًا ۝ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

(یہ سب کچھ) بندوں کو روزی دینے کیلئے (کیا ہے) اور اس

(پانی) پر ہم نے شہر مردہ (یعنی زمین افتادہ) کو زندہ کیا (بس)

اسی طرح (قیامت کے روز) نکل پڑتا ہے ۵



## حق و باطل

۱۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ

چھپاؤ ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۴۲﴾ ---

۲۔ اے اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ غلط ملط کیوں کرتے

ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۷۱﴾ ---

۳۔ مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی

رضامندی تجارت کا لین دین ہو (اور اس سے مالی فائدہ حاصل

ہو جائے تو وہ جائز ہے) اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک

نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۳﴾ ---

۴۔ لوگو! خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف

سے حق بات لے کر آئے ہیں تو (ان پر) ایمان لاؤ (یہی)

تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر کفر و کفر و گے تو (جان رکھو کہ) کہ

جو کچھ آسمانوں اور (زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا

(سب کچھ) جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۷۰﴾ ---

۵۔ اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ

۱- وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۵

۲- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ

الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۵

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۵

۴- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا

خَيْرًا لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۵

۵- وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

يَعْتَدِلُونَ ۵

۶- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۵

۷- قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ

فَأَلِي تَصْرَفُونَ ۵

بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۱۸۱﴾ ---

۶۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر

بھیجا تا کہ اس (دین) کو (دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کرے

اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۲۲﴾ ---

۷۔ یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے اور حق بات کے ظاہر

ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے

جاتے ہو؟ ۵

﴿سورۃ یونس آیت ۲۳﴾

۸۔ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس کا قائل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیا انصاف کرتے ہو؟ اور ان میں کے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ بیشک خدا تمہارے (سب) اعمال سے واقف ہے ۵

﴿سورۃ یونس آیت ۲۴﴾

۹۔ اسی نے آسمان سے مینہ برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور (پانی) جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح خدا (صحیح اور غلط کی) مثالیں بیان فرماتا ہے (تا کہ تم سمجھو) ۵

﴿سورۃ الرعد آیت ۱۷﴾

۸۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ

اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ

يُنَبِّئَكُمْ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ

كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا طَغًا إِنَّ الظَّنَّ

لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

۹۔ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ

السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۝ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ

ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۝ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۝ وَأَمَّا

مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ

الْأَمْثَالَ ۝

۱۰۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ ۝ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

۱۱۔ وَمَا نُزِّلَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۝

وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

وَاتَّخَذُوا الْيَتِيمَ وَمَا أَنْزَرُوا هُزُوعًا ۝

۱۰۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود

ہونے والا ہے ۵

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۱﴾

۱۱۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ

(لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی) خوشخبریاں سنائیں اور (عذاب

سے) ڈرائیں اور جو کافر ہیں وہ باطل (کی سند) سے جھگڑا

کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں اور انہوں نے ہماری

آجوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا ۵

﴿سورۃ الکہف آیت ۵۶﴾

۱۲۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل (کی چیزیں یعنی زن و فرزند) بنا لیں تو

اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے ۵

(نہیں) بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ

دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بتاتے

ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے ۵

— ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۱۸۱﴾ —

۱۳۔ یہ اس لئے کہ خدا ہی برحق ہے اور جس چیز کو (کافر) خدا کے

سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس لئے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے ۵

— ﴿سورۃ الحج آیت ۶۲﴾ —

۱۴۔ اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان

اٹھانے والے ہیں ۵

۱۵۔ یہ اس لئے کہ خدا کی ذات برحق ہے اور جسکو یہ لوگ خدا کے

سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ (اور) گرامی

قدر ہے ۵

۱۶۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے (اور وہ) غیب کی

باتوں کا جاننے والا ہے ۵

کہہ دو کہ حق آپکا اور (معبود) باطل نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے

اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا ۵

— ﴿سورۃ سہ آیت ۲۸﴾ —

12- كُوْرَدْنَا اَنْ نَّكُوْدَ لَهُمْ اَلَا نَخُوْدُهُ مِنْ كُوْدِنَا اِنْ كُنَّا

فُوْعُوْلِيْنَ ۝ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ

فَاِذَا هُوَ رَاقِقٌ ۝ وَكَلِمَةُ الْوَيْلِ مِمَّا تَتَصَفُوْنَ ۝

13- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

14- وَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ

الْمُخْسِرُوْنَ ۝

15- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ الْبَاطِلُ

وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

16- قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ الْغٰٓيِبِ ۝ قُلْ جَآءَ

الْحَقُّ وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيْدُ ۝

17- وَيَسْمَعُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَاُخْفٰٓئِ الْحَقِّ بِكَلِمٰتِهٖ ۝ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ

الَّذُوْرُ ۝

18- وَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلَ عَلٰٓى مُحَمَّدٍ

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئٰتِهِمْ وَاَصْلَحَنَّا اٰلِهٰمُ ۝

۱۷۔ اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا

ہے بیشک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے ۵

— ﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۲۳﴾ —

۱۸۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو (کتاب)

محمد پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ انکے پروردگار کی طرف

سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیئے اور ان کی حالت

سنواری ۵

یہ (حیث اعمال اور اصلاح حال) اس لئے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے (دین) حق کے پیچھے چلے اسی طرح

خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے ۵

--- ﴿سورة محمد آیت ۲۷۲﴾ ---

## حقوق العباد

۱۔ اور قیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو (اپنے ناقص اور برے) مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳﴾ ---

۲۔ مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو (اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے) اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ خدام پر مہربان ہے ۵ اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں

حق و باطل: نیز دیکھئے: کسمان حق

ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذٰلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝



1- وَأَتُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۝

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ

عُدُوًّا وَإِنَّا وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهُ نَارًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ

عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرًا ۝

3- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

داخل کریں گے اور یہ خدا کو آسان ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۰﴾ ---

۳۔ خدام کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے

کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے

فیصلہ کیا کرو خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بیشک خدا سزا

(اور) دیکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۵۸﴾ ---

۴۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں ۵

— ﴿سورۃ الروم آیت ۲۸﴾ —

۵۔ بیشک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں (عیش کر رہے) ہونگے ۵

اور (جو جو نعمتیں) انکا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے ۵

رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے ۵

اور اوقاتِ سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے ۵

اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (دونوں) کا

حق ہوتا ہے ۵

— ﴿سورۃ الذاریات آیت ۱۹ تا ۱۵﴾ —

يَعْظَمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۵  
 4- قَاتِلِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
 لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاحِشُونَ ۵  
 5- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ آخِذِينَ مَا أَنهَمُ رَبُّهُمْ  
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُّحْسِنِينَ ۚ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ  
 مَا يَهْجَعُونَ ۚ وَيَأْتِيهِمْ رُحْمًا يُسْتَفِرُّونَ ۚ وَفِي أَمْوَالِهِمْ  
 حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ۚ

نیز دیکھئے: اولاد۔ رشتہ دار۔ مسافر۔ والدین کے حقوق۔ یتیم

## حلال

۱۔ لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۵

وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں (کچھ بھی) علم نہیں ۵

— سورة البقرہ آیت ۱۶۹، ۱۷۸ —

۲۔ اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لئے چار پائے جانور (جو چھ نبوالے ہیں) حلال کر دیئے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام (حج) میں شکار کو حلال نہ جانا خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے ۵

مومنو! خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی (جو خدا کی نذر کر دیئے گئے ہوں اور) جن کے گلوں میں بٹے بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر (یعنی بیت اللہ) کو جارہے ہوں (اور) اپنے پروردگار کے فضل اور اسکی خوشنودی کے

۱۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَكْبُرُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالشُّعْرِ وَالنَّفْعَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَعْيَارِ إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمُوهُنَّ لِمَا كَانَ قَوْلُكُمْ عَنْ السُّجُودِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

۳۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ

طلبگار ہوں اور جب احرام اتار دو تو (پھر اختیار ہے کہ) شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے ۵

— سورة المائدہ آیت ۲۱ —

۳۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کونسی چیزیں ان کے لئے حلال

ہیں (ان سے) کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو اور جس (طریق) سے خدا نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے اس طریق سے) تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں اسکو کھالیا کرو (اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت) خدا کا نام لے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بیشک خدا جلد حساب لینے والا ہے ۵

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاکدامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی (حلال ہیں) جبکہ ان کا مہر ویدو اور ان سے عفت قائم (رکھنی مقصود ہو نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایمان کا منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۵۴﴾ ---

۴۔ تمہارے لئے دریا (کی چیزوں) کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے (یعنی) تمہارے اور مسافروں کے فائدے کیلئے اور جنگل (کی چیزوں) کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم (سب) جمع کئے جاؤ

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝  
 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ وَلَا مُنْجِزِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ ۝

4۔ اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

5۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّيْرَةَ ۙ وَلَا تَسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادَةِ ۙ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ التَّرْبِقِ ۙ

کے ڈرتے رہو ۵

--- ﴿سورۃ مائدہ آیت ۹۶﴾ ---

۵۔ اے بنی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵  
 پوچھو تو کہ جو زینت (و آرائش) اور کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کیلئے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی اسی طرح



خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کیلئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۳۲﴾ ---

۶۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ (کہ وہ تمہارے لئے)

حلال طیب (ہے) اور خدا سے ڈرتے رہو بیشک خدا بخشنے والا

مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۶۹﴾ ---

۷۔ پس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ

کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۱۳﴾ ---

۸۔ اور یونہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ

یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو

لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۱۶﴾ ---

۹۔ یہ (ہمارا حکم ہے) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے

مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق

میں بہتر ہے اور تمہارے لئے مویشی حلال کر دیئے گئے ہیں سوا

ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو بتوں کی پلیدی سے

بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۳۰﴾ ---

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لَقَوْمٌ يَعْلَمُونَ ۝

۶- فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۷- فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ

اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ لِرَبِّكُمْ تَعْبُدُونَ ۝

۸- وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ عَلَىٰ السِّنِّ كَذِبًا ۚ هَذَا حَلَلٌ

وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ

يَقْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝

۹- ذَلِكَ ۚ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ

وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

السَّجْسَاجَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

۱۰- وَالْبَدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۚ

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَأَذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا

۱۰۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائرِ خدا

مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں تو (قربانی

کرنے کے وقت) قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لوجب پہلو کے

بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قاعمت سے بیٹھ رہنے

والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس طرح ہم نے

ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے



## حمد

۱۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے ۰

— ﴿سورة الفاتحة آیت ۱﴾ —

۲۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی پھر بھی کافر (اور چیزوں کو) خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں ۰

— ﴿سورة الانعام آیت ۱﴾ —

۳۔ اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے ۰

— ﴿سورة الرعد آیت ۱۳﴾ —

۴۔ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور (اس کی) خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو ۰ اور اپنے پروردگار کی عبادت کئے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آجائے ۰

— ﴿سورة الحج آیت ۹۸-۹۹﴾ —

۵۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اس کی

1- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

2- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞

3- وَيَسْخَرُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ۚ

4- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۚ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۚ

5- تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۚ

6- وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ هَوْنٌ فِي الْمَلِكِ ۚ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَكِيٌّ مِنَ الدُّلَىٰ ۚ وَكَوْنُهُ تَكْوِينًا ۚ

7- قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَبِيرٌ

تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

بیشک وہ بردبار اور غفار ہے ۰

— ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۲۳﴾ —

۶۔ اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اسکو بڑا جان

کر اس کی بڑائی کرتے رہو ۰

— ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱۱۱﴾ —

۷۔ کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو (سزاوار) ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا بھلا خدا بہتر ہے یا وہ جن کو یہ (اسکا) شریک بناتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۵۹﴾ ---

۸۔ سب تعریف خدا ہی کو (سزاوار ہے) جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں وہ (اپنی) مخلوقات میں جو وہ چاہتا ہے بڑھاتا ہے بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورۃ الفاطر آیت ۱﴾ ---

۹۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے (اس سے) پاک ہے ۵

اور پیغمبروں پر سلام ۵

سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو (سزاوار) ہے ۵

--- ﴿سورۃ الصفت آیت ۱۸۰ تا ۱۸۲﴾ ---

۱۰۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اسکے گرد اگر د (حلقہ باندھے ہوئے) ہیں (یعنی فرشتے) وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کیلئے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے تو

أَقَامُوا شُرَكَائِهِمْ

8- الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِةِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَجْنَحَةٌ مِثْلِي وَتِلْكَ رُجْمَةٌ يُرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

9- سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

10- الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

11- فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝



جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے

اور دوزخ کے عذاب سے بچالے ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۷﴾ ---

۱۱۔ تو صبر کرو بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۵۵﴾ ---

مزید حوالے: الانعام: ۲۵- الاعراف: ۲۰۶- یونس: ۱۰- بنی اسرائیل: ۱- الکہف: ۱- النور: ۳۱- الفرقان: ۱- ۱۰- ۶۱- النمل: ۹۳- القصص: ۱۰

العنکبوت: ۲۳- الروم: ۱۸- لقمان: ۲۵- الاحزاب: ۳۱- سبا: ۱- فاطر: ۳۳- نوس: ۳۶- ۸۳- الصافات: ۱۵۹- الزمر: ۷۳- ۷۵

المومن: ۶۵- خم السجدہ: ۲۸- الثوری: ۵- الزخرف: ۸۲- ۸۵- الجاثیہ: ۳۶- ۳۷- القف: ۱- الجمعہ: ۱- التغابن: ۱۱- الملک: ۱

الہم: ۲۹- الحاق: ۵۲ نیز دیکھئے: تسبیح- ذکر الہی

## حیات بعد الممات

۱۱۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس (غور کے) سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ جلا اور مارتو میں بھی سکتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے (یہ سن کر) کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا O

یا اسی طرح اس شخص کو (نہیں دیکھا) جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاقاً گذر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اسکے (باشندوں) کو مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی (اور) سو برس تک (اس کو مردہ رکھا) پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ (مرے) رہے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا (نہیں) بلکہ سو برس (مرے) رہے ہو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ (اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو (مرا پڑا ہے) غرض ان باتوں سے) یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کیلئے اپنی قدرت کی (نشانی بنائیں اور) (ہاں گدھے کی)

۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَآجَّرَ اِبْرٰهِيْمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَتٰهُ اللّٰهُ الْمَلِكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّى الَّذِى يُعْبٰى وَيُسَبِّحُ قَالَ اَنَا اُنْحٰى وَاُمِيْتُ ط قَالَ اِبْرٰهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِى بِالْقٰنَمِىْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ قٰلَتْ يٰهٰمِىْنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ؕ اَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا ؕ قَالَ اَتٰى اُنْحٰى هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةً عَامًا ثُمَّ بَعَثَهُ ؕ قَالَ كَمْ لَيْثٌ ط قَالَ لَيْثٌ يَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَيْثٌ مِائَةً عَامًا فَانظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّءْ ؕ وَاَنْظُرْ اِلٰى جِمَارِكَ وَلْيَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنّٰسِ وَاَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا عِجْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ؕ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ؕ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُنحٰى الْمَوْتِى ط قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنُ ط قَالَ بَلٰى وَّلٰكِن لِّيَطْمَئِنُّ قَلْبِى ط قَالَ فَاخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا

ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیونکر جوڑے دیتے اور ان پر (کس طرح) گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے O

اور جب ابراہیم نے (خدا سے) کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرے گا خدا نے فرمایا کیا تم نے (اس بات کو) باور نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن (میں دیکھنا) اس لئے (چاہتا ہوں) کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا

نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگالو (اور گلڑے گلڑے کرادو) پھر ان کا ایک ایک گلڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵۸ تا ۲۶۰﴾ ---

۲۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم (مرکر بوسیدہ) ہڈیاں اور چور چور ہوجائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر انھیں گے؟ ۵  
کہہ دو کہ (خواہ تم) پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک (پتھر اور لوہے سے بھی) بڑی (سخت) ہو۔ جھٹ کہیں گے کہ (بھلا) ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ تو (تعجب سے) تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اسکی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم (دنیا میں) بہت کم (مدت) رہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۲ تا ۵۴﴾ ---

۳۔ لوگو اگر تم کو (مرنے کے بعد) جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا تھا (یعنی ابتدا میں) مٹی سے پھر اس سے نطفہ بنا کر پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر (اپنی خالقیت ظاہر کر دیں اور ہم جسکو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر

۲۔ ثُمَّ اذْهَمْنَ يَاٰئِيْنِكَ سَعِيًا وَاَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝۲  
وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرَقًاآءًا اَنْتَا لَبُوْعُوْنُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝۳  
قُلْ كُوْنُوْا حِجَارًا اَوْ حَدِيْدًا ۝۴  
اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۝۵  
فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۝۶  
فَسَيُبْعَضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ قُلْ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ قَرِيْنًا ۝۷  
يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِعِبَدِهِ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۸  
اِنَّ لِبَشَرِكُمْ اَلْفَاكِلًا ۝۹  
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَّغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّنَبِيْنٍ لَّكُمْ وَاُنْفِرُ فِي الْاَرْضِ مَا نَشَآءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُوْا اَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّؤْتِيْ وَيَمْنِكُمْ مَّنْ يُّدْءُ اِلٰى اَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عَلْمِ شَيْءًا وَّاَنْتَرٰى الْاَرْضَ هَامِدَةً ۝۱۰  
فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَبْتَتَتْ مِنْۢ كُلِّ زَوْجٍ مَّوْجٍ ۝۱۱

تم جوانی کو پہنچتے ہو۔ اور بعض (قبل از پیری) مرجاتے ہیں اور بعض (شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی) نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ (بہت کچھ) جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں اور (اے دیکھنے والے) تو دیکھتا ہے کہ (ایک وقت میں) زمین خشک (پڑی ہوتی ہے) پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے ۵  
ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی (قادر مطلق ہے جو) برحق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور یہ کہ وہ ہر چیز قدرت

رکتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۲۵﴾ ---

۳۔ اور خدا ہی تو ہے جو ہوا میں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا ۵

--- ﴿سورۃ فاطر آیت ۹﴾ ---

۵۔ اور جس وقت (صور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے (کل کر) اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے ۵

کہیں گے (اے ہے) ہمیں ہماری خوابگا ہوں سے کس نے (جگا) اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا ۵

--- ﴿سورۃ یسین آیت ۵۲﴾ ---

۶۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ (دوبارہ) ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاِنَّهُ يَنْجِي الْمَوْتٰى وَاِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

۴۔ وَاللّٰهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُحِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَدِيْءٍ مَّيْمَنٍ فَاَحْيٰنَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۵ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ۶ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۷

۶۔ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُبْعَثُوْا قُلْ نَبِيٌّ وَّرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْتَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَاذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۷ اَيْحَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ يَّجْمَعَ عِظَامُهٗ نَبِيُّ الْقَدِيْمِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانُهٗ ۸

بتائے جائیں گے اور یہ (بات) خدا کو آسان ہے ۵

--- ﴿سورۃ التھان آیت ۷﴾ ---

۷۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی (بکھری ہوئی) ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے (اور) ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں ۵

--- ﴿سورۃ القیامہ آیت ۳۲﴾ ---

## حیض

۱۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ اور کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

— ﴿سورة البقرة آیت ۲۲۲﴾ —

## خاندان اور اسکے حقوق

۱۔ (اے محمد) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ (جو چاہو خرچ کرو لیکن) جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (درجہ بدرجہ اعلیٰ استحقاق یعنی) ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو بھلائی تم کو دے گا اس کو جانتا ہے ۵

— ﴿سورة البقرة آیت ۲۱۵﴾ —

۲۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ

۱۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۵



۱۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۵

۲۔ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْحَاكِمِينَ وَالْحَاكِمِينَ وَالصَّاحِبِينَ بِالْحَقِّ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَعُورًا ۵

۳۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا

دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقاء پہلو (یعنی پاس بیٹھے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور) تکبیر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۳۶﴾ —

۳۔ اور (اے محمد) ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو یہ بیاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی



کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے ہر (حکم) قضاء (کتاب میں) مرقوم ہے ۵

خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے ۵

--- ﴿سورۃ الرعد آیت ۳۸﴾ ---

۳۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا ۵

اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں (شفقت سے) پرورش کیا ہے تو بھی ان (کے حال) پر رحمت فرما ۵

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہو گے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۳﴾ ---

۵۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا اور تمہارا پروردگار

وَذُرِّيَّتَهُ ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِيُكَلِّمَ أَجَلٍ كِتَابٍ ۖ يَمْعُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِتُ ۗ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۖ

۴۔ وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ

إِمَّا يَلْتَعِنَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ ۚ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۖ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

نَفْسِكُمْ ۗ إِنَّ لَكُمْ أُولَٰئِكَ لَكَاؤِبِينَ ۖ غَفُورًا ۖ

۵۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۖ

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۖ

۶۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ

أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ

(ہر طرح کی) قدرت رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الفرقان آیت ۵۳﴾ ---

۶۔ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں

اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے ۵

مومنو! لے پالکوں کو انکے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے

نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد دل سے کرو (اس پر مواخذہ ہے) اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

بچہ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور بچہ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کے رو سے مسلمانوں اور مہاجرین سے ایک دوسرے (کے ترکے) کے زیادہ حقدار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب (یعنی قرآن) میں لکھ دیا گیا ہے ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۶۲﴾ ---

۷۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی (راہ) ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان (کے درجے) تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے ۵

--- ﴿سورة الطور آیت ۲۱﴾ ---

۸۔ مومنو! تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن (بھی) ہیں سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو

يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
أَبَاءَهُمْ فَاخْوَالَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ الَّذِينَ آوَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ  
أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِذَا هُمْ بِغَضَبِهِمْ  
أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ  
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي  
الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

7- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ  
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ  
بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝

8- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے ۵

تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور خدا کے ہاں بڑا اجر

ہے ۵

--- ﴿سورة التباين آیت ۱۵﴾ ---

## خبیث و طیب

۱۔ مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے (راہِ خدا میں) خرچ کرو۔ اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ (اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو) بجز اس کے کہ (لیتے وقت) آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ (اور) قابل ستائش ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۶۷﴾ ---

۲۔ (لوگو) جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۷۹﴾ ---

۳۔ اور یتیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو (اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے ۵

۴۔ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتیں گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے تو عقل والو خدا سے

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ۝

۲- مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ

۳- وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

۴- قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

۵- الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ

لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا

يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ عَقُوبَةٌ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ڈرتے رہو تا کہ رستگاری حاصل کرو ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۱۰۰﴾ ---

۵۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کیلئے ہیں اور ناپاک مرد عورتوں کیلئے اور پاک عورتیں پاک مردوں کیلئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کیلئے یہ (پاک لوگ) ان (بدگو یوں) کی باتوں سے

بری ہیں (اور) ان کیلئے بخشش اور نیک روزی ہے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۶﴾ ---

## ختم نبوت

۱۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۸۵﴾ —

۲۔ آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا ۵

— ﴿سورة المائدہ آیت ۳﴾ —

۳۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں) اور خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

— ﴿سورة الاحزاب آیت ۴۰﴾ —

۴۔ اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام لوگوں کیلئے خوشخبری سنایا اور ڈرائیو والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۵

— ﴿سورة سبا آیت ۲۸﴾ —

۱۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَدِينًا فَكُنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۵

۲۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۵

۳۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ  
وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۵

۴۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۵



۱۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ  
قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ  
مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ  
مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۵ وَمَا اللَّهُ بِعَاقِلٍ عَتَا تَعْمَلُونَ ۵

## خشیتِ الہی

۱۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے جیسے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ۵

— ﴿سورة البقرہ آیت ۷۴﴾ —

- 2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ كُنتُمْ تَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ  
تَنَالَهُ آيِدْيُكُمْ وَمَا كُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ تَخَافِهِ بِالْغَيْبِ  
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦٥﴾
- 3- يٰٓبَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ  
أَنبِيَآءٌ مِّمَّنْ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَآصَلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿١٦٦﴾
- 4- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا  
لِّلْمُتَّقِينَ ۗ الَّذِينَ يُحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّن  
السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿١٦٧﴾
- 5- إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَمَزُوا سَجْدًا  
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٦٨﴾ تَتَجَافَىٰ  
جُنُوبَهُمْ ۖ عَنِ الْبَضَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦٩﴾
- 6- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
غَفُورٌ ﴿١٧٠﴾

پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔  
ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں (اور) وہ اپنے پروردگار  
کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو (مال) ہم نے ان کو دیا ہے  
اس میں سے خرچ کرتے ہیں ﴿

﴿سورة السجده آیت ۱۶۵﴾

۶۔ خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو

صاحب علم ہیں بیشک خدا غالب (اور) بخشنے والا ہے ﴿

﴿سورة فاطر آیت ۲۸﴾

۲۔ مومنو! کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو  
خدا تمہاری آزمائش کرے گا (یعنی حالت احرام میں شکار کی  
ممانعت سے) تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے  
تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اسکے لئے دکھ دینے والا عذاب  
(تیار) ہے ﴿

﴿سورة المائدہ آیت ۹۴﴾

۳۔ اے بنی آدم (ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ)  
جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو  
سنایا کریں (تو ان پر ایمان لایا کرو کہ) جو شخص (ان پر ایمان لا کر  
خدا سے) ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے  
لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے ﴿

﴿سورة الاعراف آیت ۳۵﴾

۴۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو (ہدایت اور گمراہی میں) فرق  
کر دینے والی اور (سر تاپا) روشنی اور نصیحت (کی کتاب) عطا کی  
(یعنی) پرہیزگاروں کیلئے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے  
ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں ﴿

﴿سورة الانبیاء آیت ۴۸﴾

۵۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو  
ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے

۷۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے عاقبتانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو ۵

﴿سورۃ یٰسین آیت ۱۱﴾

۸۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ۵  
یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے (یہ) اسکا بدلہ (ہے) جو وہ کیا کرتے تھے ۵

﴿سورۃ الاحقاف آیت ۱۳﴾

۹۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو باغ ہیں ۵

تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ۵

﴿سورۃ الرحمن آیت ۳۶﴾

۱۰۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں ۵

﴿سورۃ العنکبوت آیت ۲۱﴾

7- اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ الَّذِي يَذُرُ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاٰجْرٍ كَرِيْمٍ ۝  
8- اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَّلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۝ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝  
9- وَاِلٰئِذَا سَأَلَ عَنْ رَبِّكَ مَنْ فِى الْجَنَّةِ اَيُّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِيْنَ ۝  
10- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاٰتِهٖ خٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۝ وَاٰتٰكَ الْاَمْثَالَ لِنُظْرِبَ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝  
11- اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاٰجْرٌ كَرِيْمٌ ۝  
12- وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ۝



۱۱۔ (اور) جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان

کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے ۵

﴿سورۃ الملک آیت ۱۲﴾

۱۲۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور

جی کو خواہشوں سے روکتا رہا ۵

اس کا ٹھکانا بہشت ہے ۵

﴿سورۃ النازعات آیت ۲۰﴾



## (حضرت) خضرؑ

اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواہ برسوں چلتا رہوں ○

جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا ○

جب آگے چلے تو (موسیٰ نے) اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لئے کھانا لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہوگئی ہے۔

(اس نے) کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی (وہیں) بھول گیا اور مجھے (آپ سے) اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا ○

(موسیٰ نے) کہا یہ تو (وہ مقام) ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے ○

(وہاں) انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت (یعنی نبوت یا نعمت و ولایت) دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا ○

موسیٰ نے ان سے (جن کا نام خضر تھا) کہا کہ جو علم (خدا کی طرف سے) آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی (کی باتیں) سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں ○

(خضر نے) کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے ○ اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیونکر سکتے ہو ○

1- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حَقْبًا ○ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا لَبِيا حَوْثَهُمَا فَتَأخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ○ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدَا آءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ○ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِيئُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ أَدْكُرُهُ ○ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ○ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ○ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ○ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّبِعَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَوَعَدْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِيمًا ○ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ آتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ نَعْلَمَ مِنْ مَتَاعِ عِلْمِكَ رُشْدًا ○ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ○ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ○ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ○ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ○ فَانطَلَقَا ○ حَتَّىٰ إِذَا كَانَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ○ قَالَ أَخْرِقْهَا لِتَغْرُقَ أَهْلَهَا ○ لَقَدْ جُنْتُ شَيْئًا ○ إِمْرًا ○ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ○

موسیٰ نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا ○

(خضر نے) کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو (شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں ○

تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو (خضر نے) کشتی کو پھاڑ ڈالا (موسیٰ نے) کہا کیا آپ نے اس کو اس لئے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں۔ یہ تو آپ نے بڑی (عجیب) بات کی ○

(خضر نے) کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ

کر سکو گے ○

(موسیٰ نے) کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالئے ○

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ (رستے میں) ایک لڑکا ملا تو (خضر نے) اسے مار ڈالا۔ (موسیٰ نے) کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو (ناحق) بغیر قصاص کے مار ڈالا۔ (یہ تو) آپ نے بری بات کی ○

(خضر نے) کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ ○

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد (پھر) کوئی بات پوچھوں (یعنی اعتراض کروں) تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر (کے قبول کرنے میں غایت) کو پہنچ گئے ○

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو (جھک کر) گرا چاہتی تھی تو (خضر نے) اس کو سیدھا کر دیا۔ (موسیٰ نے) کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے (اس کا) معاوضہ لیتے (تاکہ کھانے کا کام چلتا) ○

(خضر نے) کہا اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی۔ (مگر) جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکتے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں (کہ وہ جو) کشتی (تھی) غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارہ کرتے تھے اور ان کے سامنے (کی طرف) ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں (تاکہ وہ اسے غصب نہ

قَالَ لَا تَأْخُذْ بَمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي  
عُسْرًا ۖ فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ  
أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۗ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ۖ  
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ  
إِنْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصِيبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ  
مِنَ لَدُنِّي عُذْرًا ۖ فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ  
اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا  
يُؤَيِّدُ بِنُحْيٍ ۖ فَقَامَا فِيهٖ قُلُوبُهُمَا ۖ لَقَدْ جِئْتُمَا آلَ فِرْعَوْنَ  
أَجْرًا ۖ قَالَ هَذَا فِرْعَوْنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ سَأَتَّبِعُكَ بِتَأْوِيلِ  
مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ أَمَا السَّيْفِينِةُ فَكَانَتْ لِسَكِينِةٍ  
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدُكَ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ  
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُ  
مُؤْمِنِينَ ۖ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَآرَدْنَا  
أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُمْ زَكَوَّةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۖ  
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ

کر سکے)

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے ہمیں اندیشہ  
ہوا کہ وہ (بڑا ہو کر بد کردار ہوگا کہیں) انکو سرکشی اور کفر میں نہ  
پھنسا دے ○

تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور (بچہ)  
عطا فرمائے جو پاک طبیعتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو  
اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی (جو) شہر میں رہتے  
تھے) اور اس کے نیچے ان کا خزانہ (مدفون) تھا اور ان کا باپ ایک  
نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ  
جائیں اور (پھر) اپنا خزانہ نکالیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی



ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کئے یہ بیان باتوں کی  
حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکتے ۵

--- ﴿سورة الكهف آیت ۸۴﴾ ---

## خلع

۱۔ طلاق (صرف) دوبار ہے (یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی  
جائے تو) پھر (عورتوں کو) یا تو بطریق شائستہ (نکاح میں) رہنے  
دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان  
کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو ہاں اگر زن و شوہر کو  
خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت  
(خاوند کے ہاتھ سے) رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے  
ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ خدا کی (مقرر کی ہوئیں)  
حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر  
نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۲۹﴾ ---

۲۔ مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔

تَحْتَهُ كُنُزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ  
يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنُزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا  
فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۵

۱۔ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ سَفَامَاكَ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةً بِإِحْسَانٍ ۵  
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا  
أَلَّا يَفِيئَا حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيئَا حَدُودَ اللَّهِ ۵  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِفْتَدَتْ بِهِ ۵ تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ  
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۵ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ۵

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا  
تَعْضَلُوهُنَّ لِيَذَّبْنَ هُنَّ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۵

اور (دیکھنا) اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں  
سے کچھ لے لو انہیں (گھروں میں) مت روک رکھنا ہاں اگر وہ  
کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں (تو روکنا مناسب نہیں)  
اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو  
عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں بہت سی بھلائی  
پیدا کر دے ۵

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی  
عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا بھلا

تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟  
اور تم دیا ہوا مال کیونکر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے  
ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد و امان بھی لے چکی ہیں ۵

﴿سورة النساء آیت ۲۱ تا ۲۹﴾

۳۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے  
رضیقتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی  
قرارداد پر صلح کر لیں اور صلح خوب (چیز) ہے اور طبیعتیں تو بخل کی  
طرف مائل ہوتی ہیں اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیزگاری کرو گے تو  
خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۲۸﴾

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّا كَانَتْ زَوْجًا وَأَنْتُمْ أَحَدٌ مِّنْهُنَّ  
فَقَطِّارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ مَثِيًّا ۚ أَتَأْخُذُونَ بَهْتَانًا  
وَأَنْتُمْ مُّسِيئَاتٌ ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَكَدْ أَفْطَىٰ بَعْضُكُمْ  
إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّمَّا كَانُوا عَلَيْكُمْ ۚ

۳۔ وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا شُرُوكَ الْأَوْعَارَ فَلَاحْتِجَابٍ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْرِبَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّرَّ ۚ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَقْوًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ

۱۔ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا  
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۚ قَالَ يَا بُنَيَّ  
لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ  
الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ  
رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُنمِّي نِعْمَتَهُ

## خواب دیکھنا

نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ۵

اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ (و ممتاز) کرے گا اور (خواب

کی) باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی

نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی

۱۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے (خواب

میں) گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا (کیا)

ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں ۵

انہوں نے کہا کہ بیٹا! اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا

نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے کچھ شک

طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بیشک تمہارا پروردگار (سب کچھ) جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

— (سورۃ یوسف آیت ۶۲۳) —

۲۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں (نے خواب دیکھا ہے) دیکھتا (کیا) ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور (سات) خشک اے سردار و اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ ۵ انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی ۵

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آگئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اسکی تعبیر (لا) بتاتا ہوں مجھے (جیل خانے) جانے کی اجازت دیجئے ۵

(غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا) یوسف اے بڑے سچے (یوسف) ہمیں (اس خواب کی تعبیر) بتائیے کہ سات موٹی گاؤں کو سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ (تمہاری قدر) جانیں ۵

عَلَيْكَ وَعَلَى الْيَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا عَلَى أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
۲- وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرًا وَأُخْرَى سُيُوفٌ يَأْكُلْنَ  
الْمَلَآءَ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا  
تَعْبِرُونَ ۝ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ  
الْأَحْلَامِ بِعُلَمَاءِنَا ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ  
بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝ يُوسُفُ  
أَلَيْهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرًا وَأُخْرَى سُيُوفٌ لَعَلَّيْ  
أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ  
سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُونَهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا  
مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا  
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ

انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو (غلہ) کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا ۵

پھر اس کے بعد (خشک سالی کے) سات سخت (سال) آئیں گے کہ جو (غلہ) تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا کہ خوب مینہ برے گا اور لوگ

اس میں رس نچوڑیں گے ۵

--- ﴿سورۃ یوسف آیت ۲۹-۳۳﴾ ---

۳۔ جب وہ انکے ساتھ دوڑنے (کی عمر) کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ (گویا) تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا ۵  
جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا ۵

تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم ۵

تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الصافات آیت ۱۰۱-۱۰۲﴾ ---

۴۔ بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا (اور) صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتر واکر امن وامان سے داخل ہو گے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے جو بات تم نہیں جانتے تھے اسکو معلوم تھی سوا اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرادی ۵

--- ﴿سورۃ الفتح آیت ۲۷﴾ ---

خواب دیکھنا: مزید حوالے: یوسف: ۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱

## خواہش پرستی

۱۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو (ان سے) کہہ دو کہ خدا کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے پیغمبر) اگر تم اپنے پاس علم (یعنی وحی خدا) کے آجانے پر بھی انکی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو (عذابِ خدا سے) بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ۵

— ﴿سورة البقرہ آیت ۱۲۰﴾ —

۲۔ اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۲۷﴾ —

۳۔ اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کیلئے سچی گواہی دو خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم پیچدار شہادت دو گے یا (شہادت سے) بچنا چاہو گے تو (جان رکھو) خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۱۳۵﴾ —

1- وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَكْتُمَ مِلَّةَهُمْ قُلْ  
إِن يَهْدَىٰ اللَّهُ فِئْتَهُ الْهُدَىٰ وَلَئِن أُتْبِعَتْ أَهْوَاءَهُمْ لَبَعْدَ الَّذِي  
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرَةٍ  
2- وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ  
الشَّمْهَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا  
3- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ  
لِلَّهِ وَكُونُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَّالِدِينَ وَلَا تُقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ  
غَيْبًا أَوْ قَعِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهَمَّابٍ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ  
تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ نَعَرَصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا  
4- فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا  
الشَّمْهَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَابًا  
5- وَكُلُوا مِنْهُ الْحَلَالَ مِمَّا أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ  
وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ بَلْ أَنْتَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهَمٌّ عَنْ ذِكْرِهِمْ  
مُعْرِضُونَ ۗ

۴۔ پھر ان کے بعد چندنا خلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو (چھوڑ دیا۔ گویا اسے) کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ سو عنقریب ان کو گمراہی (کی سزا) ملے گی ۵

— ﴿سورة مريم آیت ۵۹﴾ —

۵۔ اور اگر (خدا نے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان (اور) زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت (کی کتاب) پہنچا دی ہے ۵

اور وہ اپنی (کتاب) نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں ۵

— ﴿سورة المؤمنون آیت ۷۱﴾ —

۶۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ۵

یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ (نہیں) یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۲۳، ۲۴﴾ ---

۷۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں (کتابوں) سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں ۵

پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے بیشک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

--- ﴿سورة القصص آیت ۲۹، ۵۰﴾ ---

۸۔ مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۲۹﴾ ---

6- ارعيت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا  
ام تحسب ان اكثرهم سمعون او يعقلون ان هم الا  
كالا نعام بل هم اضل سبيلا

7- قل فانوا يكتب من عند الله هو اهدي منهما اتبعه  
ان كنتم صدقين فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما  
يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير  
هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين  
بل الله الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي  
من اضل الله وما لهم من نصيرين

9- يداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس  
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان  
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما  
نسوا يوم الحساب

۹۔ اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب (تیار) ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے ۵

--- ﴿سورة ص آیت ۲۶﴾ ---

## خودکشی

۱۔ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ خداتم پر مہربان

ہے ۰

— ﴿سورۃ النساء آیت ۲۹﴾ —

## خوشبو

۱۔ اور اسی نے خلقت کیلئے زمین بچائی ۰

اس میں میوے اور گجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف

ہوتے ہیں ۰

اور اناج جس کے ساتھ بھسن ہوتا ہے اور خوشبودار پھول ۰

تو (اے گروہ جن و انس) تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو

جھٹلاؤ گے؟ ۰

— ﴿سورۃ الرحمن آیت ۱۳ تا ۱۰﴾ —

۱۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

۱۔ وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنْبِيَاءِ ۝ فِيهَا قَائِمَةٌ ۝ وَالنَّخْلُ  
ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْعَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۝ وَالزَّيْتَانُ ۝ فَبِأَيِّ  
آيَةٍ رَّبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝

## خیانت

۱۔ (اے پیغمبر) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو اور دیکھو دعا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا ۵

اور خدا سے بخشش مانگنا۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۰۷ تا ۱۰۵﴾ ---

۲۔ اے ایمان والو! نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم (ان باتوں کو) جانتے ہو ۵

--- ﴿سورۃ الانفال آیت ۲۷﴾ ---

۳۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دعا بازی کا خوف ہو تو (ان کا عہد) انہیں کی طرف پھینک دو (اور) برابر (کا جواب دو) کچھ شک نہیں کہ خدا دعا بازوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورۃ الانفال آیت ۵۸﴾ ---

۴۔ خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بیشک

- ۱۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخٰبِیِّیْنَ حَصِیْبًا ۙ وَاسْتَغْفِرِ اللهُ ۙ اِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا ۙ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِیْنَ یَخْتٰنُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۙ اِنَّ اللهَ لَا یُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوٰنًا اٰیْمًا ۙ
- ۲۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُونُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُونُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ
- ۳۔ وَاَمَّا تَخٰفَقْنَ مِنْ قُوْرِ خِیَاۡنَةٍ فَاَقْبِلُوْهُنَّ عَلٰی سَوَآءٍ ۙ اِنَّ اللهَ لَا یُحِبُّ الْخٰبِیِّیْنَ ۙ
- ۴۔ اِنَّ اللهَ یُدْفِعُ عَنِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ اِنَّ اللهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ خَوٰنٍ كٰفُوْرٍ ۙ
- ۵۔ یَعْلَمُ خٰیۡبَةَ الْاَعْیُنِ وَمَا تُغْفِی الصُّدُوْرُ ۙ



خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفرانِ نعت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۳۸﴾ ---

۵۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو (باتیں) سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۱۹﴾ ---



نیز دیکھیے: امانت

مزید حوالے: المائدہ: ۱۳- الانفال: ۷۱- یوسف: ۵۳- النحل: ۹۱-۹۲-۹۳-



## خیرات

۱۔ اور خدا کی راہ میں (مال) خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بیشک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۹۵﴾ ---

۲۔ (اے محمد) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہ (جو چاہو خرچ کرو لیکن) جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی) ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۵﴾ ---

۳۔ اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کیلئے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کونسا مال خرچ کریں کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح خدا تمہارے لئے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۹﴾ ---

۱- وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۵

۲- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ وَالرِّدِّينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْبَيْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۵

۳- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَانٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلاِثْمَةٌ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۵

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۵

۵- مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ قَائِمَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۵

۴۔ اے ایمان والو جو (مال) ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵۴﴾ ---

۵۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس (کے مال)

کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کشائش والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے ۵

جو لوگ اپنا مال خدا کی رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا (کسی پر) احسان رکھتے ہیں اور نہ (کسی کو) تکلیف دیتے ہیں ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس (تیار) ہے اور (قیامت کے روز) نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۶۲﴾ ---

۶۔ اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو (جب) اس پر مینہ پڑے تو وہ گنا پھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۶۵﴾ ---

۷۔ مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے (راہِ خدا میں) خرچ کرو۔ اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو (بجز اسکے کہ) (لیتے وقت) آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو۔ اور جان رکھو کہ خدا بے پروا (اور) قابل

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَلْبَسُوا مَا كَانُوا  
مَتًا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۵

6- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  
وَتَهْمِيئًا مِمَّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَذَّةٍ أُصَابَتْ وَابِلٌ  
فَأَتَتْ أَكْطَافَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۵

7- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَعْيُنِنَا إِلَّا أَنْ تُقِيمُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ حَمِيدٌ ۵

8- وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
تُظْلَمُونَ ۵

9- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

سٹائش ہے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۶۷﴾ ---

۸۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دید یا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۷۲﴾ ---

۹۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر (راہِ خدا میں) خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا

﴿سورة البقرہ آیت ۲۷۴﴾

۱۰۔ (مومنو!) جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں (راہِ خدا میں) صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے

﴿سورة آل عمران آیت ۹۲﴾

۱۱۔ جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی

کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دیگا وہ تو بخششے والا (اور) قادر دان ہے

﴿سورة قاطر آیت ۲۹-۳۰﴾

۱۲۔ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس (مال) میں اس

يَمْزُونَ

۱۰۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

۱۱۔ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرَجُونَ حِسَابًا لَّنْ نَّبْرِءُ لِيُوقِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَنَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا لَعَفُورٌ شَكُورٌ

۱۲۔ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ



نے تم کو (اپنا) نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو جو لوگ تم میں

سے ایمان لائے اور (مال) خرچ کرتے رہے ان کے لئے بڑا

ثواب ہے

﴿سورة الحديد آیت ۷﴾



## دانائی

۱۔ اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشیں ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۲۱﴾ ---

۲۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۶۹﴾ ---

۳۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور (خدا کی) کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور

پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۶۳﴾ ---

۴۔ اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۱۳﴾ ---

۵۔ (اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان

۱- وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۲- يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

۳- لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِمَّنْ أَنْفُسُهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

۴- وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

۵- أَدْعُرُّ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

۶- وَادْكُرْنَا مَا يُطَلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝

سے مناظرہ کرو جو اس کے رستے سے بھگ گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۱۲۵﴾ ---

۶۔ اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت (کی باتیں سنائی جاتی ہیں) ان کو یاد رکھو۔ بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۳۴﴾ ---

## دانشور

۱۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بیشک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند

ہیں ۰ ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۶۹﴾

## دائیں بازو والے

۱۔ اور داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا (ہی)

عیش میں) ہیں ۰

(یعنی) بے خار کی بیڑیوں ۰

اور تہ بتہ کیلوں ۰

اور لمبے لمبے سایوں ۰

اور پانی کے جھرنوں ۰

اور میوہائے کثیرہ (کے باغوں) میں ۰

جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے ۰

اور اونچے اونچے فرشوں میں ۰

ہم نے ان (حوروں) کو پیدا کیا ۰

تو ان کو کنواریاں بنایا ۰

(اور شوہروں کی) پیاریاں اور ہم عمر ۰

(یعنی) داہنے ہاتھ والوں کے لئے ۰

(یہ) بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں ۰

۱- يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝



۱- وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۖ وَظِلٍِّ مَّشْدُودٍ ۖ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۖ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۖ إِنْ أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ۖ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۖ عُرْبًا أَتْرَابًا ۖ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۖ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ فِي سَمُورٍ وَتَحْمِيرٍ ۖ وَظِلٍِّ مِّنْ يَّمُورٍ ۖ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۖ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۖ

اور بہت سے پھولوں میں سے ۰

اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (ہی عذاب

میں) ہیں ۰

(یعنی دوزخ کی) لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں ۰

اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ۰

(جو) نہ ٹھنڈا (ہے) نہ خوشنما ۰

یہ لوگ اس سے پہلے عیشِ نعیم میں پڑے ہوئے تھے ۰

اور گناہِ عظیم پراڑے ہوئے تھے ۰

﴿سورۃ الواقعة قصص آیت ۲۶ تا ۳۲﴾

دانشور: نیردیکھئے: دانائی

۲۔ اور جس کا نامہ (اعمال) اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائیگا

وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا (اعمال) نامہ نہ دیا جاتا

اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے

اے کاش موت (ابدالاً باد کیلئے میرا کام) تمام کر چکی ہوتی

(آج) میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا

(ہائے) میری سلطنت خاک میں مل گئی

(حکم ہوگا کہ) اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو

پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو

پھر زنجیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکڑ دو

یہ نہ تو خدائے جل شانہ پر ایمان لاتا تھا

اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا

سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں

اور نہ پیپ کے سوا (اس کے لئے) کھاتا ہے

جس کو گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا

--- ﴿سورة المائدة آیت ۲۷-۲۸﴾ ---

۳۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہی ہے

مگر وہی طرف والے (نیک لوگ)

(کہ) وہ باغبنائے بہشت میں (ہونگے اور) پوچھتے ہونگے

(یعنی آگ میں جلنے والے) گنہگاروں سے

کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟

۲- وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمَّا أُوتِ

كِتَابِيهِ ۖ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيهِ ۖ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۖ

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَا لِيهِ ۖ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۖ خُدُوهُ

فَعَلُوهُ ۖ ثُمَّ الْحَبِيمَ صَلْوُهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

الْعَظِيمِ ۖ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۖ فَلَئِمَّ لَهُ

الْيَوْمَ هُنَّ حَمِيمٌ ۖ وَلَا طَعَامًا إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ ۖ لَا

يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۖ

۳- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ إِلَّا آصْحَابَ الْيَمِينِ ۖ

فِي جَنَّتٍ شَتَّىٰ ۖ إِنَّمَا رُكُونُ ۖ عَنِ الْعَجْرَمِينَ ۖ مَا سَلَكُكُمْ

فِي سَقَرٍ ۖ قَالُوا لِمَ لَمْ تَكُ مِنَ الْمَصْلُومِينَ ۖ وَلَمْ تَكُ تَطْعِمُ

الْمِسْكِينِ ۖ وَكُنَّا تَخَوِّصُ مَعَ الْخَاطِئِينَ ۖ وَكُنَّا تُكذِّبُ

بِئْمَارِ الدِّينِ ۖ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ۖ فَمَا تَنْفَعُهُمْ

شَفَاعَةُ الشَّفَاعِينَ ۖ



وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے

اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے

اور اہل باطل کے ساتھ مل کر (حق سے) انکار کرتے تھے

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے

یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی

تو اس حال میں (سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق

میں کچھ فائدہ نہ دی گئی

--- ﴿سورة المدثر آیت ۳۸﴾ ---

## درخت

۱۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے) ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو ۵

اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور (اور بیٹار درخت) اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل (پیدا کرتا ہے) غور کرنے والوں کیلئے اس میں (قدرت خدا کی بڑی) نشانی ہے ۵

— ﴿سورة النحل آیت ۱۱۰﴾ —

۲۔ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور (کس نے) تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا (ہم نے) پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں ۵

— ﴿سورة النحل آیت ۶۰﴾ —

۳۔ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو ۵

کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ۵

ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے ۵

۱۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ نَجْعٌ فِيهِ تُسَيِّبُونَ ۝ يَنْبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّجِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۲۔ آمَنَ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْتِغُوا نَجْعَهَا ۚ وَاللَّهُ مَعَ الظَّالِمِينَ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝

۳۔ أَقْرَبَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۚ وَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنِشِئُونَ ۚ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَمَاعًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَسُبْحَانَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

۱۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو ۵

— ﴿سورة الواقعة آیت ۷۳﴾ —

## درود و سلام

۱۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں مومنو! تم بھی پیغمبر

پر درود اور سلام بھیجا کرو ۵

— ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۶﴾ —

## دریاؤں اور نہروں کا ذکر

۱۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے (خدا سے) پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاشی پتھر پر مارو (انہوں نے لاشی ماری) تو پھر اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر (کے پانی پی) لیا (ہم نے حکم دیا کہ) خدا کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۶۰﴾ ---

۲۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۷۴﴾ ---

۳۔ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے اور ہر طرح کے میوؤں کی دودھ قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کے لئے اس میں

بہت سی نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الرعد آیت ۲﴾ ---

۱- وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ۗ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

۲- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ۖ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

۳- وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ ۖ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَىٰ الْبَيْلَ النَّهَارَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۴- وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَكَلَّمَا مِنْهُ لِحَمِيمًا طَرِيقًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَىٰ الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَتَسَنَّعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۵- أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِيٍّ يَمُوجُ ۖ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ۖ مِنْ

۲۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اور اس لئے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا) کہ تم خدا کے فضل سے (معاش) تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۱۴﴾ ---

۵۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے (جیسے دریا ئے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو) اور اس کے اوپر اور لہر



(آری ہو اور) اسکے اوپر بدل ہو غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک (چھایا ہوا) جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی) روشنی نہیں (مل سکتی) ○

--- ﴿سورة النور آیت ۳۰﴾ ---

۶۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی ○

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۵۳﴾ ---

۷۔ اور دونوں دریا (مل کر) یکساں نہیں ہو جاتے یہ تو بیٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ (پانی کو) پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو ○

--- ﴿سورة فاطر آیت ۱۲﴾ ---

۸۔ اسی نے دو دریا رواں کئے جو آپس میں ملتے ہیں ○  
دونوں میں ایک آڑ ہے کہ (اس سے) تجاوز نہیں کر سکتے ○

قَوِّمَهُ سَعَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضُهُمَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدًا لَمْ يَكْذِبْ لِيَهَيَّا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ○  
6- وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا وَلَهُمْ أَجَاظٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُودًا ○  
7- وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِبٌ شَرَابُهُ وَهَذَا وَلَهُمْ أَجَاظٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكَلُونَ لِمَا ظَرَبُوا وَتَسْتَفْرِجُونَ جَلِيَّةً تَلْبَسُوهَا وَتَمْرِي الْعُلَّكُ فِيهِ مَوَاجِرٌ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○  
8- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُخْرِجُ مِنْهُمَا الْمَوْءُؤَاءَ وَالْمَرْجَانَ ○ فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَاقِ ○ فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○



تو تم اپنے پروردگاری کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں ○

تو تم اپنے پروردگاری کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○

اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے

کھڑے ہوتے ہیں ○

تو تم اپنے پروردگاری کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ○

--- ﴿سورة طٰه: ۱۹-۲۵﴾ ---

## دشمنی

۱۔ اے ایمان والو! خدا کیلئے انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے ۵

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۸﴾ —

۲۔ اور جو لوگ (اپنے تئیں) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کیلئے دشمنی اور کینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا ۵

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۱۳﴾ —

۳۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ (گردن سے) بندھا ہوا ہے (یعنی اللہ بخیل ہے) انہیں کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو بلکہ اسکے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور (اے محمد) یہ (کتاب) جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا اور ہم نے ان کے

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْرٍ عَلَىٰ مَا أَلْبَسْتُمْ وَأَعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝  
۲- وَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِنَّا قَهْمُ فَسَوْا حَقًّا وَمِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ مَا قَاغَرْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَسَوْفَ يَنْتَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

۳- وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۖ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۖ بَلْ يَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةٌ لِّيُفِئَ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ وَلْيَذِئِدَن كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ طُفْيَانًا وَ كُفْرًا ۖ وَ لَقِينَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ كُلَّمَا أَقْدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۖ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ ۝  
۴- لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ

باہم عداوت اور بغض قیامت تک کیلئے ڈال دیا ہے جب لڑائی کے لئے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ ملک میں فساد کیلئے دوڑتے پھرتے ہیں اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۲۴﴾ —

۴۔ (اے پیغمبر) تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں ۵

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۸۲﴾ —

۵۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو (ان کاموں سے) باز رہنا چاہئے ۵

--- ﴿سورة المائدة آیت ۹۱﴾ ---

۶۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے اور یہ بات ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں ۶

--- ﴿سورة حم السجدة آیت ۲۵﴾ ---

۷۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقاء کی نیک چال چلنی (ضرور) ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں (اور)

۵۔ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ۝

۶۔ وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِذْقِعْ بِالَّذِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَوٰی حَمِيْمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيْهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلْقِيْهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

۷۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بَرّءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَعَنَّا يَكْفُرًا بِكُمْ وَاِبْنَانَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اَبَدًا حَتّٰى تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحَدَّةً



تمہارے (مجمودوں کے کبھی) قاتل نہیں (ہو سکتے) اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی ۷

--- ﴿سورة المتحن آیت ۴﴾ ---



مزید حوالے: البقرة: ۳۶-۸۵-۱۹۳- آل عمران: ۱۰۳- النساء: ۲۹-۹۱- المائدة: ۳-۶۵- الانعام: ۱۱۲-۱۱۹- الاعراف: ۱۲۸-۱۲۹-

الانفال: ۶۱- التوبة: ۸۳-۱۲۱- الکہف: ۵۱- طہ: ۳۹-۸۰- القصص: ۲۸- النفقون: ۳- المتحین: ۱۳-

## دُعا

۱۔ اور (اے پیغمبر) جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو (کہہ دو کہ) میں تو (تمہارے) پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہئے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۱۸۶﴾ ---

۲۔ اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور خدا سے اس کا فضل (دکرم) مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۲﴾ ---

۳۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے (جب) کہ تم اسے عاجزی اور نیاز پہنائی سے پکارتے ہو (اور) کہتے ہو (اگر خدا ہم کو اس (شگلی) سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں) ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۶۳﴾ ---

۴۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا (قبلے کی طرف) رخ کیا کرو اور

۱- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِعَاقِمِي يَُرْشِدُونَ ۝

۲- وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

۴- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۚ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۗ

۵- اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۗ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

۶- وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۗ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝

خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو اس نے جس طرح تم کو

ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہو گے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۲۹﴾ ---

۵۔ (لوگو) اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں

مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے

ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی

رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۶﴾ ---

۶۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور (دیکھنا) غافل نہ ہونا ۰

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۲۰۵﴾ ---

۷۔ کہہ دو کہ تم (خدا کو) اللہ (کے نام سے پکارو یا رحمن) (کے نام سے) جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو ۰

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱۱۰﴾ ---

۸۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اس کی) تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے (یہ سب کچھ خدا کرتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟) ہرگز نہیں مگر تم بہت کم غور کرتے ہو ۰

--- ﴿سورة النمل آیت ۶۲﴾ ---

۹۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے

7- قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوْنَ فَلَهُ  
الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۗ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا  
وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝

8- اَمِّنْ مِّنْ مُّجِيبِ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَاہُ وَیَكْشِفُ الشُّوْءَ وَ  
یَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اِلٰهَ مَعَهُ الْقَبِيْلَ مَآ  
تَدْعُوْنَ ۝

9- هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمْ اٰیٰتِہٖٓ وَیَنْزِلُ لَکُمْ مِنَ السَّمَآءِ بَرَآئِ  
وَمَا یَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ یُّنِیْبُ ۝ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَہٗ  
الدِّیْنَ وَکُوْکِبَ الْکٰفِرُوْنَ ۝



رزق اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو (اس کی طرف) رجوع کرتا ہے ۰

تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برای مانیں ۰

--- ﴿سورة المؤمن آیت ۱۳، ۱۴﴾ ---



## دنیا و آخرت

۱۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زمینت دار معلوم ہوتی ہیں (مگر) یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانا ہے ۵

(اے پیغمبران سے) کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو (سنو) جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کیلئے خدا کے ہاں باغات (بہشت) ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور (سب سے بڑھ کر) خدا کی خوشنودی اور خدا (اپنے نیک) بندوں کو دیکھ رہا ہے ۵

﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۵۴﴾

۲۔ مومنو! تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں (جہاد کیلئے) نکلو تو تم (کاہلی کے سبب سے) زمین پر گرے جاتے ہو (یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے) کیا تم آخرت (کی نعمتوں) کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت کم ہیں ۵

۱۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ ۗ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِعَهْدِي مِنَ ذَلِكَ لَلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۗ

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَاقُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۗ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ مَنْ كَانَ يَرْجِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفَ الْبُهْمِ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُعْمَلُونَ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۗ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ

۳۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی ۵  
یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا ۵

﴿سورۃ ہود آیت ۱۶۱﴾

۴۔ خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت (کے مقابلے) میں بہت تھوڑا فائدہ ہے ۵

— ﴿سورۃ الرعد آیت ۲۶﴾ —

۵۔ جو شخص دنیا (کی آسودگی) کا خواہشمند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر اس کے لیے جہنم کو (ٹھکانا) مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور (درگاہ خدا سے) راندہ ہو کر داخل ہوگا ۵ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے ۵

ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش (کسی سے) رکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں (دنیا سے) بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے ۵

— ﴿سورۃ بنی اسرائیل ۲۱۸﴾ —

۶۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (رونق و) زینت ہیں اور

۴۔ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَقَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

۵۔ مَن كَانَ يُرِيْدُ الْعٰجِلَةَ جَعَلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَفَاۗءً لِّمَنۡ يُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّذْحُوْرًا ۝ وَمَنۡ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰ لَهَا سَعِيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعِيْهُم مَّشْكُوْرًا ۝ كَلَّا لَمُبَدَّلٌ ۗ هٰٓؤُلَاءِ وَهٰٓؤُلَاءِ مِنْ عَطَاۗءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَاۗءُ رَبِّكَ يَحْظُوْرًا ۝ اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَكَلَّا خِرَتٌ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝

۶۔ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ ۗ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝ وَمَا اَوْتِيْتُمْ مِّنۡ شَيْءٍ فَمَا تَعْرَضُوْنَ لِهَا وَنَسِيْتُمْهَا ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْغِيْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۙ

نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں ۵

— ﴿سورۃ الکہف آیت ۳۶﴾ —

۷۔ اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟

— ﴿سورۃ القصص آیت ۶۰﴾ —

۸۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور (ہمیشہ)

زندگی (کا مقام) تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ (لوگ) سمجھتے ۵

— ﴿سورة العنكبوت آیت ۶۳﴾ —

۹۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں

ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر

درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع

کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے ۵

اور اگر یہ (خیال) نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں

گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں

چاندی کی بنا دیتے اور بیڑھیاں (بھی) جن پر وہ چڑھتے ۵

اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے

ہیں ۵

اور (خوب) تجل و آرائش کر دیتے) اور یہ سب دنیا کی زندگی کا

تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار (کے ہاں

پر ہمیزگاروں کے لئے ہے ۵

— ﴿سورة الزخرف آیت ۲۳﴾ —

۱۰۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت

۸۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ  
الْاٰخِرَةَ لِهِيَ الْحَيٰوةُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

۹۔ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةً رَّبِّكَ ۚ تَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ  
فَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيَّاتٍ ۚ وَرَحْمَةً رَّبِّكَ خَيْرٌ  
مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝ وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً  
لَجَعَلْنَا لِهَيْبَتِكَ الْفُرْقَانَ لِيُوْثِقَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ  
وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْاٰيٰتِ الْوَارِثٰتِ  
وَلِيُذَكِّرَ الَّذِيْنَ لَمْ يَمْتَسِكُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  
وَالْاٰخِرَةَ عِنْدَ رَّبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

۱۰۔ اِعْلَمُوْا اَنَّهَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۚ وَلَهُمْ وَاٰتٍ وَّزِينَةٌ  
وَتَفَاوُخٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ  
اَنْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُضْغَرًا ثُمَّ  
يَكُوْنُ حُطَّامًا ۚ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَ  
مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا

کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب (و خواہش) ہے (اس کی مثال

ایسی ہے) جیسے بارش کہ (اس سے کھیتی اگتی اور) کسانوں کو کھیتی

بھلی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پڑاتی ہے پھر (اے دیکھنے والے) تو

اس کو دیکھتا ہے کہ (پک کر) زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی

ہے اور آخرت میں (کافروں کے لیے) عذاب شدید اور

(مومنوں کے لئے) خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور

دنیا کی زندگی تو متاعِ فریب ہے ۵



۱۱۔ مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو ۵

حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے ۵

﴿سورۃ الاعلیٰ آیت ۱۷﴾

دودھ

۱۔ اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی (مقام) عبرت (و غور)

ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص

دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کیلئے خوشگوار ہے ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۶۶﴾

دوستی

۱۔ مومنوں کو چاہئے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ

بنائیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ (عہد) نہیں۔

ہاں اگر اس طریق سے تم ان (کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا

کردو (تو مضائقہ نہیں) اور خدا تم کو اپنے (غضب) سے ڈراتا

ہے اور خدا ہی کی طرف (تم کو) لوٹ کر جانا ہے ۵

﴿سورۃ آل عمران آیت ۲۸﴾

مَتَاعُ الْعُرْوَةِ

۱۱۔ بَلْ تُؤَيَّدُونَ الْعِوَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَنْتُمْ

۱۔ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْذِنُوا مِنِّي بِطَوْبِهِ مِنْ  
بَيْنِ قَرْيَةٍ وَذَرْتُمَا خَالِصًا سَابِقًا لِلشَّرِيبِينَ ۵

۱۔ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا  
مِنْهُمُ نَفْسًا وَيَحذَرُوا اللَّهَ نَفْسًا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۵  
۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ بَنِي دُونِكُمْ لَا  
يَأْتُونَكُم بِخَبْرٍ وَدُونَ مَا عِنْتُمْ قَدْ هَدَبَ الْبَعْضَاءُ  
مِنَ أَقْوَامِهِمْ وَمَا تَلْفَعُونَ صُدُورَهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ

۲۔ مومنو! کسی غیر (مذہب کے آدمی) کو اپنا راز دار نہ بنانا یہ لوگ

تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے) میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں

کرتے اور چاہتے ہیں کہ (جس طرح ہو) تمہیں تکلیف پہنچے

ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو (کینے)

ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں

اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنادی

ہیں ۰

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۱۸﴾ ---

۳۔ اے اہل ایمان! مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ

بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خدا کا صریح الزام لو ۰

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۱۴﴾ ---

۴۔ اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ یہ ایک

دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست

بنائے گا وہ بھی انہیں میں سے ہوگا۔ بے شک خدا عالم لوگوں کو

ہدایت نہیں دیتا ۰

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۵۲﴾ ---

۵۔ تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں

جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور (خدا کے آگے) جھکتے ہیں ۰

اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا

تو (خدا کی جماعت میں داخل ہوگا اور) خدا کی جماعت ہی غالب

پانے والی ہے ۰

الآیة ان کنتم تعقلون ۰

۳۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْکٰفِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ؕ اَتُرِیْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَیْکُمْ سُلْطٰنًا مُّبِیْنًا ۰

۴۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْیَہُوْدَ وَالنَّصٰرَیْ اَوْلِیَآءَ ۗ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ یَّتَوَلَّهُمْ فَاِنَّہٗ مِنْہُمْ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ۰

۵۔ اِنَّمَا وَلِیْکُمْ اللّٰہُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوَةَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّکٰوٰةَ وَہُمْ رٰکِعُوْنَ ۰ وَمَنْ یَّتَوَلَّ اللّٰہَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰہِ ہُمُ الْغٰلِبُوْنَ ؕ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا دِیْنَکُمْ ہُزُوًا وَّلَہٰبًا مِّنَ الَّذِیْنَ اٰتَوْا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَالکٰفِرَیْنَ اَوْلِیَآءَ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰہَ اِنَّ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۰ وَاِذَا نَادَیْتُمْ اِلَی الصَّلٰوَةِ اتَّخَذُوْہَا ہُزُوًا وَّلَہٰبًا ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّہُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُوْنَ ۰

اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو

اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے

دوست نہ بناؤ اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو ۰

اور جب تم لوگ نماز کے لئے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور

کھیل بناتے ہیں۔ یہ اسی لئے کہ سمجھ نہیں رکھتے ۰

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۵۸﴾ ---

۶۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا۔ بیشک خدا

غالب حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۱۷﴾ ---

۷۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبروں کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی رو سے مسلمانوں اور مہاجرین سے ایک دوسرے (کے ترکے) کے زیادہ حق دار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یہ

حکم کتاب (یعنی قرآن) میں لکھ دیا گیا ہے ۵

--- ﴿سورة احزاب آیت ۶﴾ ---

۸۔ مومنو! اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لئے (مکہ سے) نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ (دین) حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے اس کے منکر ہیں اور

مزید حوالے: المستحذہ: ۷-۹

۶۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۵

۷۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ ۵ إِنَّ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ جَهَنَّمَ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۵ تُسَرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ۵ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۵ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۵

۸۔ اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علی الاعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ۵

--- ﴿سورة المستحذہ آیت ۱﴾ ---

## دھاتیں

۱۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زمینت دار معلوم ہوتی ہیں۔ (مگر) یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں۔ اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانا ہے ۵

— سورة آل عمران آیت ۱۴۲ —

۲۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب الیم کی خبر سنا دو ۵

— سورة التوبہ آیت ۳۴ —

۳۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو (انکا مسخر کر دیا) اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا ۵

۱- زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ۝  
 ۲- وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝  
 ۳- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۗ لِيَجِبَالَ أَقْرَبَ مَعَهُ وَالظَّالِمِينَ ۗ وَالنَّارَ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُ ۗ أَنِ اعْمَلِ الْبِرَّ ۗ وَتَقَرَّبْ إِلَىَّ ۗ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝  
 وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْوَيْحَ ۗ وَغَدَوْنَا صَهْرًا ۗ وَرَوَّاحَهَا صَهْرًا ۗ وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْوَيْحَ ۗ

کہ کشادہ زر ہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازہ سے جوڑو اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں ۵

اور ہوا کو (ہم نے) سلیمان کا تابع کر دیا تھا اسکی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور ان کیلئے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا ۵

## دھوکہ

۱۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے ۰

جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں ۰

اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں ۰

--- ﴿سورۃ المطففین آیت ۳ تا ۴﴾ ---

## دیت

۱۔ مومن! تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص (یعنی خون کے بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے (اس طرح پر کہ) آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اسکے (مقتول) بھائی (کے قصاص میں) سے کچھ معاف کر دیا جائے تو (وارث مقتول کو) پسندیدہ طریق سے (قرارداد کی) پیروی (یعنی مطالبہ خون بہا) کرنا اور (قاتل کو) خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہئے یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو اسکے بعد زیادتی

۱- وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأْتِيًَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَىٰ ذِي إِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ

۲- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

کرے اسکے لئے دکھ کا عذاب ہے ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۷۸﴾ ---

۲۔ اور کسی مومن کو شایاں نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ذِيئَاتُ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتُحْرِمُونَ  
رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَوْسِيًّا مِنْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
تُؤْتَىٰ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

- 1- فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ  
بِوَعَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝
- 2- مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۗ وَهُوَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
- 3- وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّأْمُرُ ۙ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرِينَ ۙ وَوُجُودَ يَوْمَئِذٍ  
بَاسِرِينَ ۙ تَنْظُرُونَ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا ۙ ۝

مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے  
ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون  
بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور جس کو یہ میسر نہ  
ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ (کفارہ) خدا کی طرف  
سے (قبول) توبہ (کے لئے) ہے اور خدا سب کچھ جانتا (اور)  
بڑی حکمت والا ہے ۝

— ﴿سورۃ النساء آیت ۹۲﴾ —

## دیدارِ الہی

۱۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہئے کہ عمل  
نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ  
بنائے ۝

— ﴿سورۃ الکہف آیت ۱۱۰﴾ —

۳۔ اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے ۝  
(اور) اپنے پروردگار کے مجھ دیدار ہوں گے ۝  
اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے ۝  
خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے ۝

۲۔ جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا (مقرر کیا ہوا)  
وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے ۝

— ﴿سورۃ القیمہ آیت ۲۲ تا ۲۵﴾ —

— ﴿سورۃ النکبت آیت ۵﴾ —

## دین

۱۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ (زمرہ) صلحاء میں ہوں گے ۵

جب ان سے انکے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سراطاعت خم کرتا ہوں ۵ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی (اپنے فرزندوں سے یہی کہا) کہ بیٹا خدا نے تمہارے لئے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۳۰ تا ۱۳۲﴾ —

۲۔ اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر (کر کافر ہو) جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخ (میں جانے) والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۷﴾ —

۳۔ دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) مگر اسی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں

۱- وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ قِلَّةِ اٰرْزِهِمْ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ ۗ قَالَ اَسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ وَوَضٰى يَهٰٓ اِبْرٰهِيْمُ بَيْتِهٖ وَيَعْقُوْبَ ۗ يٰٓيَبْنَىٓ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ الدِّيْنَ ۗ فَلَا تَمُوْنُوْنَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۗ

۲- وَلَا يَزَالُوْنَ يَفْقٰهُوْنَكُمۡ حَتّٰى يَرُوْا كُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمۡ عَنْ دِيْنِهٖ فَبِمَتَ وَهُوَ كٰفِرًا ۗ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتۡ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۗ

۳- لَا اِكْرٰهَ فِي الدِّيْنِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَّكْفُرۡ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنۡ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا اِنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۗ

۴- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اَخْتَلَفَ الدِّيْنُ اَوْ تَوٰا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَنْ يَّكْفُرۡ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ قَاتِنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۗ

پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا (سب کچھ) سنتا (اور سب کچھ) جانتا ہے ۵

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵۶﴾ —

۴۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے اور اہل کتاب نے جو (اس دین سے) اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا (اور سزا دینے والا) ہے ۵

— ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۹﴾ —

۵۔ کیا یہ (کافر) خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۸۳﴾ ---

۶۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو (مسلمان) تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۲۵﴾ ---

۷۔ آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۳﴾ ---

۸۔ اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا (اور) جاننے

5- أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبِغُونَ وَلَئِذَا أُسْلِمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَآلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٥﴾

6- وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أُسْلِمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَإِلَيْهِ مَلَأَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿٦﴾

7- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٧﴾

8- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَدَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٨﴾

9- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِمَّنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾

10- إِنَّ الَّذِينَ فَزَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَأَسْتَمْتُهُمْ فِي

والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۵۲﴾ ---

۹۔ اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۵۷﴾ ---

۱۰۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت سے) رستے نکالے اور



کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو (سب) بتائے

۵۶

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۶۰﴾ ---

۱۱۔ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۱﴾ ---

۱۲۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے

--- ﴿سورة الانفال آیت ۳۹﴾ ---

۱۳۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لئے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو (یہ بے ایمان لوگ ہیں اور) ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ

شئى ؕ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝۱۱-  
الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا وِدْيَهُمْ لَهَوًا وَّ لَعِبًا وَّ عَزَّزَتْهُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيٰۤى  
فَالْيَوْمَ نَنْسُهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۗ وَمَا كَانُوْا  
بِاٰتِنَا يٰحٰجِدُوْنَ ۝

۱۲- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَّ تَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ  
لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اَنْتُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ يٰۤا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝

۱۳- فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ فَاٰخٰذُكُمُ  
فِي الدِّيْنِ ۗ وَتَفَصَّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاِنْ  
لَّكُنُوْا اٰمِنًاۤى مِنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوْا فِى دِيْنِكُمْ  
فَقَتِلُوْا اٰيَةَ الْكُفْرِ ۗ اِنَّهُمْ لَا اٰمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ  
يَلْتَمِهُوْنَ ۝

۱۴- هُوَ الَّذِىۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

۱۵- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ كَآفَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْۢ كُلِّ فِرْقَةٍ  
مِّنْهُمْ طَآءِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنذِرُوْا  
وَلِيُنذِرُوْا

(اپنی حرکات سے باز آ جائیں)

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۲۱﴾ ---

۱۴۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اس (دین) کو (دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کرے اگر چہ کافر ناخوش ہی ہوں

--- ﴿سورة التوبة آیت ۳۳﴾ ---

۱۵۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے

تاکہ دین (کا علم سیکھتے اور اس) میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سنا تے تاکہ وہ عذر کرتے

﴿سورة التوبة آیت ۱۲۲﴾

۱۶۔ (اے پیغمبر) کہہ دو کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو (من رکھو کہ) جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں

اور یہ کہ (اے محمد سب سے) یکسو ہو کر دین (اسلام) کی پیروی کئے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا

﴿سورة یونس آیت ۱۰۵﴾

۱۷۔ جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی (من رکھو کہ) خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

﴿سورة یوسف آیت ۲۰﴾

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

16- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دُونِي فَلَا آعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ آعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

17- مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

18- وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ

۱۸۔ اور خدا (کی راہ) میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس

نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں

کی (اور تمہارے لئے) تمہارے باپ ابراہیم کا دین (پسند کیا)

اسی نے پہلے (یعنی پہلی کتابوں میں) تمہارا نام مسلمان رکھا تھا

اور اس کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو) تاکہ پیغمبر

تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد

ہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا (کے دین کی رسی) کو پکڑے رہو

وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے ۵

﴿سورۃ الحج آیت ۷۸﴾

۱۹۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین (خدا کے رستے) پر سیدھا منہ

کئے چلے جاؤ (اور) خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا

کیا (اختیار کئے رہو) خدا کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و تبدل

نہیں ہو سکتا یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۵

(مومنو) اسی (خدا) کی طرف رجوع کئے رہو اور اس سے ڈرتے

رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا ۵

(اور نہ) ان لوگوں میں (ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو کلمے

کلمے کر دیا اور (خود) فرقے فرقے ہو گئے سب فرقے اسی

سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے ۵

﴿سورۃ الروم آیت ۲۲﴾

۲۰۔ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس (کے

اختیار کرنے) کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی (اے محمد) ہم نے

تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم

دیا تھا (وہ یہ) کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس

چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ

جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف

التَّصِيرُ

19- فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَةُ وَلَكِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُبِينِينَ إِلَيْهِ وَالتَّقْوَةَ وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا

دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

20- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا

الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُو

هُمُ إِلَيْهِ ۝ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ

مَنْ يُنِيبُ ۝

21- لَا يَتَّخِذُ اللَّهُ مِنَ الدِّينِ لَكُمْ يِقَاتٍ لَكُمْ فِي الدِّينِ وَلَكُمْ

يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۝ إِنَّ

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَتَّخِذُ اللَّهُ مِنَ الدِّينِ

قِتْلًا لَكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا

رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے ۵

﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۱۳﴾

۲۱۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ

تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا

سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا خدا تو انصاف کرنے

والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں

نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں

سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں ۵

﴿سورة الممتحن آیت ۶۸﴾

## دین فروشی

۱۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۶﴾

۲۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے (آئی) ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیوی منفعت) حاصل کریں ان پر افسوس ہے اس لئے کہ (بے اصل باتیں) اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور (پھر) ان پر افسوس ہے اسلئے کہ ایسے کام کرتے ہیں ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۷۹﴾

۳۔ جو لوگ (خدا کی) کتاب سے ان (آیتوں اور ہدایتوں)

عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تُوَلُّوهُمْ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

- 1- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَحِمَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝
- 2- قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنًا قَلِيلًا ۖ قَوْلٍ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ۖ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْتُمُونَ ۝
- 3- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ تَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ

کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت (یعنی دینی دنیاوی منفعت) حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو (گناہوں) سے پاک کرے گا

مزید حوالے: یون: البقرہ: ۱۲۰-۱۳۵- آل عمران: ۹۵- النساء: ۱۳۶-۱۴۱- المائدہ: ۷۷- الانعام: ۱۳۸-۱۶۲- الاعراف: ۲۹-۳۸-۸۹- الانفال: ۳۹-۷۲۔

التوبہ: ۳۶- یونس: ۲۲- یوسف: ۳۷-۳۸- ابراہیم: ۱۳- النحل: ۵۲-۱۲۳- الکہف: ۲۰- النور: ۳-۵۲-۵۵- العنکبوت: ۲۵- لقمان: ۳۲۔

الاحزاب: ۵- ص: ۷- الزمر: ۲-۳-۱۱-۱۲- المؤمن: ۱۳-۲۶-۶۵- الثوری: ۸-۹-۲۱- الحج: ۲۸- الصف: ۹- العنکبوت: ۵۔

نیز دیکھئے: دین میں فرقہ بندی: مذہبی آزادی- مذہبی تعصب

اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے ۰

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا۔ یہ آتش (جہنم) کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں ۰

--- سورة البقرہ آیت ۷۷-۷۸-۷۹ ---

۴۔ جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں (کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان) کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا ۰

--- سورة آل عمران آیت ۷۷ ---

۵۔ اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کر لیا کہ (اس میں جو کچھ لکھا ہے) اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس (کی کسی بات) کو نہ چھپانا تو انہوں نے اس

عَذَابَ الْعَذَابِ ۰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ  
بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ  
عَلَى النَّارِ ۚ

۴- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا  
قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ  
اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّرُهُمْ ۚ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

۵- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ  
لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا  
بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَيَسِسَ مَا يَشْتَرُونَ ۚ



کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل  
کی یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے ۰

--- سورة آل عمران آیت ۸۷ ---



## دین میں فرقہ بندی

۱۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے (خلاف و) اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو (قیامت کے دن) بڑا عذاب ہوگا

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۰۵﴾ ---

۲۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں (بہت سے) رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو (سب) بتائے گا

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۵۹﴾ ---

۳۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین (خدا کے رستے) پر سیدھا منہ کئے چلے جاؤ (اور) خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کئے رہو) خدا کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

(مومنو!) اسی (خدا) کی طرف رجوع کئے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا

(اور نہ) ان لوگوں میں (ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور (خود) فرقے فرقے ہو گئے سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے

--- ﴿سورة الروم آیت ۲۶﴾ ---

۱۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

۲۔ إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْرِ لَكُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

۳۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

۴۔ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَالتَّوْقَةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

۵۔ مِنَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

۶۔ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

۷۔ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ



۲۔ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس (کے) اختیار کرنے) کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی (اے محمد) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا (وہ یہ) کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلا تے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے

--- ﴿سورة الشوری آیت ۱۳﴾ ---



## ڈکیتی

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا ملک سے نکال دیئے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا (بھاری) عذاب (تیار) ہے ۵

ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں تو بہ کر لی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۳۳﴾ —

## ذبح

۱- تو جس چیز پر (ذبح کے وقت) خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھالیا کرو ۵

اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لئے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک

ایک کر کے بیان کر دی ہیں (بیشک ان کو نہیں کھانا چاہئے) مگر اس صورت میں کہ ان کے (کھانے کے) لئے ناچار ہو جاؤ اور بہت

سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں

۱- اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ حَارَبُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَّيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقْتَلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تُقَدَّرُوْا عَلَيْهِمْ ۗ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝



۱- فَكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاٰئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝

۲- وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذَكَرْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ لَفِضْقٍ

کو بہکار ہے ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو (خدا کی مقرر کی ہوئی) حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ۵

— ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۱۸﴾ —

۲- اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے ۵

— ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۲۱﴾ —

## ذکر الہی

۱۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان ماننے رہنا اور ناشکری نہ کرنا ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۵۲﴾

۲۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۹۱﴾

۳۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا ۵

﴿سورة الاعراف آیت ۲۰۵﴾

۴۔ (یعنی) جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں (ان کو) اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں ۵

﴿سورة الرعد آیت ۲۸﴾

۵۔ (اے محمد) یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو

- 1- فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۵
- 2- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَمًا وَقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ رِبٰكًا مَا خَلَقَتْ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۵
- 3- وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَاَلْاَصٰلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۵
- 4- الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِيْنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمِيْنُ الْقُلُوْبُ ۵
- 5- اَتْلُوْا مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَاَلْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۵ وَاَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۵
- 6- يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۵ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۵
- 7- اَلْمُرِيۡنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَا

پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور خدا کا ذکر بڑا (اچھا کام) ہے اور جو

کچھ تم کرتے ہو خدا سے جانتا ہے ۵

﴿سورة العنكبوت آیت ۲۵﴾

۶۔ اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو ۵

اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو ۵

﴿سورة الاحزاب آیت ۴۱﴾

۷۔ کیا ابھی تک مومنوں کیلئے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی



یاد کرنے کے وقت اور (قرآن) جو (خدائے) برحق (کی طرف) سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو (ان سے) پہلے کتابیں دی گئی تھیں پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں ۵

--- ﴿سورة الحديد آیت ۱۶﴾ ---

۸۔ مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو خدا کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خریدو) فروخت ترک کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ۵

پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ ۵

--- ﴿سورة الجمعة آیت ۱۰۹﴾ ---

۹۔ مومنو! تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ۵

--- ﴿سورة النافقون آیت ۹﴾ ---

۱۰۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو ۵

اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی

مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۝

۸- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

۹- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

۱۰- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝

۱۱- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

پاکی بیان کرتے رہو ۵

--- ﴿سورة الدھر آیت ۲۶﴾ ---

۱۱۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا ۵

اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا ۵

--- ﴿سورة الاعلیٰ آیت ۱۵﴾ ---

## ذوالقرنین

۱۔ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سنا تا ہوں ۵

ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا ۵

تو اس نے (سفر کا) ایک سامان کیا ۵

یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کچھڑکی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس (ندی) کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا ذوالقرنین! تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان (کے بارے) میں بھلائی اختیار کو (دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے ۵

(ذوالقرنین نے) کہا کہ جو (کفر و بد کرداری) سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے پھر (جب) وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا ۵

اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لئے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں (اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ) اس سے نرم بات کہیں گے ۵

پھر اس نے ایک اور سامان (سفر کا) کیا ۵

یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لئے ہم نے سورج کے اس

۱۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعَهُ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّامِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَّالِقُنَيْنِ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَخَذُ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ إِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرًا ۚ وَإِنَّمَا مَنْ آمَنَ وَتَمَلَّكَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ ثُمَّ أَتَتْهُم سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّامِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوِّرٍ لَمَّا تَجْعَلُ لَهُمْ قَيْنَ دُونِهَا يَسْتَرًا ۚ كَذَلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۚ ثُمَّ أَتَتْهُم سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ قَالُوا يَذَّالِقُنَيْنِ ۖ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ قَالَ مَا مَلَكْتِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ

طرف کوئی اونٹ نہیں بنائی تھی ۵

(حقیقت الحال) یوں (تھی) اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو

سب کی خبر تھی ۵

پھر اس نے ایک اور سامان کیا ۵

یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس

طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ۵

ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین! یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد

کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرچ (کا انتظام)

کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں ○

(ذوالقرنین نے) کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت (بازو) سے مدد دو ○

میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا ○

تو تم لوہے کے (بڑے بڑے) تختے لاؤ (چنانچہ کام جاری کر دیا

گیا) یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان

(کا حصہ) برابر کر دیا (اور) کہا کہ (اب اسے) دھونکو یہاں تک

کہ جب اس کو (دھونک دھونک کر) آگ کر دیا تو کہا کہ (اب)

میرے پاس تانبہ لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں ○

پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت

رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں ○

بولو کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے پروردگار کا

وعدہ آپہنچے گا تو اسکو (ڈھا کر) ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار

کا وعدہ سچا ہے ○

وَيَنْهَضُ رَدْمًا ۗ اَنْتُوْنِي زَيْدَ الْحَدِيْدِ ۗ حَتّٰى اِذَا سَاوَى بَيْنَ  
السَّدَقَيْنِ قَالَ الْفُجُوْرُ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۗ قَالَ اَنْتُوْنِي  
اُفْرَغْ عَلَيَّ قَطْرًا ۗ فَمَا اسْتَطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا  
لَكَ نَقْبًا ۗ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيْ ۗ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ  
جَعَلَهُ دَكَّآءً ۗ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۗ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ  
يَوْمَئِذٍ يَّتُوْبُوْنَ فِيْ بَعْضٍ وَتُوْفَعُوْنَ فِي الصُّوْرِ فَيُجْعَلُنَّهُمْ جَمْعًا ۗ



(اس روز) ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ (روئے زمین پر پھیل کر)

ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور صور پھونکا جائے گا تو ہم

سب کو جمع کر لیں گے ○

--- ﴿سورة الكهف آیت ۹۴ تا ۸۳﴾ ---



## رات اور دن

۱۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۹۰﴾ ---

۲۔ اور وہی تو ہے جو رات کو (سونے کی حالت میں) تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ (یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے پھر تم (سب) کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس روز) وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو (ایک ایک کر کے) بتائے گا ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۶۰﴾ ---

۳۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۴﴾ ---

۴۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ اس میں

۱۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

۲۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

۳۔ اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُعْطِي الْلَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْكُوتًا بِاَمْرِهِ ۝ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۝ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

۴۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّرْتَبِعُونَ ۝

۵۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيٰتِيْنَ فَهَوِّنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَيَتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَالْحِسَابَ ۝ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيْلًا ۝

آرام کرو اور روز روشن بنایا (تاکہ اس میں کام کرو) جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لئے ان میں نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة بقرہ آیت ۶۷﴾ ---

۵۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل (یعنی روزی) تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کی (بخوبی) تفصیل کر دی ہے ۵

--- ﴿سورة نبي اسرا نيل آیت ۱۲﴾ ---

۶۔ خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۳۳﴾ ---

۷۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۳۷﴾ ---

۸۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے (جانے) والا بنایا (یہ باتیں) اس شخص کیلئے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے (سوچنے اور سمجھنے کی ہیں) ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۶۲﴾ ---

۹۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات (کی تاریکی) کئے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لادے تو کیا تم سنتے نہیں ۵

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کئے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لادے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں ۵

اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا

۶۔ يَقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي  
الْأَبْصَارِ ۝

۷۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَأْسَوا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَ  
جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝

۸۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن  
يَذْكُرَ ۗ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝

۹۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ ۗ أَفَلَا  
تَسْمَعُونَ ۝

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ  
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ  
تَسْكُنُونَ فِيهِ ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ  
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ۝

۱۰۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ يَكُونُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ  
وَيَكُونُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۗ وَسَكَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ كُلٌّ يَجْرِي

تاکہ تم اس میں آرام کرو اور (اس میں) اس کا فضل تلاش کرو اور  
تاکہ شکر کرو ۵

--- ﴿سورة القصص آیت ۷۱﴾ ---

۱۰۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے  
(اور) وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی  
نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے سب ایک وقت مقررہ

تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب (اور) بخشنے والا ہے ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۵﴾ ---

۱۱۔ اور نیند کو تمہارے لئے (موجب) آرام بنایا ۝

اور رات کو پردہ مقرر کیا ۝

اور دن کو معاش (کا وقت) قرار دیا ۝

--- ﴿سورة النباء آیت ۱۱۰﴾ ---

### رحمت

۱۔ اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے

اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے ۝

--- ﴿سورة البقرة آیت ۱۰۵﴾ ---

۲۔ تو صبر کرنے والوں کو (خدا کی خوشنودی کی) بشارت سنا دو ۝

ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم

خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ۝

یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور

یہی سیدھے رستے پر ہیں ۝

--- ﴿سورة البقرة آیت ۱۵۵﴾ ---

۳۔ اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد

ہمارے دلوں میں کبھی نہ پیدا کرو بھجو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت

عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ۝

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۸﴾ ---

لِاجْلِ مُسَيِّئٍ ۝ اَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوَ ۝

۱۱۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَابَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا  
النَّهَارَ مَعَاشًا ۝



1۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

2۔ وَيَذَرُ الضَّالِّينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن

رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

3۔ رَبَّنَا لَا تُؤِخِّرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ

رَحْمَةً ۝ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

4۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۝ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

5۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۝ وَلَا يُرَدُّ

۴۔ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں

پر ایمان لاتے ہیں تو (ان سے) سلام علیکم کہا کرو خدا نے اپنی

ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی

سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکو کار

ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے ۝

--- ﴿سورة الانعام آیت ۵۴﴾ ---

۵۔ اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار

صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے نہیں

﴿سورة الانعام آیت ۱۲۸﴾ ---

۶۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے ۵  
اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت (یعنی مینہ) سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری (بنا کر) بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھالاتی ہے تو ہم اسکو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر بادل سے مینہ برساتے ہیں پھر مینہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو (زمین سے) زندہ کر کے باہر نکالیں گے (یہ آیات اس لئے بیان کی جاتی ہیں) تاکہ تم نصیحت پکڑو ۵

﴿سورة الاعراف آیت ۵۷﴾ ---

۷۔ کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے (ان کو) بند کر رکھتے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے ۵

﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱۰۰﴾ ---

۸۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی (کے سامان) مہیا کر ۵

﴿سورة الکہف آیت ۱۰﴾ ---

۹۔ اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ۵

﴿سورة الانبیاء آیت ۱۰۷﴾ ---

بأسۃ عن القوم المعجزین ۵

۶۔ وَلَا تُفِيدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۵ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۵ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا بِثِقَالٍ لِّكَ لِيَكُنَّ مَيِّتًا فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۵ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۵

۷۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۵ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۵

۸۔ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۵ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۵

۱۰۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۵

۱۱۔ وَمِن آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۵ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

۱۰۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اسکے ملنے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے ناامید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا ۵

﴿سورة عبس آیت ۲۳﴾ ---

۱۱۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف (مائل ہو کر) آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کیلئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

﴿سورة الروم آیت ۲۱﴾ ---

۱۲۔ (اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے (اور) وہ تو بخشنے

والا مہربان ہے ○

--- ﴿سورة الزمر آیت ۵۳﴾ ---

۱۳۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے ○

--- ﴿سورة الزخرف آیت ۳۲﴾ ---

لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

۱۲۔ قُلْ يُعَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْتُلُوا مِمَّنْ رَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنِ اللَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

۱۳۔ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ مَن قَسَمْنَا لِيَنفُسِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا ۖ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○



۱۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمَتْهُ آَلِهَاتُهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوِّحَ مِنْهُ ۖ فَأَمِينُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۗ إِنَّمَا هُوَ إِخْوَانُكُمْ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ سُبْحَانَ أَن يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ ۗ لَكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَلَّمَ بِاللَّهِ وَكَلِيمًا ۗ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

اور (یہ) نہ کہو (کہ خدا) تین (ہیں اس اعتقاد سے) باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اسکی اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور خدا ہی کا رسا ز کافی ہے ○

مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے (عار رکھتے ہیں) اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع

### ردّ تہلیلث

۱۔ اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ) خدا کے رسول اور اس کا کلمہ (بشارت) تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھی تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ

رحمت: مزید حوالے: البقرہ: ۶۳۔ آل عمران: ۱۵۹۔ النساء: ۸۳۔ الانعام: ۱۳۔ یونس: ۲۱۔ النور: ۱۰۔ ۱۳۔ ۲۰۔ ۲۱۔

الروم: ۲۱۔ ۳۲۔ المؤمن: ۷۱۔ الحدید: ۲۸



کر لے گا

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے (کچھ) زیادہ بھی عنایت کریگا اور جنہوں نے (بندہ ہونے سے) عار و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہیں پائیں گے

— ﴿سورة النساء آیت ۱۷۱ تا ۱۷۳﴾ —

۲۔ وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عیسیٰ) مسیح خدا ہیں حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی (اور جان رکھو کہ) جو شخص خدا کیساتھ شرک کریگا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں

وہ لوگ (بھی) کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسے اقوال (و عقائد) سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں

نیز دیکھئے: توحید

فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

۲۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۝ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۝ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۝ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثُلَاثٍ ۝ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَهٌ إِلَّا وَاحِدٌ ۝ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُمَا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۳۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۝ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۝ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبِّئِينَ لَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ لَقَدْ أَنْظُرُوا إِلَى يَوْمِ الْوَكُوفِ ۝

گے

— ﴿سورة المائدة آیت ۷۲ تا ۷۴﴾ —

۳۔ مسیح ابن مریم تو صرف (خدا کے پیغمبر تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ (مریم خدا کی) ولیہ اور سچی فرمانبردار) تھیں دونوں (انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کے لئے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں (یہ) دیکھو کہ یہ کدھرا لے جا رہے ہیں

— ﴿سورة المائدة آیت ۷۵﴾ —

## ردِ شرک

۱۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک کرتے) اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور انکل کے تیر چلاتے ہو ۵

— ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۲۸﴾ —

۲۔ اور یہ (لوگ) خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے ۵

— ﴿سورۃ یونس آیت ۱۸﴾ —

۳۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے اور ان کے شریک (ان سے) کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے ۵

ہمارے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے ۵

— ﴿سورۃ یونس آیت ۲۹﴾ —

۱۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَمْنَا مِنْ شَيْءٍ مَّا كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۵

۲۔ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُبِينًا وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۵

۳۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۵ فَكَلَّمَ اللَّهُ شَيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادِيكُمْ لَعَلَّيْنَ ۵

۴۔ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا قُلْ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۵

۵۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ

۳۔ اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنائے ہیں تاکہ وہ

ان کے لئے (موجب عزت و) مدد ہوں ۵

ہرگز نہیں وہ (معبودانِ باطل) ان کی پرستش سے انکار کریں گے

اور ان کے دشمن (ومخالف) ہوں گے ۵

— ﴿سورۃ مریم آیت ۸۲﴾ —

۵۔ اور کہتے ہیں خدا بیزار رکھتا ہے ۵

(ایسا کہنے والو یہ تو) تم بری بات (زبان پر) لاتے ہو ۵

قریب ہے کہ اس (افتراء) سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق

ہو جائے اور پہاڑ پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں ۵

کہ انہوں نے خدا کے لئے بیٹا تجویز کیا ۵

اور خدا کو شایاں نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ۵

تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو

بندے ہو کر آئیں گے ۵

--- ﴿سورۃ مریم آیت ۹۳ تا ۸۸﴾ ---

۶۔ اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ میں اس کی طرف سے تم

کو صریح رستہ بتانے والا ہوں ۵

--- ﴿سورۃ الذاریات آیت ۵۱﴾ ---

۷۔ بھلا تم لوگوں نے لات و عزیٰ کو دیکھا ۵

اور تیسرے منات کو (کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں) ۵

(مشرک! کیا تمہارے لئے تو بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں ۵

یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے ۵

وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے

گھڑ لئے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض

ظن (فاسد) اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ

ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۲۳ تا ۱۹﴾ ---

۸۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی (جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو)

خشک ہو جائے تو (خدا کے سوا) کون ہے جو تمہارے لئے شیریں

پانی کا چشمہ بہالائے ۵

--- ﴿سورۃ الملک آیت ۳۰﴾ ---

هَذَا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَكَدَّاءٍ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ

اَنْ يَّتَّخِذَ وَكَدَّاءٍ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا

اَبِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَ اِلٰهًا لَّكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۶

اَقْرَبُ يَتْمُ اللّٰتِ وَالْعُزَّىٰ ۝۷ وَمَنْوَةَ الْقَابِلَةِ الْاٰخِرَىٰ ۝۸

اَلْاَلَمُ الَّذِیْ ذُكِرَ وَرَءَ الْاَنْثَىٰ ۝۹ تِلْكَ اِذَا قَسَمَ صٰغِيْرٌ

اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ

اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۝۱۰ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰی

الْاَنْفُسُ ۝۱۱ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدٰی ۝۱۲

قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيْكُمْ

بِمَاۤءٍ مُّعِيْنٍ ۝۱۳

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝۱۴ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝۱۵ وَ

لَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝۱۶ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ ۝۱۷

وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝۱۸ لَّكُمْ دِيْنُكُمْ وَاِنِ

۹۔ (اے پیغمبران منکران اسلام سے) کہہ دو کہ اے کافر و

جن (بتوں) کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا ۵

اور جس (خدا کی) میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ۵

اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش

کرنے والا نہیں ہوں ۵

اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے (معلوم ہوتے) ہو جس کی میں

بندگی کرتا ہوں ۵

تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر ۵

--- ﴿سورۃ الکافرین آیت ۶ تا ۱﴾ ---

## رزق

۱۔ اور جو کافر ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳﴾

۲۔ اور جو حلال طیب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور خدا سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو ۵

﴿سورۃ المائدہ آیت ۸۸﴾

۳۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سوچا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں (لکھا ہوا) ہے ۵

﴿سورۃ ہود آیت ۶﴾

۴۔ اور خدا نے رزق (دولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۷۱﴾

۵۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے خدا

۱۔ زین الدین کفر و الحیوة الدنیا و یتغرّون من الدین امنوا و الذین اتقوا فوقہم یوم القیمۃ و اللہ یرزق من یشاء بغير حساب ۵

۲۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیباً و اتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون ۵

۳۔ و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین ۵

۴۔ و اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برأی رزقہم علی ما ملکتم ایانہم فہم فیہ سواء و اقینعوا اللہ یمجدون ۵

۵۔ و کائین من دابة لا تحمل رزقها اللہ یرزقها و لایاکم و هو السبیب العلیم ۵

۶۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لہ و ما انفقتم من شیء فہو بحلفہ و هو خیر الرزقین ۵

ی ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے ۵

﴿سورۃ العنکبوت آیت ۶۰﴾

۶۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا (تمہیں) عوض دے گا وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ۵

﴿سورۃ آل عمران آیت ۹۳﴾

۷۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے بیشک وہ اپنے بندوں کو جانتا (اور) دیکھتا ہے ۰

﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۲۷﴾

۸۔ اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا۔ وہ اس کیلئے (رنج و محن سے) مخلصی کی صورت پیدا کر دیگا ۰

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم و) گمان بھی نہ ہو اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا خدا اپنے کام کو (جو وہ کرنا چاہتا ہے) پورا کر دیتا ہے خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے ۰

﴿سورۃ الطلاق آیت ۳۲﴾

## رسالت محمدیؐ

۱۔ کسی آدمی کو شایاں نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ بلکہ (اسکو یہ) کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب! تم (علمائے) ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب (خدا) پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو ۰

۷۔ وَكَوَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغْوًا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نَزَّلَ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝  
۸۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۙ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝



۱۔ مَا كَانَ لِيُشِيرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ۚ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْحَانَ ۚ بِنَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِنَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہئے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے ۰

اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم

نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا۔ (یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا۔ (خدا نے) فرمایا کہ تم (اس عہد و پیمان کے) گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۷۹﴾ —

۲۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف (خدا کے) پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں بھلا اگر یہ مرجائیں یا مارے جائیں تو تم اٹے پاؤں پھر جاؤ؟ (یعنی مرتد ہو جاؤ؟) اور جو اٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں کو (بڑا) ثواب دے گا ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۱۳۴﴾ —

۳۔ (اے پیغمبر) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصلہ کرو اور دیکھو (دعا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا) ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۱۰۵﴾ —

۴۔ اے پیغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا) اور خدا تم کو لوگوں سے بجائے رکھے گا۔ بیشک خدا منکر دلوں کو ہدایت نہیں

۱۔ بہ وکتصرتہ ۱۰ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ۙ قَالُوْا اَقْرَرْنَا ۙ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

۲۔ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۗ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ الرُّسُلُ ۗ اَقْرٰن مَّاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبَيْهِ فَلَئِنْ يَضَرَ اللّٰهُ شَيْئًا ۙ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝

۳۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِّلْخٰفِيْنَ خَصِيْمًا ۙ

۴۔ يٰۤاَيُّهَا الرُّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝

۵۔ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ۗ قٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ النَّبِيِّ الَّذِيْ يُوْمِنُ بِاللّٰهِ

کرتا ۵

— ﴿سورة المائدہ آیت ۶۷﴾ —

۵۔ (اے محمد) کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں (یعنی اس کا رسول ہوں) (وہ) جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبرانی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ ۵

۶۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں (البتہ) میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہئے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے ۵

— ﴿سورۃ الکہف آیت ۱۱۰﴾ —

۷۔ اور (اے محمد) ہم نے تم کو تمام جہان کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ۵

— ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۷﴾ —

۸۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کیلئے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا ۵

اور جو خدا کے پیغام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے ۵ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں) اور خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

— ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۲۸﴾ —

۹۔ اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ۵

وَكَلِمَتِهِمْ وَأَتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۵

6- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۵

7- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۵

8- مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِن حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ

اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَكَانَ أَمْرَ اللَّهِ قَدَرًا

مَقْدُورًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشُونَكَ وَلَا

يَحْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ مَا كَانَ

مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۖ

9- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۗ

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّبِينًا ۖ

10- لَيْسَ ۙ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۗ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ عَلَىٰ

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۗ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۗ لِتُنذِرَ قَوْمًا

اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن ۵

— ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۳۶﴾ —

۱۰۔ اے محمد ۵ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے ۵

(اے محمد) بیشک تم پیغمبروں میں سے ہو ۵

سیدھے رستے پر ۵

(یہ خدائے) غالب (اور) مہربان نے نازل کیا ہے ۵

تا کہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ

کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ۰

ان میں سے اکثر پر (خدا کی) بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ۰

--- ﴿سورۃ نِسْ آیت ۷۱﴾ ---

۱۱۔ اور ہم نے ان (پیغمبر) کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایاں ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن (پراز حکمت) ہے ۰

تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے ۰

--- ﴿سورۃ نِسْ آیت ۷۰﴾ ---

## رسالت و نبوت

۱۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں

کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ (خدا سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیرا حکم) سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۸۵﴾ ---

رسالت محمدی: مزید حوالے: البقرہ: ۱۱۹-۲۵۲- النساء: ۱۰۶- الانعام: ۱۳-۱۹-۲۸- نور: ۲- الرعد: ۷- النحل: ۶۳-

بنی اسرائیل: ۵۳- الحج: ۳۹- الفرقان: ۵۶- النمل: ۹۳- طہ: ۲۳- ص: ۶۵- الشوری: ۶-

الاحقاف: ۹- التوحید: ۸-۹- النبی: ۱-۱۱- الانشراح: ۱-۸- نیز دیکھئے: اخلاق نبوی ﷺ- رسالت و نبوت- سیرت نبوی- وحی



۲۔ کسی آدمی کو شایاں نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ (اسکو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم (علمائے) ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب (خدا) پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو ۵

اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہئے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۸۰﴾

۳۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کیلئے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا (اور) مہربان پاتے ۵

﴿سورة النساء آیت ۶۴﴾

۴۔ اے پیغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا) اور خدا تم کو لوگوں سے

۲۔ مَا كَانَ لِيُشْرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

۳۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

۴۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ۝

۵۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِبَلْسَانٍ قَومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ

پچائے رکھے گا بیشک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا ۵

﴿سورة المائدة آیت ۶۷﴾

۵۔ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو (جو ایمان نہ لائے) دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ

وہ عاجزی اور زاری کریں ۵

﴿سورة الاعراف آیت ۹۳﴾

۶۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے ۵

پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة ابراہیم آیت ۴﴾ ---

۷۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو ۵

--- ﴿سورة الانبیاء آیت ۲۵﴾ ---

۸۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنایا کیا تم صبر کرو گے اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۲﴾ ---

۹۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ۵ اور (یہ بھی) کہنے لگے کہ ہم بہت سامان اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا ۵

--- ﴿سورة سبأ آیت ۳۳﴾ ---

۱۰۔ اور کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے

فِيضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

7- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝

8- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ وَيَشْرَبُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَنْتَصِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

9- وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۗ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ۝

10- وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ ۗ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَنِ



مگر الہام (کے ذریعے) سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتے بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القاء کرے بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الشوری آیت ۵۱﴾ ---



مزید حوالے: المائدہ: ۲۰- الانعام: ۹۳- الرعد: ۳۲- ۳۸- الحج: ۵۲- الروم: ۴۷- سبأ: ۳۳- الصافات: ۷۲-

المومن: ۷۰- تم السجدہ: ۱۳- الزخرف: ۶- ۷- ۲۳- ۲۵- الحدید: ۲۵

## رشتہ دار

۱۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب (کو قبلہ سمجھ کر ان) کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر (خدا کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں (کے چھڑانے) میں (خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (خدا سے) ڈرنے والے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷﴾ ---

۲۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آجائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کیلئے دستور کے مطابق وصیت کر جائے (خدا سے) ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۸۰﴾ ---

۳۔ (اے محمد) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہ (جو چاہو خرچ کرو لیکن) جو مال

۱۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

۲۔ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ  
خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا  
عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

۳۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

۴۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۵﴾ ---

خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی) ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے ۵

۳۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو

اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو

﴿سورة النساء آیت ۸﴾

۵۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایاں نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ شرک اہل دوزخ ہیں تو ان کیلئے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں

﴿سورة التوبة آیت ۱۱۳﴾

۶۔ خداتم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور) تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو

﴿سورة النحل آیت ۹۰﴾

۷۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے ان کو چاہئے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خداتم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے

﴿سورة النور آیت ۲۲﴾

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

۵- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ  
وَكُفْرًا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ  
الْجَحِيمِ

۶- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْعُسْخَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

۷- وَلَا يَأْتِي أَوْلِيَاءَ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ  
وَالْمُسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُوا وَيَتَّقُوا  
أَلَّا يُحِبُّوا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۸- الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ  
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ  
مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا



۸۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کے رو سے مسلمانوں اور مہاجرین سے ایک دوسرے (کے تر کے) کے زیادہ حقدار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے

﴿سورة الاحزاب آیت ۶﴾



## رشوت

۱۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو (رشوۃ) حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاوے اور (اسے) تم جانتے بھی ہو ۵

— ﴿سورة البقره آیت ۱۸۸﴾ —

## رضاع و نفقہ

۱۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ (حکم) اس شخص کے لئے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی (تو یاد رکھو کہ) نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور اسی طرح (نان نفقہ) بچے کے وارث کے ذمے ہے اور اگر دونوں (یعنی ماں باپ) آپس رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ تم دودھ پلانے

۱۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝



۱۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْضِعُهَا وَيَكْسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تَكْلَعُنَّ نَفْسَ الْإِلَآءِ وَسِعْمًا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةً يَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

۲۔ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَلْيُفْقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا وہ دے دو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے ۵

— ﴿سورة البقره آیت ۲۳۳﴾ —

۲۔ اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور (بچے کے بارے میں) پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو

اور اگر باہم ضد (اور نا اتفاقی) کرو گے تو (بچے کو) اسکے (باپ کے) کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی ۵

صاحبِ وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اسکو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو

اسکو دیا ہے اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشنے گا ۵

--- ﴿سورۃ الطلاق: آیت ۶-۷﴾ ---

## رضائے الہی

۱۔ خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راستبازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی ان کے لئے بارغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ابدالآباد ان میں بستے رہیں گے خدا ان سے خوش ہے

اور وہ خدا سے خوش ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۱۱۹﴾ ---

۲۔ خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بہشت ہائے جاودانی میں نفیس مکانات کا (وعدہ کیا ہے)

اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی

رضائے نفع: نیز دیکھئے: طلاق

يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَكُمْ  
أُخْرَى ۚ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ  
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

1- قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

2- وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةً  
فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَلِكَ هُوَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

3- وَالشُّقُورَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

کامیابی ہے ۵

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۷۳﴾ ---

۳۔ جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان

لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں

نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے

اور وہ خدا سے خوش ہیں اور اس نے ان کیلئے باغات تیار کئے ہیں

جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور) ۵

ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے ۰

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۱۰۰﴾ ---

۴۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام

خلقت سے بہتر ہیں ۰

ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن

کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ابداً بادان میں رہیں گے۔ خدا ان

سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ (صلہ) اسکے لئے ہے جو اپنے

پروردگار سے ڈرتا ہے ۰

--- ﴿سورۃ البینہ آیت ۸۷﴾ ---

## رَمَضَانَ

۱۔ (روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے) جس میں قرآن

(اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور (جس میں)

ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۰

4- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ  
الْبَرِيَّةِ ۰ جَزَاءُؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ ۰ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۰

1- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى  
لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۰ فَمَنْ شَهِدَ  
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۰

والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ

پورے مہینے کے روزے رکھے ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵﴾ ---

## روح

۱۔ اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ) خدا کے رسول اور اس کا کلمہ (بشارت) تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھی تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔

﴿سورۃ النساء آیت ۱۷۱﴾

۲۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھٹکھٹاتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں ○ جب اس کو (صورت انسانیہ میں) درست کر لوں اور اس میں اپنی (بے بہا چیز یعنی) روح پھونک دوں تو اسکے آگے سجدے میں گر پڑنا ○

﴿سورۃ الحجر آیت ۲۹﴾

۳۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے ○

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۵﴾

۴۔ اور کتاب (قرآن) میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں ○

۱۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةٌ أُلْقِيَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ

۲۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ لِسَجِدِينَ ۗ

۳۔ وَاسْتَخَرْتَهُ عَيْنِ الزُّوْجِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۗ

۴۔ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۗ

۵۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتُمْ مِنَ الْقَائِلِينَ ۗ

تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ (اس وقت) ہم نے

ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدی (کی

شکل) بن گیا ○

﴿سورۃ مریم آیت ۱۷﴾

۵۔ اور (دوسری) عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو

محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے

پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور

فرمانبرداروں میں سے تھیں ○

﴿سورۃ التحریم آیت ۱۲﴾



۶۔ جس دن روح (الامین) اور (اور) فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا اگر جس کو (خدائے) رحمن اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہے ۵

یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانا بنا لے ۵

--- ﴿سورة النباء آیت ۳۹﴾ ---

## رُوحُ الْقُدُسِ

۱۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس (یعنی جبرئیل) سے ان کو مددی ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۸۷﴾ ---

۲۔ اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو (کافر) کہتے ہیں کہ تم تو (یونہی) اپنی طرف سے بنا لاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں ۵

کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی

۶۔ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ  
أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ  
شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءَ ۚ

۱۔ وَأَنبَأَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ  
۲۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۚ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ  
مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى  
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۚ

کے ساتھ لیکر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ (قرآن) مومنوں کو ثابت  
قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کیلئے تو (یہ) ہدایت اور بشارت  
ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۰۱﴾ ---

روح: مزید حوالے: السجده-۹-ص: ۷۲

روح القدس: نیز دیکھیے: فرشتے

## روزہ

۱۔ مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بنو۔ (روزوں کے دن) گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں (لیکن رکھیں نہیں) وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے ۵

(روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے) جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (جو حق و باطل کو) الگ الگ کر نیوالا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں (رکھ کر) ان کا شمار پورا کر لے خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور (یہ آسانی کا حکم) اس لئے (دیا گیا ہے) کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵﴾ ---

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۗ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيَتَّكِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُتَّكِرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۲- أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّقَّتِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ

۲۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو خدا کو معلوم ہے کہ تم (ان کے پاس جانے سے) اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی اب (تم کو اختیار ہے کہ) ان سے مباشرت کرو اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے (یعنی اولاد) اسکو (خدا سے) طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید

دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ  
(رکھ کر) رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف  
بیٹھو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ خدا کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ  
جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے (سمجھانے) لئے کھول  
کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۸۷﴾

۳۔ اور خدا (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو اور  
اگر (رستے میں) روک لئے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو (کردو)  
اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور  
اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر  
وہ سر منڈالے تو اسکے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی  
کرے۔ پھر جب (تکلیف دور ہو کر) تم مطمئن ہو جاؤ تو جو (تم  
میں) حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی  
قربانی میسر ہو کرے اور جس کو (قربانی) نہ ملے وہ تین روزے  
ایام حج میں رکھے اور سات جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ  
حکم اس شخص کیلئے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے  
ہو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ مَا نَحَرُ  
أَنْتُمْ الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلِفُونَ  
فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

3- وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ  
مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ  
مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ آذَىٰ مِّنْ  
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ  
فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا  
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ  
أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ  
كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لَعَنَ لِمَنْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ  
الْعَرَافُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ  
4- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ۚ وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا خَطَا ۚ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ

والا ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۹۶﴾

۴۔ اور کسی مومن کو شایاں نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور  
جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام  
آزاد کر دے اور دوسرے (مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے  
ہاں اگر وہ معاف کر دیں (تو ان اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے  
دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ۵

تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہادینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ (کفارہ) خدا کی طرف سے (قبول) توبہ (کے لئے) ہے اور خدا سب کچھ جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۹۲﴾ —

۵۔ خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر (جن کے خلاف کرو گے) مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو (اور اسے توڑ دو) اور (تم کو) چاہئے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے (سمجھانے کے) لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو ۵

— ﴿سورة المائدہ آیت ۸۹﴾ —

۵۔ اٰهْلِهٖ اِلَّا اَنْ يَّصَدَّقُوْا فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَنَتَّخِذُ رَقِيْبَةً مُّؤْمِنَةً ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيَاسٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى اٰهْلِهٖ وَتَخْرِيدٌ رَّقِيْبَةً مُّؤْمِنَةً ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنْ اِلٰهِ ۗ وَكَانَ اِلٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

۶۔ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّمَّا قُتِلَ مِنْ النِّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذُوۡا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هٰذَا بَلٰغُ الْكُتُبِ ۗ اَوْ كَفَّارَةٌ ۗ طَعَامٌ مَّسْكِيْنَ ۗ اَوْ عَدْلٌ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّیَذُوْقَ وَاَبَالَ

۶۔ مومنو! جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا۔ اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو (یا تو اس کا) بدلہ (دے) اور وہ یہ ہے کہ) اسی طرح کا چار پایہ جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقدور کر دیں (کرے اور یہ قربانی) کعبے پہنچائی جائے یا کفارہ (دے اور وہ) مسکینوں کو کھانا کھلانا (ہے) یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا (کا مزہ) چکھے (اور) جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا اور جو پھر (ایسا کام) کرے گا تو

خدا اس سے انتقام لے گا۔ اور خدا غالب (اور) انتقام لینے والا ہے ۵

﴿سورة المائدہ آیت ۹۵﴾

۷۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو (ان کو) ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا (ضرور) ہے۔ (مومنو) اس (حکم سے) تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے ۵

جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے رکھے جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو (اسے) ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلانا (چاہئے) یہ (حکم) اس لئے (ہے) کہ تم خدا اور رسول کے فرمانبردار ہو جاؤ اور یہ خدا کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لئے درد دینے والا عذاب ہے ۵

﴿سورة البجاد آیت ۲۳﴾

أَمْرًا ۷ وَعَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۷ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۷ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۵

۷- وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۷ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ نِسَاءَهُمْ ۷ ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ ۷ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۵ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ نِسَاءَهُ ۷ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۷ ذَلِكُمْ يُتَوَقَّأُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۷ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۷ وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۵



## رہبانیت

۱۔ (اے پیغمبرؐ) تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اسلئے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے ○

— ﴿سورة المائدة آیت ۸۲﴾ —

۲۔ مومنو! (اہل کتاب) کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور (ان کو) راہ خدا سے روکتے ہیں ○

— ﴿سورة التوبة آیت ۳۴﴾ —

۳۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر (اور) پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر (انہوں نے اپنے

۱۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَلِيمُونَ ○

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

۳۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۗ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ○

خیال میں) خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے (آپ ہی ایسا کر لیا تھا) پھر جیسا اس کو نباہنا چاہئے تھا نباہ بھی نہ سکے پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں ○

— ﴿سورة المائدة آیت ۲۷﴾ —

## رہن

۱۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور (دستاویز) لکھنے والا نہ مل سکے تو (کوئی چیز) رہن یا قبضہ رکھ کر (قرض لے لو) اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی رہن کے بغیر قرض دیدے) تو امانتدار کو چاہئے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۸۳﴾

## ریا

۱۔ مومنو! اپنے صدقات (و خیرات) احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس (کے مال) کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ (اسی طرح) یہ (ریا کار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۶۴﴾

۲۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اترتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ

۱۔ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آيْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝



۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۖ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

۲۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ۝

۳۔ قَوْلِ الْبَصِيلِ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۗ وَيَمْتَعُونَ بِالْمَاعُونَ ۝

کرنے کیلئے) اور لوگوں کو دکھانے کیلئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے ۵

﴿سورۃ الانفال آیت ۴۷﴾

۳۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے ۵ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں ۵ جو ریا کاری کرتے ہیں ۵ اور برتنے کی چیزیں

عاریت نہیں دیتے ۵

﴿سورۃ الماعون آیت ۷﴾

رہن: نیز دیکھئے: قرض ریا نیز دیکھئے: منافق

## زبور

۱۔ اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخش اور داؤد کو زبور عنایت کی ۵

— ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۵﴾ —

۲۔ اور ہم نے نصیحت (کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکو کار بندے ملک کے وارث ہوں گے ۵

— ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۵﴾ —

## زراعت

۱۔ اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی۔ اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں میں) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور (بعض باتوں میں) نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی) کا ٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بیجانہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

— ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۴۱﴾ —

۱۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ  
۲۔ وَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝



۱۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَدَّتٍ مَّعْرُوشٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝  
۲۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَبِّرَاتٌ وَجَدَّتْ مِن أَعْنَابٍ وَزَّرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرِ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَقَّضَلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝  
۳۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ

۲۔ اور زمین میں کئی طرح کے قطععات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجودیکہ) پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میوؤں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں ۵

— ﴿سورۃ الرعد آیت ۴﴾ —

۳۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے مانی برسایا جسے تم مانتے



ہو اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے ہیں) جن میں تم اپنے چار پاپوں کو چراتے ہو ۵

اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور (اور اور بیٹھا درخت) اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل (پیدا کرتا ہے)

غور کرنے والوں کے لئے اس میں (قدرتِ خدا کی بڑی) نشانی ہے ۵

--- ﴿سورۃ النمل آیت ۱۱۰﴾ ---

۴۔ کیا جو چیزیں (تمہیں) یہاں (میسر) ہیں ان میں تم بے

خوف چھوڑ دیئے جاؤ گے؟ ۵

(یعنی باغ اور چشمے) ۵

اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الشعراء آیت ۱۳۶-۱۳۸﴾ ---

۵۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں

کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان

کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی (کھاتے ہیں) تو یہ دیکھتے

کیوں نہیں؟ ۵

--- ﴿سورۃ السجدہ آیت ۲۷﴾ ---

۶۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس

کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس

نیز دیکھئے: مارش

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۵ يُبْتِغِي لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ  
وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۵ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۵

4- اَتَّرْتُمُونَ فِيهَا ههنا آمينين ۵ في جدتي وعيون ۵ و  
زروع و نخيل طلعتها ههنا ۵

5- اولكم يروا انا تسوق الماء الى الارض الجرز فتخرج  
به زرعاً تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا  
يبصرون ۵

6- ألم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع  
في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج  
قتله مضمراً ثم يجعله حطاماً ۵ ان في ذلك  
لذكري لاولي الاكباب ۵

7- اقرءيتم ما تحرثون ۵ انتم تزرعونها ام  
تحن الزرعون ۵ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلمتم  
تفكرون ۵

کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم

اس کو دیکھتے ہو (کہ) زرد (ہو گئی ہے) پھر اسے چورا چورا کر دیتا

ہے بیشک اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے ۵

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۲۱﴾ ---

۷۔ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو ۵

تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ۵

اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ ۵

--- ﴿سورۃ الواقعة آیت ۶۳-۶۵﴾ ---

## زکوٰۃ

۱۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور جو بھلائی اپنے لئے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۱۰﴾ ---

۲۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷﴾ ---

۳۔ اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۱۵۶﴾ ---

۴۔ خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں (داخل) ہوں ۵

- 1- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
- 2- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
- 3- وَرَسْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَأَسْأَلُكُمُهَا يَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
- 4- إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَسْ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
- 5- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
- 6- الَّذِينَ إِنْ مَنَعْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

۵۔ صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں (اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہئے یہ حقوق) خدا کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۶۰﴾ ---

۶۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز

اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدائی کے اختیار میں ہے ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۳۱﴾ ---

۷۔ بیشک ایمان والے رستگار ہو گئے ۵

جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں ۵

اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں ۵

اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۳۱﴾ ---

۸۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر (خدا) کے

فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۵۶﴾ ---

۹۔ اور جو تم سو دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا

کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور

اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو (وہ موجب برکت

ہے اور) ایسے ہی لوگ (اپنے مال کو) دو چند سے چند کرنے والے

ہیں ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۳۹﴾ ---

وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

7- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ

لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝

8- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ۝

9- وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ لِيَبْرَأَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيحُوا عِنْدَ

اللَّهِ ۝ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُضِلُّونَ ۝

10- وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا ۝ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۝ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝



۱۰۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک

(اور خلوص نیت سے) قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے

لئے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ

تر پاؤ گے اور خدا سے بخشش مانگتے رہو بیشک خدا بخشنے والا مہربان

ہے ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۲۰﴾ ---



مزید حوالے: البقرہ: ۳۳-۸۳-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴

## زمین

۱۔ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے اور ہر طرح کے میوؤں کی دودھ قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے غور کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ۰

اور زمین میں کئی طرح کے قطععات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگوڑے کے باغ اور کھیتی اور بھجور کے درخت بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجودیکہ) پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میوؤں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں ۰

--- ﴿سورة الرعد آیت ۳۳﴾ ---

۲۔ اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلا یا اور اس پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی ۰

--- ﴿سورة الحجر آیت ۱۹﴾ ---

۳۔ وہ (وہی تو ہے) جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لئے رستے جاری کئے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف روئید گیامیں پیدا کیں۔ (کہ خود بھی) کھاؤ اور اپنے چار پاؤں کو بھی چراؤ۔ بیشک ان

۱- وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعَةً مَّتَّجِرَاتٍ وَجُدَّتْ بَيْنَ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صُنُوفٌ وَغَيْرُ صُنُوفٍ يُشْفَى بِمَاءِ وَاحِدٍ ۝ وَنُقِضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

۲- وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَبْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝

۳- الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ۝ كُلُوا وَارْزُقُوا أَنَّكُمْ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ وَنَهَا خَلْقًا لَكُمْ فِيهَا نُوعِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝

۴- أُولَئِكَ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۝ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۝

(باتوں) میں عقل والوں کے لئے (بہت سی) نشانیاں ہیں ۰

اسی (زمین) سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے ۰

--- ﴿سورة ط آیت ۵۵﴾ ---

۳۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ۰

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں (کے بوجھ) سے

ہلنے اور جھکنے) نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں ۵

--- ﴿سورة الانبياء آیت ۳۰﴾ ---

۵۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں ۵

--- ﴿سورة الشعراء آیت ۷﴾ ---

۶۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی (کھاتے ہیں) تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ ۵

--- ﴿سورة السجده آیت ۲۷﴾ ---

۷۔ خدایا آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بیشک وہ بردبار (اور) بخشنے والا ہے ۵

--- ﴿سورة فاطر آیت ۲۱﴾ ---

۸۔ اور (اے بندے یہ) اسی (کی قدرت) کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی (یعنی خشک) دیکھتا ہے جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بیشک وہ ہر چیز

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۵

5- اَوْ لَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمَا اَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۵

6- اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَتَخْرِجُهُ رِزْعًا يَأْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُونَ ۵

7- اِنَّ اللّٰهَ يُمِيسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَكَيْنَ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكْتَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهَا اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۵

8- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنَّكَ تَرٰى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيَّهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ ۵ اِنَّ الَّذِيْ اَحْيَاهَا لَكُنْحٰى الْمَوْتِ ۵ اِنَّهٗ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۵

9- وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ۵ فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۵ وَاللِّغْلٰنُ ذٰتُ الْاَلْمَامِرِ ۵ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۵ وَالرَّيْحَانُ ۵ فَبِاٰتِي الْاَعْرَابِ لَكُمْ اٰتٍ ۵

پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورة حم السجده آیت ۲۹﴾ ---

۹۔ اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی ۵

اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں ۵

اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول ۵ تو (اے گروہ جن دانس) تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ۵

--- ﴿سورة الرحمن آیت ۱۰﴾ ---

## زنا

۱۔ اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۲﴾ ---

۲۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد (جب

ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سو

ڈڑے مارو۔ اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع

خدا (کے حکم) میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہئے کہ ان

کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو ۵

بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار

عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا

اور یہ (یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا) مومنوں پر حرام ہے ۵

--- ﴿سورۃ النور آیت ۲-۳﴾ ---

۳۔ اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت

کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری

کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے

۱- وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۵

۲- الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ

بِأَقْبَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

۳- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعُكَ عَلَىٰ أَنْ لَا

يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ

أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَقْتَرِبْنَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعِصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ

لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی نہ نیک کاموں میں

تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے

خدا سے بخشش مانگو۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورۃ المتحنہ آیت ۱۲﴾ ---

## زندگی کیا ہے

۱۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے (یعنی) ان کے لئے جو (خدا سے) ڈرتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۳۲﴾ ---

۲۔ دنیا کی زندگی کی مثال مینہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکالا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہوگئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں ناگہاں رات کو یادن کو ہمارا حکم (عذاب) آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ (کرایسا کر) ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم (اپنی قدرت کی) نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۲۴﴾ ---

۳۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی ۵

یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوا اور کچھ

۱- وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَهَوًىٰ ۚ وَكَذٰلِكَ اُخْرِجْتُمْ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۙ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

۲- اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۗ حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاَزْيَنْتَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا ۗ اِنَّهَا اَمْرٌ نَّالِيًا ۗ اَوْ نَهَارًا ۗ فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا ۗ اِذَا كَانَ لِمَنْ تَعْنٰ بِالْاَمْسِ ۗ كَذٰلِكَ نَقْصِلُ الْاٰلِيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

۳- مَن كَانَ يُوَدُّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ وَزَيَّنَّهَا نُوْفً ۖ اِنۡبَهَمۡ اَعْمٰلَهُمۡ فِيهَا ۖ وَهُمۡ فِيهَا لَا يُخۡشَوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمۡ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۗ وَحِطَّ مَا صَنَعُوۡا فِيهَا ۗ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا يَعْمَلُوْنَ ۝

۴- وَاَضْرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلًا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ ۖ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوۡهُ الرِّيۡحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا ۵

--- ﴿سورة ہود آیت ۱۶۵﴾ ---

۳۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اسکے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی پھر وہ چورا چورا ہوگئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة الکہف آیت ۴۵﴾ ---

۵۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور (ہمیشگی)

زندگی (کا مقام) تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ (لوگ) سمجھتے ۵

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۶۳﴾ ---

۶۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت

(وآرائش) اور تمہارے آپس میں فخر (وستائش) اور مال و اولاد

کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب (وخواہش) ہے (اس کی مثال

ایسی ہے) جیسے بارش کہ (اس سے کھیتی اگتی اور) کسانوں کو کھیتی

بھلی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پڑاتی ہے پھر (اے دیکھنے والے) تو

اس کو دیکھتا ہے کہ (پک کر) زرد پڑ جاتی ہے پھر چوراچورا ہو جاتی

ہے اور آخرت میں (کافروں کیلئے) عذاب شدید اور (مومنوں

کیلئے) خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی

تو متاع فریب ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحدید آیت ۲۰﴾ ---

۷۔ اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے ۵

پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور (اسی سے) تم کو نکال کھڑا کرے گا ۵

--- ﴿سورۃ نوح آیت ۱۸۱﴾ ---

5- وَمَا هِيَ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ إِنَّا لَهُمْ وَلِيُّبَ وَإِنَّ الدَّارَ

الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

6- اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۗ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَ

تَفَاهُ ۗ خُرُوجٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۗ

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَتَهُ

مُضْطَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ

وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

إِلَّا مَتَاعٌ غَرُورٌ ۝

7- وَاللَّهُ أَنزَلَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۗ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَ

يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝



## زہد

۱۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بچ ڈالتا ہے اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۰۷﴾ ---

۲۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے اور اگر یہ اس نصیحت پر کار بند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہت اور (دین میں) زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا ۵

اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے ۵

اور سیدھا راستہ بھی دکھاتے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۶۶-۶۸﴾ ---

۲۔ مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب الیم سے مخلصی دے ۵

(وہ یہ کہ) خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر

ہے ۵

--- ﴿سورة الف آیت ۱۳ تا ۱۰﴾ ---

۱۔ و مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

۲۔ وَكَوَاكِبًا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۗ وَكَوَاكِبًا فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَهِيئَةً ۗ وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۗ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۗ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۗ ذَٰلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَكَفَّةٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغہائے جنت میں جن میں

نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاودانی

میں (تیار) ہیں داخل کرے گا یہ بڑی کامیابی ہے ۵

اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو (یعنی تمہیں) خدا کی

طرف سے مدد (نصیب ہوگی) اور فتح (عن) قریب (ہوگی) اور

مومنوں کو (اسکی) خوشخبری سنا دو ۵

## زیب وزینت

۱۔ اے نبی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بے چانہ اڑاؤ کہ خدا بے جاڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

پوچھو تو کہ جو زینت (و آرائش) اور کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کیلئے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کیلئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۳۲﴾ ---

۲۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں۔ کہ تم آرائش زندگی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہانہ ماننا ۵

--- ﴿سورة الکہف آیت ۲۸﴾ ---

۳۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (رواق) (زیبت) ہیں۔ اور

۱۔ یٰٰدٰیٓ اٰدَمَ خُذْ وَاٰزِیْنَتَکُم مِّنْ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ؕ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْٓ اُخْرِجَ لِعِبَادَةِ وَالطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِیَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ کَذٰلِکَ نَفِصِلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝

۲۔ وَاَصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عِیْنُکَ عَنْهُمْ تُرِیْدُ زِیْنَةَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ؕ وَلَا تُطْعَمْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَآلِهَتِهِمْ هُوْنٌ وَّکَانَ اَمْرٌ قُرْطًا ۝

۳۔ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِیْنَةُ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ؕ وَالْبَقِیٰتُ الصَّٰلِحٰتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ تَوَابًا وَخَیْرٌ اَمَلًا ۝

۴۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِیْ لَا یَدْرُوْنَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ یَّضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مِتَبَرِّجٍ جَمِیْۤا یَزِیْنَهُنَّ وَاَنْ یَّسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهِنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝

نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے

پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں ۵

--- ﴿سورة الکہف آیت ۳۶﴾ ---

۳۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ

کپڑے اتار (کر سرنگا کر) لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ

اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو

(یہ) ان کے حق میں بہتر ہے اور خدا سنتا جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۶۰﴾ ---



## زیور

۱۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہنتے ہو۔

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۴﴾ ---

۲۔ (اور) جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ۵

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں انکے (مخلوں کے) نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ ہار یک دیا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے (اور) تختوں پر بیٹھے لگا کر بیٹھا کریں گے (کیا) خوب بدلہ اور (کیا) خوب آرام گاہ ہے ۵

--- ﴿سورة الکہف آیت ۳۱﴾ ---

۳۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو جن کو بیٹے دیئے ۵

۱- وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ جُيُوشًا حَلِيَّةً يَلْبَسُونَهَا

۲- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَجْلِسُونَ فِيهَا مِنْ آسَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ ۗ نِعْمَ الْأَجْرُ ۗ وَحَسَنَتْ مَرْفَقَتَا ۗ

۳- أَمْ اتَّخَذَ مِثًّا يَخْلُقُ بَدَنًا وَأَصْفَكُمْ بِالْبَيْنِينَ ۚ وَإِذَا يَبُورُ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ أَوْ مَنْ يَتَّقُوا فِي الْجَلِيلَةِ وَهُوَ فِي الْحِصَاوِ غَيْرُ مُبِينٍ ۚ



حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کیلئے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے ۵

کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے (خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟) ۵

--- ﴿سورة الزخرف آیت ۱۸﴾ ---



## سایہ

1- وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَوَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

2- اَوْ لَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّحُوْا ظِلَالَهُ

عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمٰلِیْ سَجَدًا لِلّٰهِ وَهُمْ ذٰخِرُوْنَ ۝

3- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَنْبَاطًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَ

سَرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ بِاَسْمٰكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَسْلُمُوْنَ ۝

4- اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَكُوْشًا جَعَلَهُ

سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الْقَمَرَ عَلَیْهِ دَلِيْلًا ۚ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ

اِلَیْنَا قَبْضًا یَسِيْرًا ۝

۱۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی

سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام

(سجدے کرتے ہیں) ۝

--- ﴿سورة الرعد آیت ۱۵﴾ ---

۲۔ کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں

دیکھیں جن کے سائے دائیں سے (بائیں کو) اور بائیں سے

(دائیں کو) لوٹتے رہتے ہیں (یعنی) خدا کے آگے عاجز ہو کر

سجدے میں پڑے رہتے ہیں ۝

--- ﴿سورة النحل آیت ۴۸﴾ ---

۳۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کو نہیں دیکھا کہ وہ

سائے کو کس طرح دراز کر (کے پھیلا) دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو

اس کو (بے حرکت) ٹھہرا رکھتا پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے

پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں ۝

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۴۵﴾ ---

۳۔ اور خدا ہی نے تمہارے (آرام کے) لئے اپنی پیدا کی ہوئی

چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور

کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور (ایسے) کرتے (بھی

(جو تم کو (اسلمہ) جنگ (کے ضرر) سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح خدا

اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو ۝

--- ﴿سورة النحل آیت ۸۱﴾ ---

۱۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن (مچھلی کا شکار کرنے) میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ

اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کیلئے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کیلئے نصیحت بنا دیا

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۶۵﴾ ---

۲۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے (یعنی) اس وقت کہ انکے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لئے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں

جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی

1- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۖ فَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝  
2- وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ إِنَّهُمْ مُّهْلِكُهُمْ أَوْ مُّعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّنَا وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُونَ ۖ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَبْنَا الَّذِينَ يَبْهَتُونَ عَنِ الشُّعْرِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْتِهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّنَاهُنَّ عَنَّا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝



گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کئے جاتے تھے

غرض جن اعمال (بد) سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر (اصرار اور ہمارے حکم) سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۱۶۳﴾ ---



## ستارے

۱۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو عقل والوں کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں

--- ﴿سورة الانعام آیت ۹۷﴾ ---

۲۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک (آسانی سے) جاسکو اور راستوں میں (نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں)

--- ﴿سورة النمل آیت ۱۶﴾ ---

۳۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں

--- ﴿سورة الحج آیت ۱۸﴾ ---

۴۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم

- ۱- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱﴾
- ۲- وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَايَا أَنْ تَحِيدَ بِكُمْ وَانْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲﴾ وَعَلَّمَتِ الْوَهْلَ وَالنَّجْمَ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳﴾
- ۳- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ﴿۴﴾
- ۴- فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ﴿۵﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَالِدِ الْعِزَّةِ عَظِيمٌ ﴿۶﴾
- ۵- وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿۷﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿۸﴾ النُّجُومُ الثَّاقِبُ ﴿۹﴾ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّآتَا عَلَيْهَا حَافِظًا ﴿۱۰﴾

اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے

--- ﴿سورة الواقعة آیت ۷۷﴾ ---

۵۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے وہ تارا ہے چمکنے والا

کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں

--- ﴿سورة الطارق آیت ۳﴾ ---

نیز دیکھئے: تخلیق کائنات - تغیر کائنات - شہاب ثاقب - فلکیات

## سچ

۱۔ خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راستبازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ابدالاً بآدان میں بستے رہیں گے خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں یہ بڑی کامیابی ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۱۱۹﴾ ---

۲۔ اے اہل ایمان! خدا سے ڈرتے رہو اور راستبازوں کے ساتھ رہو ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۱۱۹﴾ ---

۳۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے (اپنے قول کو) ذرا بھی نہیں بدلا ۵

تاکہ خدا چوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا (چاہے) تو ان پر مہربانی کرے بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۲۳﴾ ---

۴۔ (جو لوگ خدا کے آگے سراطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی) مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راستباز مرد اور راستباز

۱۔ قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَّرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۵

۲۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۵

۳۔ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عٰهَدُوْا اللهَ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۵ وَمَا يَدَّبُّوْا

تَبَدُّلًا ۵ لِيُعْزِيَ اللهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ

اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۵ اِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۵

۴۔ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

وَالْقَنِيْطِيْنَ وَالْقَنِيْطٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ

وَالصّٰبِرٰتِ وَالْحٰشِعِيْنَ وَالْحٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ

وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰبِئِيْنَ وَالصّٰبِئٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ

فِرْوَجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ وَالذّٰكِرٰتِ وَالذّٰكِرٰتِ

اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۵

۵۔ وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصّٰدِقِيْ وَصَدَّقَ بِهٖ اَوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۵

کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنیوالی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لئے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۳۵﴾ ---

۵۔ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی

وہ جو چاہیں گے ان کیلئے ان کے پروردگار کے پاس (موجود) ہے نیوکاروں کا یہی بدلہ ہے ۵

تاکہ خدا ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کیں دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے ۵

--- ﴿سورة الرمز آیت ۲۳ تا ۲۵﴾ ---

### سحر

۱۔ اور ان (ہزلیات) کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی (پیچھے لگ گئے) جو شہر بابل میں دو فرشتوں (یعنی) ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو (ذریعہ) آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرض لوگ ان سے ایسا (جادو) سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور خدا کے حکم کے سوا اس (جادو) سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اور کچھ ایسے (منتر) سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں (یعنی سحر اور منتر

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ  
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۵



1- وَأَتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرُوا  
سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّخِرَ وَمَا  
أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ  
أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا هُنَّ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا  
مَا يُفْرَقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَآئِنٍ بِهِ مِنْ  
أَحَدٍ ۖ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ  
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۖ  
وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۵  
2- وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنِّي بِلِكِّ سَاحِرٍ عَلَيْهِمْ ۖ فَلَمَّا جَاءَ  
السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ ۖ فَلَمَّا

وغیرہ) کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ (اس بات کو) جانتے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۰۲﴾ ---

۲۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ ۵

جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا

ج: نیز دیکھیے: جھوٹ



جب انہوں نے (اپنی رسیوں اور لاشیوں کو) ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم (بنا کر) لائے ہو جادو ہے خدا اس کو ابھی نیست و نابود کر دینگے خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۷۹ تا ۸۱﴾ ---

۳۔ اور جو چیز (یعنی لاشی) تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نکل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے (یہ تو) جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا

--- ﴿سورہ طہ آیت ۶۹﴾ ---

۴۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں

ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی

اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے

اور گنڈوں پر (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے والیوں کی برائی سے

اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے

--- ﴿سورۃ الفلق آیت ۵۲﴾ ---



حزب حوالے: المائدہ: ۱۳- الانعام: ۷- الاعراف: ۱۰۸- ۱۱۵- یونس: ۲- ہود: ۷- طہ: ۷۹- ۵۷- ۵۸- ۶۳- ۶۶- الانبیاء: ۳- المؤمنون: ۲۳- الشعراء: ۳۳-

النمل: ۱۳- القصص: ۳۶- سہا: ۳۳- الصافات: ۱۵- ص: ۳- الزخرف: ۳۰- الاحقاف: ۷- الزاریات: ۳۹- الطور: ۱۵-

القمر: ۲- القف: ۳۶- المدثر: ۲۳ نیز دیکھئے: جہاڑ پھونک

## سخاوت و فیاضی

۱۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو (قبلہ سمجھ کر ان) کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور (خدا کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں (کے چھڑانے) میں (خرچ کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (خدا سے) ڈرنے والے ہیں ۵

— ﴿سورة البقره آیت ۱۷۷﴾ —

۲۔ (اے محمد) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہ (جو چاہو خرچ کرو لیکن) جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو بھلائی تم کو دے گا اس کو جانتا ہے ۵

— ﴿سورة البقره آیت ۲۱۵﴾ —

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝  
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينِ وَالْآقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝  
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝



۳۔ صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جسکی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہئے یہ حقوق (خدا کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے ۵

— ﴿سورة التوبه آیت ۶۰﴾ —

## سرگوشی

۱۔ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہاں (اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۱۳﴾ ---

۲۔ مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور خدا سے جس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہنا ۵

(کافروں کی) سرگوشیاں تو شیطان (کی حرکات) سے ہیں (جو) اس لئے (کی جاتی ہیں) کہ مومن (ان سے) غمناک ہوں مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا تو مومنوں کو چاہئے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں ۵

--- ﴿سورة الجادله آیت ۱۰۹﴾ ---

۳۔ مومنو! جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے (مساکین کو) کچھ خیرات دے دیا کرو یہ تمہارے لئے بہت

۱۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُؤْهِمُ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا

بِالْأَيْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا

بِالْبَيْتِ وَالتَّقْوَى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا

التَّجْوِي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَيْسَ

بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ۝

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ

يَدَيْكُمْ جُؤْهِكُمْ صَدَقَةً ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرٌ ۗ

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ءَأَشْفَقْتُمْ

أَن تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ جُؤْهِكُمْ صَدَقَاتٍ ۗ فَإِذْ لَمْ

تَفْعَلُوا وَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشے والا مہربان ہے ۵

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے (ایسا) نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور خدا اور

اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو ۵

--- ﴿سورة الجادله آیت ۱۳۱﴾ ---

## سعی

- 1- وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝
- 2- قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۗ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۗ
- 3- لَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَفْرَأَنَّ لِسَعْيِهِ وَآثَالَهُ كَيْبُوتًا ۝
- 4- وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۗ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۗ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۗ



۱۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے ۝

— ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۹﴾ —

۲۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی۔ اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں ۝

— ﴿سورۃ الکہف آیت ۱۰۲، ۱۰۳﴾ —

۳۔ جو نیک کام کریگا اور مومن بھی ہوگا تو اسکی کوشش رائیگاں نہ جائے گی اور ہم اس کے لئے (ثواب اعمال) لکھ رہے ہیں ۝

— ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۹۳﴾ —

۴۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ۝

— ﴿سورۃ النجم آیت ۳۹﴾ —



اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی ۝

پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ۝

## سفر

۱۔ (روزوں کے دن) گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کرے۔

— ﴿سورة البقره آیت ۱۸۳﴾ —

۲۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور (دستاویز) لکھنے والا نہ مل سکے تو (کوئی چیز) رہن یا قبضہ رکھ کر (قرض لے لو) اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے) تو امانتدار کو چاہئے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گتھگار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

— ﴿سورة البقره آیت ۲۸۳﴾ —

۳۔ مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کہ غسل (نہ) کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر سے چلے جا رہے ہو (اور پانی نہ ملے

نیز دیکھئے: مسافر

۱۔ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

۲۔ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصْنَبْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِيمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَسْتُمْ إِلَىٰ الْمَسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۙ



کے سب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو پیشک خدا معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے۔

— ﴿سورة النساء آیت ۴۳﴾ —



## سُنَّتِ اللّٰهُ

۱۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین (مکہ) سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہے مگر کم ۵

جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا (اور ان کے بارے میں ہمارا یہی) طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے ۵

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۷۷﴾

۲۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کیلئے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا ۵

اور جو خدا کے پیغام (جوں کے توں) پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے ۵

﴿سورۃ الاحزاب آیت ۲۸-۲۹﴾

۳۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے (اس وقت) ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ

۱۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

۲۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۝ سُنَّةَ

اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۝ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا

مَقْدُورًا ۝ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ رَسَلَتْ اللَّهُ وَيَخَشُونَهُ وَلَا

يَخْتَمُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۝ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

۳۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّةً وَ

كُفْرًا يَهَابُكُمَا بِهِ ۝ مَشْرُكِينَ ۝ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ

إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي

قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۝ وَخَيْرَ هُنَاكَ

الْكُفْرُونَ ۝

۴۔ وَلَوْ قُتِلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَلِمَةَ الْأَذْهَابِ ثُمَّ لَا يُجَدُّونَ

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۝

وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

دیا۔ (یہ خدا کی عادت (ہے) جو اس کے بندوں (کے بارے) میں چلی آتی ہے اور وہاں کافر گھائے میں پڑ کر رہ گئے ۵

﴿سورۃ المؤمن آیت ۸۵﴾

۳۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھے پھیر کر بھاگ جاتے پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار ۵

(یہی) خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۲۲﴾

1- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ  
فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبِعْهَا ۗ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ  
وَأَمْرًا إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَتَحَقَّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن  
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا  
تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

3- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

4- وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِرِيبَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِي بِيَا عِنْدَ  
اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ

۱۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے) اس طرح (خواس  
باختہ) انھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ  
اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود ایچنا بھی تو (نفع کے لحاظ سے)  
ویسا ہی ہے جیسے سود (لینا) حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے  
اور سود کو حرام تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود  
لینے سے (باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور (قیامت میں)  
اس کا معاملہ خدا کے سپرد اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں  
کہ ہمیشہ دوزخ میں (چلتے رہیں گے) ۝

خدا سود کو نابود (یعنی بے برکت) کرتا اور خیرات (کی برکت) کو  
بڑھاتا ہے اور خدا کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا ۝

کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان ۝

﴿سورة البقرة آیت ۲۷۸﴾

۳۔ اے ایمان والو! دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ

نجات حاصل کرو ۝

﴿سورة آل عمران آیت ۱۳۰﴾

۴۔ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو

خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکوٰۃ دیتے

ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب

﴿سورة البقرة آیت ۲۷۵﴾

۲۔ مومنو! خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ

گیا ہے اس کو چھوڑ دو ۝

اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ (کہ تم) خدا اور رسول سے جنگ

کرنے کیلئے (تیار ہوتے ہو) اور اگر توبہ کر لو گے (اور سود چھوڑ

دو گے) تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں

برکت ہے اور) ایسے ہی لوگ (اپنے مال کو) دوچند نہ چند کرنے والے ہیں ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۳۹﴾ ---

## سورج

۱۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۴﴾ ---

۲۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (کاموں کا) حساب معلوم کرو یہ (سب کچھ) خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کیلئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ۵

--- ﴿سورة يونس آیت ۵﴾ ---

۳۔ خدا ہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے وہی

هُمُ الْمُضِعُّونَ ۝



- 1- اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الْاَيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حٰثِثًا وَاللَّيْلَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مَسْحَرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ۝ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۝ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
- 2- هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْقَمَرَ ضِيَاً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَقَدَّرَ لَكَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَالْحِسَابَ ۝ مَا خَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۝ يَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝
- 3- اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الْقَمَرَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِى لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ يَذْكُرُ الْاَمْرَ يَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقَآءُ رَبَّكُمْ تَوَقُّوْنَ ۝
- 4- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ وَاللَّوْآءَ

(دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے (اس طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲﴾ ---

۴۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔

--- ﴿سورة الحج آیت ۱۸﴾ ---



۵۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں ۵

﴿سورۃ یونس آیت ۳۰﴾

## سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان (پیغمبر آخرا لڑماں) کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۳۶﴾

۲۔ (اے محمد) خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لئے (خدا سے) مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو اور جب (کسی کام کا) عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو۔ بیشک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۵۹﴾

۳۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر (آخرا لڑماں)

وَكَبِيرٍ مِنَ النَّاسِ ۝

۵۔ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۝ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝



۱۔ الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۝ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

۲۔ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۝ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۝ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

۳۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۝ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ

آگے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب (الہی) میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بیشک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے ۵ جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے ۵

﴿سورۃ المائدہ آیت ۱۶۱﴾

۴۔ ہم کو معلوم ہے کہ ان (کافروں) کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں (مگر) یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۳۳﴾ ---

۵۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے (وہ وقت تم کو یاد ہوگا) جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا (اس وقت) دو (ہی شخص تھے جن) میں (ایک ابو بکر تھے) دوسرے (خود رسول اللہ) جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۴۰﴾ ---

۶۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے (ان سے) کہہ دو کہ (وہ) کان (ہے تو) تمہاری بھلائی کیلئے وہ خدا کا اور مومنوں (کی بات) کا یقین رکھتا ہے اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کیلئے رحمت ہے اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لئے عذاب الیم (تیار) ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۶۱﴾ ---

مُسْتَقِيمٌ

4- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَ  
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

5- إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ  
إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ  
لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۗ وَكَلِمَةُ  
اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

6- وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّيْلِي وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ  
قُلْ أَدْنَىٰ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ  
وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِثْلَكُمْ ۗ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

7- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

8- وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا تَسْأَلُهُمْ

۷۔ (لوگو) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہربان ہیں ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۲۸﴾ ---

۸۔ اور بہت سے آدمی گو تم (کتنی ہی) خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں ۵

اور تم ان سے اس (خیر خواہی) کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے یہ  
(قرآن) اور کچھ نہیں تمام عالم کے لئے نصیحت ہے ۵

۹۔ (اے پیغمبر) اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے  
پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے ۵

--- ﴿سورۃ الکھف آیت ۶﴾ ---

۱۰۔ مومنو! پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم  
کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار  
بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب  
کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات  
پیغمبر کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے (اور کہتے نہیں  
تھے) لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا اور جب  
پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو یہ  
تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کیلئے بہت پاکیزگی کی بات  
ہے اور تم کو یہ شایاں نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی  
بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو بے شک یہ خدا کے نزدیک  
بڑا (گناہ کا کام) ہے ۵

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۵۳﴾ ---

عَلَيْهِ مِنْ آخِرٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۙ  
۹- فَكَذَّبَكَ بِآخِرِ نَفْسِكَ عَلَىٰ أَنَا رَبُّهُمْ ۚ إِنَّ كُمْ يُؤْمِنُونَ ۚ بِهَذَا  
الْحَدِيثِ ۚ أَسْقَاهُ

۱۰- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ  
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ لِنَظَرٍ ۚ إِنَّهُ ۙ وَلَكِنْ إِذَا  
دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَأْتَسِينَ  
لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَىٰ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ  
وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا  
فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَظْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ  
وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا  
أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ  
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۙ

۱۱- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ  
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَلِكُمْ مَثَلُهُمْ فِي

۱۱۔ محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں  
کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے  
والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے) جھکے ہوئے  
سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے  
ہیں۔ (کثرت) سجد کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان  
پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم)  
ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ (وہ) گویا ایک کھتی ہیں

جس نے (پہلے زمین سے) اپنی سوئی نکالی۔ پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الفتح آیت ۲۹﴾ ---

۱۲۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ۵

کہ تمہارے رفیق (محمد) نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں ۵

اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں ۵

یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے ۵

ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ۵

(یعنی جبرائیل) طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے ۵

اور وہ (آسمان کے) اونچے کنارے میں تھے ۵

پھر قریب ہوئے اور اور آگے بڑھے ۵

تو دو مکان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم ۵

پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا ۵

جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا ۵

کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ ۵

اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے ۵

پر لی حد کی بیری کے پاس ۵

اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے ۵

جبکہ اس بیری پر چھارہ تھا جو چھارہ تھا ۵

ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ (حد سے) آگے بڑھی

التَّورَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۲

۱۲۔ وَالْعَجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلِيمٌ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝ أَفَتَمْرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَ مَا جَنَّتُ السَّوْدَىٰ ۝ إِذْ يَعْتَصِي السِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

۱۳۔ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمُنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

۱۴۔ يَا أَيُّهَا الْحَرَقِيلُ ۝ قِمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ تَصِفَةٌ أَوْ تَنْقُصٌ ۝

انہوں نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں ۵

--- ﴿سورۃ النجم آیت ۱۸﴾ ---

۱۳۔ ن۔ قلم کی اور جو (اہل قلم) لکھتے ہیں اس کی قسم ۵

کہ اے محمد! تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو ۵

اور تمہارے لئے بے انتہا اجر ہے ۵

اور تمہارے اخلاق بڑے (عالی) ہیں ۵

--- ﴿سورۃ القلم آیت ۲۲﴾ ---

۱۴۔ اے (محمد!) جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو ۵

رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات ۵

یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم ۵

یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو

ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے

کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا (نفس نبھی کو) سخت پامال کرتا ہے

اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے

دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں

تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر

اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ

--- ﴿سورۃ المزمل آیت ۸۲﴾ ---

۱۵۔ آفتاب کی روشنی کی قسم

اور رات (کی تاریکی) کی جب چھا جائے

(اے محمد) تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض

ہوا

اور آخرت تمہارے لئے پہلی (حالت یعنی دنیا) سے کہیں بہتر

ہے

اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ

گے

بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی (بے شک دی)

اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا

اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پرستم نہ کرنا۔ اور

مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان

کرتے رہنا

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۱۱۲﴾ ---

۱۶۔ (اے محمد) کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ (بیشک کھول

مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۚ إِنَّا

سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۚ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

وَطَأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۚ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ۚ وَادْكُرْ

اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلًا ۚ

15- وَالصُّحُفِ ۚ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ

وَلَا خِذَّةَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۚ وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

فَتَرَضَىٰ ۚ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۚ وَوَجَدَكَ ضَالًّا

فَهَدَىٰ ۚ وَوَجَدَكَ عَابِدًا فَأَغْنَىٰ ۚ فَأَمَّا الْبَيْتَ فَلَآ

تَقهرُ ۚ وَأَمَّا السَّابِلَ فَلَآ تَنْهَرُ ۚ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

16- أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۚ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ فَإِنَّ

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ فَإِذَا أَفْرَغْتَ

فَأَنْصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۚ

17- إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۚ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ

شَانَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ

دیا)۔ اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا

جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی

اور تمہارا ذکر بلند کیا

ہاں (ہاں) مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے

اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو

--- ﴿سورۃ الاشراف آیت ۸۲﴾ ---

۱۷۔ (اے محمد) ہم نے تم کو کوشہ عطا فرمائی ہے

تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو

کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا

--- ﴿سورۃ الکون آیت ۳۲﴾ ---

## سیر و سیاحت

۱۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گذر چکے ہیں تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۳۷﴾ ---

۲۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھر واور دیکھو کہ جو لوگ (تم سے) پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے

--- ﴿سورة الروم آیت ۲۲﴾ ---

## شجر زقوم

۱۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت

ہم نے اس کو ظالموں کیلئے عذاب بنا رکھا ہے

وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا

اس کے خوشے ایسے ہونگے جیسے شیطانوں کے سر

سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے

--- ﴿سورة الصفات آیت ۶۲﴾ ---

۲۔ بلاشبہ تھوہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے

جیسے کھلا ہوا تانبا۔ پیٹوں میں (اس طرح) کھولے گا

جس طرح گرم پانی کھولتا ہے

--- ﴿سورة الدخان آیت ۳۳﴾ ---

۱۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

۲۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلُ ۗ كَانُوا أَكْثَرُ هُمْ مُشْرِكِينَ



۱۔ أُولَئِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوِيمِ ۗ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً

لِلظَّالِمِينَ ۗ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۗ طَلْعُهَا

كَأَنَّهُ رَعُوسُ الشَّيْطَانِ ۗ فَإِنَّهُمْ لَكَايُونَ مِنْهَا فَمَا يُؤْنَسُ

مِنْهَا الْبَطُونُ ۗ

۲۔ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوِيمِ ۗ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۗ كَالْبُهْلِ يَغْلِي فِي

الْبَطُونِ ۗ كَغَلِيِّ الْحَبِيمِ ۗ

۳۔ ثُمَّ أَنْكُمُ إِلَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ ۗ لَكَايُونَ مِنْ

شَجَرٍ مِّنْ زَقْوِيمٍ ۗ فَمَا يُؤْنَسُ مِنْهَا الْبَطُونُ ۗ فَشَرِبُونِ

عَلَيْهِ مِنَ الْحَبِيمِ ۗ فَشَرِبُونِ شُرْبَ الْهَيْبِ ۗ هَذَا نُزُلُهُمْ

يَوْمَ الدِّينِ ۗ

۳۔ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو!

تھوہر کے درخت کھاؤ گے

اور اسی سے پیٹ بھرو گے

اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے

اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں

جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی

--- ﴿سورة الواقعة آیت ۵۶﴾ ---



## شراب

۱۔ اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کیلئے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱۹﴾ ---

۲۔ اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور پانے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ ۵

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو (ان کاموں سے) باز رہنا چاہئے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۹۰﴾ ---

## شریعت

۱۔ اور (اے پیغمبر) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان (سب) پر شامل ہے تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کے لئے ایک

۱- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا  
۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

۱- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِزًا ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝  
۲- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے سو نیک کاموں میں جلدی کرو تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو تباہ دے گا ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۴۸﴾ ---

۲۔ اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس (کے) اختیار کرنے) کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی (اے محمد) ہم نے

حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کے لئے ایک

تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا (اور وہ یہ کہ) دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا

﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۱۳﴾

۳۔ کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کیلئے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا اور اگر فیصلے (کے دن) کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو ظالم ہیں ان کے لئے

درود دینے والا عذاب ہے

﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۲۱﴾

۴۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر (قائم) کر دیا تو اسی (رستے) پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا

﴿سورۃ الجاثیہ آیت ۱۸﴾

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا  
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

۳- أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ  
اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ  
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

۴- ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

۱- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ  
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَن تَطَوَّعَ  
خَيْرًا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

۲- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَتَّعِقُوا فِضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ  
فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۗ وَإِن كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ  
لَيُونِ الضَّالِّينَ

## شعائر اللہ

۲۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں (کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت) اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام (یعنی مزدلے) میں خدا کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس

سے پیشتر تم لوگ (ان طریقوں سے محض) ناواقف تھے

۱۔ پیشک (کوہ) صفا اور مروہ خدا کی

نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے (بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے) اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور

دانا ہے



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ  
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامِ يَتَّخُونُ فَضْلًا قَبْلَ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
 ذَلِكَ وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَأَنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ  
 وَالْبَدَنِ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  
 فَأذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْبُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا  
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



۳۔ مومنو! خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی (جو خدا کی نذر کر دیئے گئے ہوں اور) جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر (یعنی بیت اللہ) کو جارہے ہوں (اور) اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں ۵

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۲﴾ —

۴۔ یہ (ہمارا حکم ہے) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ (فعل) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے ۵

— ﴿سورۃ الحج آیت ۳۲﴾ —

بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو ۵

— ﴿سورۃ الحج آیت ۳۲﴾ —

۵۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائر خدا مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لئے فائدے ہیں تو (قربانی کرنے کے وقت) تقاربانہ کر ان پر خدا کا نام لوجب پہلو کے



## شعراء

۱۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں ۵

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہروادی میں سرمارتے پھرتے ہیں ۵

اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ۵

مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور خدا کو بہت یاد کرتے

رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب

جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الشعراء آیت ۲۲۳ تا ۲۲۷﴾ ---

۲۔ اور ہم نے ان (پیغمبر) کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو

شایان ہے ۵

--- ﴿سورة يس آیت ۶۹﴾ ---

۳۔ کہ یہ (قرآن) فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے ۵

۱- وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ

يَتَّبِعُونَ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا

ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۚ

۲- وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ

۳- إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۗ قَلِيلًا

مَا تُؤْمِنُونَ ۚ



اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو ۵

--- ﴿سورة الحاقة آیت ۴۱﴾ ---



1- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝  
 2- وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝  
 3- وَكَذَٰلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يُؤْذِرُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝



## شفاء

۱۔ لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفاء اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت آ رہی ہے ۝

— ﴿سورۃ یونس آیت ۵۷﴾ —

۲۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور (اونچی اونچی) چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا ۝

اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفاء ہے بیشک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے ۝

— ﴿سورۃ النحل آیت ۶۸-۶۹﴾ —

۳۔ اور ہم قرآن (کے ذریعے) سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے ۝

— ﴿سورۃ نبی اسرائیل آیت ۸۲﴾ —



## شفاعت

۱۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس (کے ثواب) میں سے حصہ ملے گا اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس (کے عذاب) میں سے حصہ ملے گا اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۸۵﴾

۲۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا اور سفارشی بنا لئے ہیں کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ (کچھ) سمجھتے ہی ہوں؟ ۵

کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے اسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے ۵

﴿سورۃ الزمر آیت ۲۳﴾

۳۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لئے چاہے اجازت

بخشے اور (سفارش) پسند کرے ۵

﴿سورۃ النجم آیت ۲۶﴾

۱۔ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۵

۲۔ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۵ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۵

۳۔ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۵

۱۔ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّمْسُ الْقُمَّرُ ۵ وَإِنْ يَدْعُوا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا بِنَحْرِ رَسُولِنَا ۵ وَكَذَّبُوا وَابْتَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۵

## شق القمر

۱۔ قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا ۵ اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے ۵ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے ۵

﴿سورۃ القمر آیت ۲۱﴾

## شکار

۱۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کونسی چیزیں ان کے لئے حلال ہیں (ان سے) کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو اور جس (طریق) سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے (اس طریق سے) تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو کھالیا کرو اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت (خدا کا نام لے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بیشک خدا جلد حساب لینے والا ہے) ○

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۴﴾ ---

۲۔ تمہارے لئے دریا (کی چیزوں) کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے (یعنی) تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لئے اور جنگل (کی چیزوں) کا شکار جب تک تم احرام کی حالت

۱- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الصَّيْدُ كُلُّهُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكُنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○  
2- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْيَتَامَىٰ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُمَّ حُرْمًا وَالْقَوَالِ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ○



۱- فَأذْكُرُونِي أَذْكُرْتُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ○  
2- مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ ○ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ○  
3- وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ

میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا جس کے پاس تم (سب) جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہو ○  
--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۹۶﴾ ---



## شکر

۱۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا ○

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۵۲﴾ ---

۳۔ اور جب تمہارے پروردگار نے (تم کو) آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے

۲۔ اگر تم (خدا کے) شکر گزار ہو اور (اس پر) ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب

تو (یاد رکھو کہ) میرا عذاب (بھی) سخت ہے ۵

--- ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۷﴾ ---

۴۔ پس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ

کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۱۱۳﴾ ---

۵۔ ایک شخص جس کو کتاب (الہی) کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی

آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کئے دیتا

ہوں جب (سلیمان نے) تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا

کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر

کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی

فائدے کیلئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار

بے پروا (اور) کرم کرنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۳۰﴾ ---

۶۔ اگر ناشکری کرو گے تو خدائے بے پروا سے بے پروا ہے اور وہ اپنے

بندوں کیلئے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو

تمہارے لئے پسند کرے گا اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۵

۴۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ

اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِتَّاءَةً تَعْبُدُونَ ۵

۵۔ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ

يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۖ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا

مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۖ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ

فَأَلْبَسْنَا لَهُ لِبَاسًا ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۵

۶۔ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ

الْكُفْرَ ۖ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۖ وَلَا تَزِدُ زَائِدَةً وَذُرِّ

أُخْرَىٰ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ



نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم

کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے

آگاہ ہے ۵

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۷﴾ ---



## شوری

۱۔ (اے محمد) خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لئے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بد خو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لئے (خدا سے) مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو اور جب (کسی کام کا) عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو بیشک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۵۹﴾ ---

۲۔ (لوگو) جو (مال و متاع) تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا (ناپائیدار) فائدہ ہے اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے (یعنی) ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵

اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں ۵

۱- فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ لَكُنْتُ فَظًّا غَلِيظًا  
الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ  
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۵

۲- فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ  
اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۵  
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا  
مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۵ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ  
وَآَقَامُوا الصَّلَاةَ ۵ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۵ وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۵



اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۲۸۵-۲۸۶﴾ ---



## شہابِ ثاقب

۱۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے

اس کو سجا دیا ۰

اور ہر شیطان رائدہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا ۰

ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انکار اس کے پیچھے

لپکتا ہے ۰

— ﴿سورۃ الحج آیت ۱۸۵﴾ —

۲۔ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے

مزین کیا ۰

اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی ۰

کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے (ان پر

انکارے) پھینکے جاتے ہیں ۰

(یعنی وہاں سے) نکال دینے کو اور ان کیلئے عذاب دائمی ہے۔

ہاں جو کوئی (فرشتوں کی کسی بات کو) چوری سے جھپٹ لینا چاہتا

ہے تو جلتا ہوا انکار اس کے پیچھے لگتا ہے ۰

— ﴿سورۃ الضحیٰ آیت ۱۰﴾ —

۱۔ وَكَذَٰبًا جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۚ وَ

حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۚ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ

فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ۝

۲۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ ۚ وَحِفْظًا مِنْ

كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَ

يَقْدُرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۚ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصَابٌ ۚ

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

۳۔ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَةً حَرَسًا شَدِيدًا

وَشُهْبًا ۚ وَإِنَّا لَكَائِنَةٌ نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۚ فَمَنْ

يَسْمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ۚ



۳۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور

انگاروں سے بھرا ہوا پایا ۰

اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں (خبریں) سننے کیلئے

بیٹھا کرتے تھے اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لئے انکارا

تیار پائے ۰

— ﴿سورۃ الجن آیت ۹۸﴾ —





## شہادت

۱۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں (وہ مردہ نہیں) بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۵۴﴾ ---

۲۔ اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مرجاؤ تو جو (مال و متاع) لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ اور اگر تم مرجاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کئے جاؤ گے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۵۸﴾ ---

۳۔ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا (وہ مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے ۵

جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور (شہید ہو کر) ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منارہے ہیں کہ (قیامت کے دن) ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ۵

اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ

1- وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ  
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

2- وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ  
وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى  
اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝

3- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَسْتَ بِشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ  
أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ  
مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

4- فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَقُتِلُوا أَوْ قُتِلُوا لَآ كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَبَأْتِهِمْ وَلَا ذُخْلَتَهُمْ  
جَدَّتْ تَحْيَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ تَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ۝

5- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۶۹﴾ ---

۴۔ تو جو لوگ میرے لئے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کئے گئے میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ (یہ) خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۹۵﴾ ---

۵۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کیساتھ ہونگے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۱۶۹﴾ —

۶۔ تو جو لوگ آخرت (کو خریدتے اور اس) کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں۔ اور جو شخص خدا کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۷۴﴾ —

۷۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں (اور اس کے) عوض میں ان کے لئے بہشت (تیار کی) ہے یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے ۵

— ﴿سورة التوبة آیت ۱۱۱﴾ —

۸۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا ۵

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ  
وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا ۝  
۶- فَلَيقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
بِالْآخِرَةِ ۖ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ  
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

۷- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ  
وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ  
وَمَنْ أُوْفِيَ بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا ببيعكم الذي  
بَاعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ۝

۸- وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝  
سَيَبْرئُهُمْ وَيُضَلِّحُ بِأَلْمِهِمْ ۖ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝  
۹- وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ  
وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ



(بلکہ) ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا ۵

اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شامسا کر رکھا ہے داخل کرے گا ۵

— ﴿سورة محمد آیت ۶۴﴾ —

۹۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان (کے) اعمال کا صلہ ہوگا اور ان (کے ایمان) کی روشنی ہوگی ۵

— ﴿سورة الحديد آیت ۱۹﴾ —

## شہد

۱۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور (اونچی اونچی) چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھربنا ۵  
اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفا ہے بیشک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے ۵

— ﴿سورۃ النحل آیت ۶۸﴾ —

۲۔ جنت جس کا پرہیز گاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے (سراسر) لذت ہے اور شہد مصفا کی

۱- وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا  
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۚ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ  
مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ۝

۲- مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ  
غَيْرِ آسِنٍ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ  
خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۚ وَلَهُمْ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۚ



نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے (اور وہاں) ان کیلئے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے ۵

— ﴿سورۃ محمد آیت ۱۱۵﴾ —



## شیاطین

۱۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان (سیرت) انسانوں اور جنوں کو ہر  
غیر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکا دینے کے لئے ایک دوسرے کے  
دل میں ملع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا  
تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ

دو

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۱۲﴾ ---

۲۔ اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا  
کھانا گناہ ہے اور شیطان (لوگ) اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ  
بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہے  
پر چلے تو بیشک تم بھی مشرک ہوئے

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۱﴾ ---

۳۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں  
رکھتے ہیں

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۲۷﴾ ---

۴۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ  
رکھا ہے کہ وہ ان کو برا بھینتہ کرتے رہتے ہیں

--- ﴿سورة مریم آیت ۸۲﴾ ---

۵۔ اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے دوسوں سے تیری  
پناہ مانگتا ہوں

۱- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَكَوْشَاءَ  
رَبِّكَ مَا فَعلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿

۲- وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَنَّ إِلَى أَوْلِيَآئِهِ لِيَجَادِلْكُمْ ۖ وَإِنْ  
أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿

۳- إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

۴- أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَوْرَهُمْ آزَلًا

۵- وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ وَأَعُوذُ بِكَ  
رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿

۶- هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطَانُ ۖ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ

أَكْفٰكٍ أَثِيمٍ ۖ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتُرُهُمْ كِذْبًا وَّكِبًا



اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے  
پاس آ موجود ہوں

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۹۷، ۹۸﴾ ---

۲۔ (اچھا) میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں

ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں

جو سنی ہوئی بات (اس کے کان میں) لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر

جھوٹے ہیں

--- ﴿سورة الشعراء آیت ۲۲۱، ۲۲۳﴾ ---



## شیطان

۱۔ مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۰۸﴾ ---

۲۔ (اور دیکھنا) شیطان (کا کہنا ماننا وہ) تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور خدا بڑی کشمکش والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۸﴾ ---

۳۔ اور خرچ بھی کریں تو (خدا کے لئے نہیں بلکہ) لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر (ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے) اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو (کچھ شک نہیں کہ) وہ برساتھی ہے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۳۸﴾ ---

۴۔ جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لئے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لئے لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو (اور ڈرو مت) کیونکہ شیطان کا داؤدو ہوتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۷۶﴾ ---

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝  
۲- الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ  
يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝  
۳- وَالَّذِينَ يُتَّفِقُونَ آمَآلَهُمْ رَبَّآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا  
فَسَاءَ قَرِينًا ۝  
۴- الَّذِينَ آمَنُوا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ ۗ  
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝  
۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ  
الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ ۝

۵۔ اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور پانے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ ۵

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو (ان کاموں سے) باز رہنا چاہئے ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۹۰﴾ ---

۶۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو (ان کی نظروں میں) آراستہ کر دکھاتا تھا ۵

— ﴿سورة الانعام آیت ۲۳﴾ —

۷۔ اور شیطان (لوگ) اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بیشک تم بھی مشرک ہوئے ۵

— ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۱﴾ —

۸۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو ۵

کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا ۵

اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسکو ریشہ بناتے ہیں اور اس کے (وسوسے کے) سبب (خدا کے ساتھ) شریک مقرر کرتے ہیں ۵

— ﴿سورة النحل آیت ۹۸﴾ —

۹۔ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار (کی نعمتوں) کا کفران کرنے والا (یعنی ناشکرا) ہے ۵

— ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۲۷﴾ —

۱۰۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے

۶۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۵

۷۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ آلِيهِمْ لِيَجْادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۵

۸۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۵ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۵ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهٖ مُشْرِكُونَ ۵

۹۔ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُورًا ۵

۱۰۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط قَالَ ؕأَسْجُد لِمَنْ خَلَقْتَ طيبًا ۵ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلٰى لَيْنٍ أٰخَرْتِنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَآ حَتٰتٰنَكَ ذُرِّيٰتُهٗ إِلَّا قَلِيْلًا ۵ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ قَاتَ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءٌ مَّوْفُورًا ۵ وَاسْتَفْزٰزُ مِنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ

سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسکو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے ۵

(اور ازراہ طنز) کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی (تمام) اولاد کی جڑ کا قاتر ہوں گا ۵

خدا نے فرمایا (یہاں سے) چلا جا۔ جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے (اور وہ) پوری سزا (ہے) اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکا تارہ

اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتارہ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے ۵

جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور (اے پیغمبر) تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے ۵

— ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۶۵﴾ —

۱۱۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے (پیروں کے) گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں ۵

— ﴿سورۃ طہ آیت ۶﴾ —

۱۲۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں ۵

جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا ۵

تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ۵

مگر شیطان۔ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا ۵

(خدا نے) فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا تو

غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ ۵

بولو کہ میں اس سے بہتر ہوں (کہ) تو نے مجھ کو آگ سے پیدا

بِصَوْتِكَ وَأَجَلِبُ عَلَيْهِمْ مَخِيلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي  
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا  
غُرُورًا ۖ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۖ وَكَفَى  
بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

۱۱۔ إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا  
حِزْبَ لَيْكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

۱۲۔ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۖ فَإِذَا  
سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۖ فَسَجَدَ

الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۗ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ  
الْكٰفِرِينَ ۖ قَالَ يَا لَيْسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ

بِيَدَيَّ ۖ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ  
مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۖ قَالَ فَاخْرُجْ

مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ  
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

الْمُنْظَرِينَ ۗ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۖ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَ

کیا اور اسے مٹی سے بنایا ۵

کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے ۵

اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت (پڑتی) رہے گی ۵

کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے

جائیں مہلت دے ۵

کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس روز تک جس کا وقت مقرر

ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا

رہوں گا۔ سو ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں ۵

کہا سچ (ہے) اور میں بھی سچ کہتا ہوں ۝

کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے ۝

سب سے جہنم کو بھر دوں گا ۝

--- ﴿سورۃ ص آیت ۸۵﴾ ---

۱۳۔ اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے (یعنی تغافل

کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی

ہو جاتا ہے ۝

--- ﴿سورۃ الزخرف آیت ۳۶﴾ ---

۱۴۔ شیطان نے ان کو قابو میں کر دیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا

دی ہے۔ یہ (جماعت) شیطان کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ شیطان کا

لشکر نقصان اٹھانے والا ہے ۝

--- ﴿سورۃ الجاثیہ آیت ۱۹﴾ ---

صابی

۱۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست (یعنی)

کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو) جو خدا اور روز قیامت پر ایمان

لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان (کے اعمال)

کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کسی طرح

کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہونگے ۝

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۶۲﴾ ---

مزید حوالے: البقرہ: ۱۳-۳۶-۱۰۲-۱۶۸-۱۶۹-۲۵۵- آل عمران: ۱۵۵- النساء: ۱۱۷-۱۱۹-۱۲۰- الانعام: ۶۸-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲- الاعراف: ۱۱-۲۷-۳۰-۱۷۵-

۲۳۰- الانفال: ۱۱-۲۸- ابراہیم: ۲۲- الحج: ۱۷-۳۰-۳۲- بنی اسرائیل: ۲۷-۵۳- الکہف: ۵۰- مریم: ۲۳-۸۳- طہ: ۱۱۶-۱۲۲- الانبیاء: ۸۲-

الحج: ۳-۵۲-۵۳- المؤمنون: ۹۷- النور: ۲۱- الفرقان: ۲۹- اشعرا: ۹۳-۹۴-۹۸-۲۲۱-۲۲۱- انمل: ۲۳- العنکبوت: ۲۸- لقمان: ۲۱- سبأ: ۲۰-

فاطر: ۲- یس: ۷- الصافات: ۷- ص: ۳۷-۳۸- حم السجدہ: ۲۶- الزخرف: ۶۲- محمد: ۲۵- الحشر: ۱۶- الملک: ۵- النکاثر: ۲۵- مزید حوالے: شیطان



## صبح و شام

۱۔ یعنی (رات کے اندھیرے سے) روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو (موجب) آرام ٹھہرایا۔ اور سورج اور چاند کو (ذرائع) شمار بنایا ہے یہ خدا کے (مقرر کئے ہوئے) اعزازے ہیں جو غالب (اور) علم والا ہے ۵

﴿سورة الانعام آیت ۹۷﴾

۲۔ تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو (یعنی نماز پڑھو) ۵

اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دو پہر ہو (اس وقت بھی نماز پڑھا کرو) ۵

﴿سورة الروم آیت ۱۸﴾

۳۔ اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو ۵

اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو ۵

﴿سورة الاحزاب آیت ۴۱﴾

۳۔ ہاں (ہاں ہمیں) چاند کی قسم ۵

اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے ۵

اور صبح کی جب روشن ہو ۵

کہ وہ (آگ) ایک بہت بڑی (آفت) ہے ۵

﴿سورة المدثر آیت ۳۳﴾

۱۔ فالق الإصباح ۵ وجعل الليل سكناً والقامس والقمر

حساباً ۵ ذلك تقدير العزيز العليم ۵

۲۔ فسبحن الله حين نمتون وحين تصبون ۵ وله الحمد

في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ۵

۳۔ يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كبيراً ۵ وسبحوه

بكرةً وأصيلاً ۵

۴۔ كلاً والقمر ۵ والليل إذ أدبر ۵ والضبح إذ أسفر ۵ إنها

لأحدى الكبرى ۵



۱۔ يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ۵ إن الله

مع الصابرين ۵

۲۔ ولنبؤنكم بشيء ۵ من الخوف والجوع ونقص من

الأموال والآنفيس والتمريت ۵ وبئير الصابرين ۵

۳۔ يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا

## صبر

۱۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بیشک خدا صبر کرنے

والوں کے ساتھ ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۵۳﴾

۲۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور مالوں

کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو

(خدا کی خوشنودی کی) بشارت سنا دو ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۵۵﴾

۳۔ اے اہل ایمان (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہو ۵



اور استقامت رکھو اور (مورچوں پر) جے رہو اور خدا سے ڈرو  
تا کہ مراد حاصل کرو ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۲۰۰﴾ ---

۳۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دوشمنی تکلیف تم کو ان  
سے پہنچی۔ اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کیلئے بہت اچھا ہے ۵  
اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی خدائی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے  
میں غم نہ کرو اور جو یہ بداندیشی کرتے ہیں اس سے تنگدل نہ ہو ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۲۶﴾ ---

۵۔ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو ۵

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر  
جاتے ہیں اور (جب) ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں  
اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو عطا  
فرمایا ہے اس میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۳۳﴾ ---

۶۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور (لوگوں) کو اچھے کاموں کے کرنے  
کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع  
ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں ۵

--- ﴿سورة لقمان آیت ۱۷﴾ ---

اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَقِيْمُوْنَ ۝

4- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ ۝ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ صَبِيْحٍ مِّمَّنْ يَّنْكُرُوْنَ ۝

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُتَّبِعِيْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

6- يُبَيِّنُ آيَمَ الصَّلٰوةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ۝

7- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الذُّوْحَ حَقًّا عَظِيْمٌ ۝

--- ﴿سورة حم السجده آیت ۳۳﴾ ---

نصیب ہیں ۵

۷۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو (سخت کلامی کا) ایسے  
طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو  
گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست  
ہے۔ اور یہ بات ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت  
کرنے والے ہیں اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب  
نصیب ہیں ۵

--- ﴿سورة حم السجده آیت ۳۳﴾ ---

## صحابہ کرام کا ذکر

۱۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزماں) تم پر گواہ بنیں۔ اور جس قبلے پر تم (پہلے) تھے اس کو ہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون (ہمارے) پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون اگلے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات (یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو) گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی ہے (وہ اسے گراں نہیں سمجھتے) اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یونہی کھودے۔ خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان (اور) صاحب رحمت ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۴۳﴾

۲۔ (مومنو!) جتنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۱۰﴾

۳۔ جو (ذی استطاعت) مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو (بیچارے غریب) صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے (اور تھوڑی سی کمائی میں بھی خرچ کرتے ہیں) ان پر جو (منافع) طعن کرتے اور ہنستے ہیں خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کیلئے

۱- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِنَّمَا تَأْتِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

۲- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

۳- الَّذِينَ يَكْفُرُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۴- لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجًا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے ۵

﴿سورة التوبہ آیت ۷۹﴾

۳۔ نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں (کہ شریک جہاد ہوں یعنی) جب کہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں نیکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

اور نہ ان (بے سرو سامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ۵

— (سورۃ التوبہ آیت ۹۱، ۹۲) —

۵۔ اور بعض بدو ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو وہ بے شبہ ان کے لئے (موجب) قربت ہے۔ خدا ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں اور اس نے ان کیلئے باعناات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اور) ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے ۵

— (سورۃ التوبہ آیت ۹۹، ۱۰۰) —

۶۔ بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لِيَذَّبَنَّهُمْ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لِيَذَّبَنَّهُمْ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لِيَذَّبَنَّهُمْ

۵- وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ

مَا يُنْفِقُ قُرْبَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۗ أَلَا إِنَّهَا

قُرْبَىٰ لَهُمْ ۗ سِذَّخَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ وَالشُّيْقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ

۶- لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ

قُلُوبَهُمْ فَرِيقٌ مِنْهُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ ۗ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا ۗ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ

عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی بیشک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے ۵

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا (کے ہاتھ) سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ۵

پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۱۷﴾ ---

۷۔ اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہوگئی ۵

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۲۲﴾ ---

۸۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا ۵

--- ﴿سورة الفتح آیت ۱۰﴾ ---

۹۔ (اے پیغمبر) جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے خدا ان سے خوش ہوا۔ اور جو (صدق و خلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی

وَلَقَدْ جَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَقَدْ جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا يَشْعُرُونَ  
فَلَمَّا كَانَتْ هُدُوبُهُمْ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ جَاءَنَا بِالنَّصْرِ  
مِنَ اللَّهِ وَبِالْغَلَبِ  
فَلَمَّا كَانَتْ هُدُوبُهُمْ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّكَ جَاءَنَا بِالنَّصْرِ  
مِنَ اللَّهِ وَبِالْغَلَبِ

7- وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا  
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ  
مَنْ قَضَىٰ نَجْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا

8- إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ  
أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ  
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْهُمْ شَرِيحٌ أَجْرًا عَظِيمًا

9- لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ  
فَتْحًا قَرِيبًا وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ  
عَزِيزًا حَكِيمًا

10- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ  
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

اور انہیں جلد فتح عنایت کی ۵

اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی اور خدا غالب حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الفتح آیت ۱۹﴾ ---

۱۰۔ محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے) جھکے ہوئے سربسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں (کثرت سجد

کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ (وہ) گویا ایک کھیتی میں جس نے (پہلے زمین سے) اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے ۵

--- ﴿سورة الفتح آیت ۲۹﴾ ---

۱۱۔ اور ان مفسلان تارک الوطن کے لئے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج (اور جدا) کر دیئے گئے ہیں۔ (اور) خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے (ایماندار) ہیں ۵

اور ان لوگوں کیلئے بھی (جو مہاجرین سے پہلے (ہجرت کے) گھر (یعنی مدینے) میں مقیم اور ایمان میں (مستقل) رہے (اور) جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش (اور خلش) نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچالیا گیا تو

سَيَأْتِيهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ  
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۖ كَزُرْعٍ أَخْرَجَ شَطْنَهُ فَأَزْرَقَتْهَا فَاغْلَظَ  
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْفِهِ يَعْجِبُ الزَّرَّاعَ لَغِيظًا بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ  
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۖ  
۱۱- لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْتَصِرُونَ لِلَّهِ  
وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۖ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا  
الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ  
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ  
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۖ وَمَنْ يُوقِ شَعْرَهُ  
نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَمِدُونَ ۖ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ  
بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا  
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا  
إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ۖ



ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں ۵

اور (ان کیلئے بھی) جو ان (مہاجرین) کے بعد آئے (اور) دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (وحسد) نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الحشر آیت ۱۰ تا ۱۸﴾ ---



تیز دیکھئے: انصار مدینہ۔ ہجرت

## صدقات

۱۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سودا نے ہوں اور خدا جس (کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کشائش والا (اور) سب کچھ جاننے والا ہے۔

جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا (کسی پر) احسان رکھتے ہیں اور نہ (کسی کو) تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس (تیار) ہے اور (قیامت کے روز) نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور (اس کی بے ادبی سے) درگزر کرنا بہتر ہے اور خدا بے پروا (اور) بردبار ہے۔

مومنو! اپنے صدقات (وخیرات) احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس (کے مال) کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ (اسی

۱۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبًّا ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۗ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَلْبَسُوا مَا انْفَقُوا ۗ مَنًّا وَلَا أَذًى ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا ۗ أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَفِيرٌ حَلِيمٌ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۗ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ فَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَرَّكَهُ صَلَدًا ۗ لَا يُقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۗ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْهِيَتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَذَّةٍ بَرِيَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْطَافًا ضَعْفِينَ ۗ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

طرح) یہ (ریا کار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو (جب) اس پر مینہ پڑے تو وہ گنا پھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

۲۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور وہ بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے اور (اس طرح کا دینا) تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۷۱﴾ ---

۳۔ خدا سو کو نابود (یعنی بے برکت) کرتا اور خیرات (کی برکت) کو بڑھاتا ہے اور خدا کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۷۶﴾ ---

۴۔ صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مظلوموں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں (اور خدا کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہئے یہ حقوق) خدا کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۶۰﴾ ---

۵۔ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو (ظاہر میں بھی) پاک اور (باطن میں بھی) پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لئے موجب تسکین

2- اِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْتَابْهِمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاعْلَمُوا  
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝  
3- يَتَحَقَّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  
أَثِيمٍ ۝

4- اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝  
5- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ  
عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝  
اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاخُذُ  
الصَّدَقَاتِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

6- فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّهٗ  
فَيَقُوْلُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ ۗ وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ  
رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ اَهْتَنِ ۗ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُوْنَ

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات (و خیرات) لیتا ہے اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۱۰۳﴾ ---

۶۔ مگر انسان (عجیب) مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزما تا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ (آہا) (میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی ۵

اور جب (دوسری طرح) آزما تا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا



نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے ۝

اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو ۝

اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو ۝

اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو ۝

--- ﴿سورة الفجر آیت ۲۰ تا ۲۵﴾ ---

۷۔ مگر وہ گھائی پر سے ہو کر نہ گزرا ۝

اور تم کیا سمجھے کہ گھائی کیا ہے؟ ۝

کسی (کی) گردن کا چھڑانا ۝

یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ۝

یتیم رشتہ دار کو ۝

یا فقیر خا کسار کو ۝

--- ﴿سورة البلد آیت ۱۶ تا ۱۱﴾ ---

۸۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو (روز) جزا کو جھلاتا ہے ۝

یہ وہی (بد بخت) ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ۝

الْيَتِيمَ ۙ وَلَا تَعْطُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۙ وَتَأْكُلُونَ

الْبُرَاتِ أَكْلًا لَّمَّا ۙ وَتَحْتَبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۙ

7- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۙ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۙ فَكُّ

رَقَبَةٍ ۙ أَوْ اطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۙ تَبَّ مِمَّا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ

أَوْ مَسَكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۙ

8- أَرَعَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ ۙ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ

الْيَتِيمَ ۙ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۙ



اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لئے (لوگوں کو) ترغیب نہیں دیتا ۝

--- ﴿سورة الماعون آیت ۳ تا ۱﴾ ---

## صراطِ مُستقیم

۱۔ (اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ○

ہم کو سیدھے رستے چلا ○

ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا ○

ندان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے ○

﴿سورۃ الفاتحہ آیت ۲۲﴾

۲۔ اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے ○

﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۳﴾

۳۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے ○

﴿سورۃ آل عمران آیت ۵۱﴾

۴۔ اور جس نے خدا (کی ہدایت کی رسی) کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا ○

﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۰۱﴾

۵۔ میں خدا پر جو میرا اور تمہارا (سب کا) پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں (زمین پر) جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے

پکڑے ہوئے ہے بیشک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے ○

﴿سورۃ ہود آیت ۵۶﴾

۱۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۙ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۙ  
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  
وَلَا الضَّالِّينَ ۙ

۲۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۙ

۳۔ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ  
مُّسْتَقِيْمٌ ۙ

۴۔ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

۵۔ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۗ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ  
اٰخِذٌ بِعَصِمَتِهَا ۗ اِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

۶۔ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِينَ اٰمَنُوْا إِلَى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

۷۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۗ اِنَّكَ لَمِنَ الرَّسُوْلِيْنَ ۗ عَلَى  
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

۸۔ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

۶۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے ○

﴿سورۃ الحج آیت ۵۳﴾

۷۔ یس۔ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے ○

(اے محمد) بیشک تم پیغمبروں میں سے ہو ○

سیدھے رستے پر ○

﴿سورۃ یس آیت ۳۲﴾

۸۔ اور بے شک (اے محمد) تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو ○

﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۵۲﴾

## صلح

1- لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝  
 2- وَإِن طَافْتُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝



۱۔ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہاں (اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے ۝

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۱۳﴾ ---

۲۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے

والوں کو پسند کرتا ہے ۝

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے ۝

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۰۹﴾ ---



## صلوة

۱۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور (خدا کے آگے) جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۳﴾ ---

۲۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بیشک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۵۳﴾ ---

۳۔ (مسلمانو!) سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز (یعنی نماز عصر) پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو ۵

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو زیادے یا سوار (جس حال میں ہو نماز پڑھ لو) پھر جب امن (واطمینان) ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے خدا کو یاد کرو ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۳۸﴾ ---

۴۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۷۷﴾ ---

۱۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۵

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۵

۳۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۵

۴۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّكُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۵

۵۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۵

۶۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۵

۷۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَوْ لَفْتُمْ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ ۵

۵۔ مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ

کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو۔ نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت

کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کہ غسل (نہ)

کر لو ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۴۳﴾ ---

۶۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے

پڑھو۔ بشرطیکہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے بے شک

کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں ۰

اور (اے پیغمبر) جب تم ان (مجاہدوں کے لشکر) میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہئے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے۔ جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی (ان کی جگہ) آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو مگر ہوشیار ضرور رہنا خدا نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا

ہے ۰

پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حالت میں) خدا کو یاد کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو (اس طرح سے) نماز پڑھو (جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو) بے شک

الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۗ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۚ وَلَمَّا طَأْفَأَ الْأُخْرَىٰ لَمْ يَصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ ۚ لَكُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّبِينًا ۚ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا ۖ وَسَلِّ جُنُوبَكُمْ ۗ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۖ

7-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْفُؤْا ۚ وَإِنْ

نماز کا مومنوں پر اوقات (مقررہ) میں ادا کرنا فرض ہے ۰

--- سورة النساء آیت ۱۰۳ تا ۱۰۶ ---

۷۔ مومنو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک

ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو۔ اور منٹوں تک پاؤں (دھولیا

کرو) اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو (نہا کر) پاک ہو جایا کرو

اور اگر بیمار ہو ۰

یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم) کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

— ﴿سورة المائدة آیت ۶﴾ —

۸۔ (یہ بھی) کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کیلئے ہے۔

— ﴿سورة الانعام آیت ۱۶۲﴾ —

۹۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا بیشک خدا غالب حکمت والا ہے۔

— ﴿سورة التوبة آیت ۷۱﴾ —

۱۰۔ اور دن کے دونوں سروں (یعنی صبح اور شام کے اوقات میں)

كُنْتُمْ قَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبَاتِ  
أَوَلَسْتُمْ لِلنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۸۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ۝

۹۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ  
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

۱۰۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا ۗ إِنَّ  
الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْءَ ۗ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ۝  
۱۱۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَنْفِقُوا مِمَّا

اور رات کی چند (پہلی) ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک

نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لئے یہ

نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔

— ﴿سورة اہود آیت ۱۱﴾ —

۱۱۔ (اے پیغمبر) میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا

کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ (اعمال کا)

سودا ہوگا اور نہ دوستی (کام آئے گی) ہمارے دیئے ہوئے مال

میں سے درپردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں ۵

— ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۳۱﴾ —

۱۲۔ (اے محمد) سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا کی) نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور (ملائکہ) ہے۔ اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی تمہارے لئے (سبب) زیادت ہے قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے ۵

— ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۷۸﴾ —

۱۳۔ اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو ۵

— ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰﴾ —

۱۴۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور (نیک) انجام (اہل) تقویٰ کا ہے ۵

— ﴿سورۃ طٰہ آیت ۱۳۲﴾ —

۱۵۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر (خدا) کے فرمان پر چلتے رہو تا کہ تم پر رحمت کی جائے ۵

— ﴿سورۃ النور آیت ۵۶﴾ —

رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ۵

۱۲۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَى عَشِيِّ النَّيْلِ وَقُرْآنَ الْقَبْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْقَبْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۵ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ۵ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۵ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَاتَّبِعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۵

۱۴۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۵ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۵

۱۵۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسَالَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۵

۱۶۔ أُنزِلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۵ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۵ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۵ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۵

۱۷۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

۱۶۔ (اے محمد) یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور خدا کا ذکر بڑا (اچھا کام) ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا سے جانتا ہے ۵

— ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۴۵﴾ —

۱۷۔ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں ۵

یہی اپنے پروردگار (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں ۵

— ﴿سورۃ لقمان آیت ۵۴﴾ —

۱۸۔ جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی ۵

کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا وہ تو بخشے والا (اور) قادر دان ہے ۵

— ﴿سورۃ فاطر آیت ۲۹﴾ —

۱۹۔ مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو خدا کی یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (خریدو) فروخت ترک کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ۵

پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ ۵

— ﴿سورۃ الجمعہ آیت ۱۰۹﴾ —

هُم يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

۱۸- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدُجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝

۱۹- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّىٰ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

۲۰- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَبِضْفَةِ

وَتُلُفَةِ ۖ وَطَآئِفَةٍ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالتَّهَارَ ۖ عَلِيمٌ أَن لَّن تُحْصَوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا

تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ

۲۰۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ

(کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور (کبھی) رات اور (کبھی)

تہائی رات قیام کیا کرتے ہو۔ اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ

رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر

مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے (اتنا) قرآن پڑھ لیا کرو

اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے

فضل (یعنی معاش) کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور



بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو جتنا آسانی سے ہو سکے  
 اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کی  
 نیک (اور خلوص نیت سے) قرض دیتے رہو۔ اور جو عمل نیک تم  
 اپنے لئے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں  
 بزرگ تر پاؤ گے اور خدا سے بخشش مانگتے رہو بیشک خدا بخشنے  
 والا مہربان ہے ۵

﴿سورۃ المزل آیت ۲۰﴾

۲۱۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو ۵

اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی  
 پاکی بیان کرتے رہو ۵

﴿سورۃ الدھر آیت ۲۶، ۲۵﴾

۲۲۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا ۵

اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۱۵﴾

۲۳۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے ۵

اٰخِرُونَ يٰقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَقْرَعُوْا مَا تَشْتَرُوْنَ  
 مِنْهُ ۗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ  
 قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تَقْرَضُوْا لَانَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحْدُوْهُ  
 عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ وَّاَعْظَمُ اَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ  
 اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

21- وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۗ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ  
 وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝

22- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۗ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

23- قَوْلٍ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۗ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ  
 سَاهُوْنَ ۗ الَّذِيْنَ هُمْ يُرْءَاوُنَ ۗ وَيَسْتَعُوْنَ  
 الْمَاعُوْنَ ۝

جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں ۵

جو ریا کاری کرتے ہیں ۵

اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے ۵

﴿سورۃ الماعون آیت ۷﴾

مزید حوالے: البقرہ: ۳۰-۳۵-۱۱۰-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰

## صلہ رحمی

۱۔ جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز (یعنی رشتہ قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کئے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۷﴾ ---

۲۔ اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں ۵

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے (مصائب پر) صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے عاقبت کا گھر ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲۱﴾ ---

۱- الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۵

۲- وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۵ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۵

۳- وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۵



۳۔ اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لئے گھر بھی برا ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲۵﴾ ---



## صورِ اسرافیل

۱۔ جس روز صور پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی ۵

--- ﴿سورۃ طٰہ آیت ۱۰۲﴾ ---

۲۔ پھر جب صور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۱۰۱﴾ ---

۳۔ اور جس روز صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے مگر وہ جسے خدا چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے ۵

--- ﴿سورۃ النمل آیت ۸۷﴾ ---

۴۔ اور (جس وقت) صور پھونکا جائیگا یہ قبروں سے (نکل کر) اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے ۵

کہیں گے (اے ہے) ہمیں ہماری خوابگا ہوں سے کس نے (جگا) اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا ۵

صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے ۵

--- ﴿سورۃ یٰسین آیت ۵۲﴾ ---

۵۔ اور جب صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بیہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر

۱۔ یَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ وَتَحْشُرُ الْعَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۱

۲۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۲

۳۔ وَيَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۳ وَكُلُّ أَتُونَةٍ ذٰخِرِينَ ۳

۴۔ وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۴ قَالُوا يَا بُولٰكِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۴ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۴ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۴

۵۔ وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۵ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۵

۶۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۶ وَحِيلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۶ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۶

۷۔ يَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ تَوْنٌ أَوْجَاعًا ۷

دیکھنے لگیں گے ۵

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۶۸﴾ ---

۶۔ تو جب صور میں ایک (بار) پھونک مار دی جائے گی ۵ اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھائے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیئے جائیں گے ۵

تو اس روز ہو پڑنے والی (یعنی قیامت) ہو پڑے گی ۵

--- ﴿سورۃ الحٰقہ آیت ۱۵﴾ ---

۷۔ جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہو گے ۵

--- ﴿سورۃ النبأ آیت ۱۸﴾ ---

## طاغوت

۱۔ دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا (سب کچھ) سنتا اور سب کچھ جانتا ہے ۰

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵۶﴾ ---

۳۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں ۰

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۵۱﴾ ---

۴۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل

۱۔ لَا اِذْكَارَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا اَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۗ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِكَمُ الطَّاغُوتُ ۗ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

۲۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْحَبِيْبِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِّنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝

۳۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اٰمَرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

۴۔ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَتَّبِعُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ

ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو حکم

دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں اور شیطان (تویہ) چاہتا ہے

کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے ۰

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۶۰﴾ ---

۴۔ جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لئے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ

بتوں کے لئے لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو

(اور رومت) کیونکہ شیطان کا داؤد بوجہ ہوتا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۷۶﴾ ---

۵۔ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور (جن کو) ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا برا ٹھکانا ہے اور وہ

سیدھے رستے سے بہت دور ہیں ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۶۰﴾ ---

۶۔ اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا ان کے لئے بشارت ہے تو میرے بندوں کو

بشارت سنادو ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۷۱﴾ ---

يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۗ

۵۔ قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِبَشَرٍ مِّمَّنْ ذَلِكُمْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ

وَالْمُتَّازِينَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ ۗ أُولَئِكَ سَرًّا مَكَانًا وَأَصْلًا

عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۗ

۶۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى

اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۗ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۗ

## طالوت

۱۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جب کہ ہم وطن سے (خارج) اور بال بچوں سے جدا کر دیئے گئے لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے ۵

اور پیغمبر نے ان سے (یہ بھی) کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیونکر ہو سکتا ہے بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر (فضیلت دی ہے اور بادشاہی کیلئے) منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و نوش بھی (بڑا عطا کیا ہے) اور خدا (کو اختیار ہے) جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشاکش والا (اور) دانا ہے ۵

۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا اَلَمْ نَعْبُدْ لَكَ مَلٰٓئِكَةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَتْ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تَقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا اَنْتَ اِيَّكَ يَكُوْنُ لَهٗ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَاَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكًا مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاَسِعَ عَلِيْمٌ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْـمُوسٰى وَآلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهٗ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۗ

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی (بخشنے والی چیز) ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لئے ایک بڑی نشانی ہے ۵  
غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے (ان سے) کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص

قَمْنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ  
 فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ بَعْرِفَةً فَيَشْرِبْ مِنْهُ  
 إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۗ قَالَ  
 الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَمُوا اللّٰهُ لَكُم مِّنْ فَتْنٍ قَلِيلًا  
 غَلَبَتْ فَتْنًا كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ ۝  
 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفِرْنَا  
 صِدْرًا وَكَانَتِ أَعْدَاؤُنَا وَآنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝  
 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ  
 اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ  
 اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ  
 اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝



اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر (چڑھائی  
 اور حملہ کرنے) سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل  
 عالم پر بڑا مہربان ہے ۝

﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۵۶﴾



اس میں سے پانی پی لے گا (اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ) وہ  
 میرا نہیں اور جو نہ پئے گا وہ (سمجھا جائے گا کہ) میرا ہے۔ ہاں  
 اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے (تو خیر جب وہ لوگ  
 نہر پر پہنچے) تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا پھر جب  
 طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو  
 کہنے لگے کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی  
 طاقت نہیں جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر  
 ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے  
 حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا استقلال رکھنے  
 والوں کے ساتھ ہے ۝

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے  
 تو (خدا سے) دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول  
 دے اور ہمیں (لڑائی میں) ثابت قدم رکھ اور (لشکر) کفار پر  
 فتیاب کر ۝

تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد  
 نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی

## طعام اہل کتاب

۱۔ آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے ۵

﴿سورۃ المائدہ آیت ۵﴾

## طلاق

۱۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھالیں ان کو چار مہینے انتظار کرنا چاہیے اگر (اس عرصے میں قسم سے) رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا (اور جانتا ہے) ۵

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس (مدت) میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْنِهِمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ الطَّلَاقُ مَثْرَتَيْنِ ۖ فَأَمَّا كَالمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيَةٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ

(اور) صاحب حکمت ہے ۵

طلاق (صرف) دوبار ہے (یعنی جب دو دفعہ طلاق دیدی جائے تو) پھر (عورتوں کو) یا تو بطریق شائستہ (نکاح میں) رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت (خاوند کے ہاتھ سے) رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ خدا کی (مقرر کی ہوئیں)



حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے ۵

پھر اگر شوہر (دو طلاقوں کے بعد تیسری) طلاق عورت کو دیدے تو اسکے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس (پہلے شوہر) پر حلال نہ ہوگی ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ خدا کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کیلئے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں ۵

اور جب تم عورتوں کو (دو دفعہ) طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہئے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کریگا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور خدا کے احکام کو ہنسی (اور کھیل) نہ بناؤ اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری

اللَّهُ قَائِلِكُمْ هُمْ الظَّالِمُونَ ۝ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۝ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تُتَرَاجَعَ إِنْ طَلَّقَ أَنْ يُتِيَ مَا حُدَّ وَدَّ اللَّهُ وَبَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ بَيْنَهُمَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَكُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۝ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِيَتَعْتَدُوا ۝ وَمَنْ يَتَعَدَّ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۝ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَكُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ إِزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ ۝ ذَلِكَ يُعْظَمُ بِهِ ۝ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝ ذَلِكَ أَرْزَلَكُمْ وَأَطَهَّرَ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

2- لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس (حکم) سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے یہ تمہارے لئے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۵

﴿سورة البقرة آیت ۲۲۲﴾

۲- اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہاں ان کو دستور کے

مطابق کچھ خرچ ضرور دو (یعنی) مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے ۵

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے (اپنا حق) چھوڑ دیں (اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے) اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۳۶-۲۳۷﴾ ---

۳۔ مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے (یعنی ان کے پاس جانے) سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچھ فائدہ (یعنی خرچ) دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو ۵

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۴۹﴾ ---

۴۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے

تَقْرُضُوا لَهُنَّ قَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعْتُمُوهُنَّ عَلَى الْمَوْجِبِ قَدَرُهَا وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهَا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۵ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ قَرَضْتُمْ لَهُنَّ قَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ بِعَفْوِ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاءِ ۶ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۷ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۸

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَيَعْفُوهُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۹  
۴- وَالَّذِينَ يَطْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَهَا قَالَوا قَدْ أَخَذَ رَبِّيَ رِقَابَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّسَأَلَ ۱۰ ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۱۱ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۱۲ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّسَأَلَ ۱۳ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۱۴ ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا

رجوع کر لیں تو (ان کو) ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا (ضرور) ہے (مومنو) اس (حکم) سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے ۵  
جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے رکھے جس کو اس کا مقدور نہ ہو (اسے) ساٹھ مہینے جوں کو کھانا کھانا (چاہئے) یہ (حکم) اس لئے (ہے) کہ تم خدا اور رسول کے فرمانبردار ہو جاؤ اور یہ خدا کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والے کے

لئے درود دینے والا عذاب ہے ۰

— (سورۃ المجادلہ آیت ۳۳) —

يَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
وَآخِصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرُجُوهُنَّ  
مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
مُبَيِّنَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ  
مَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ مَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى  
عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ  
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَ  
يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ  
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ  
جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ وَالَّذِي يُبْسِنُ

نہ ہو اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا خدا  
اپنے کام کو (جو وہ کرنا چاہتا ہے) پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا  
اندازہ مقرر کر رکھا ہے ۰

اور تمہاری (مطلقہ) عورتیں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں اگر تم  
کو (ان کی عدت کے بارے میں) شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے  
ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا (ان کی عدت بھی یہی ہے)  
اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل (یعنی پچھننے) تک ہے  
اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے

۵۔ اے پیغمبر (مسلمانوں سے کہ دو کہ) جب تم عورتوں کو طلاق  
دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار  
رکھو اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو (نہ تو تم ہی) ان کو (ایام  
عدت میں) ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ (خود ہی) نکلیں۔  
ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں (تو نکال دینا چاہئے) اور یہ خدا  
کی حدیں ہیں جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر  
ظلم کرے گا (اے طلاق دینے والے) تجھے کیا معلوم شاید خدا  
اس کے بعد کوئی (رجعت کی) سہیل پیدا کر دے ۰

پھر جب وہ اپنی میعاد (یعنی انقضائے عدت) کے قریب پہنچ  
جائیں تو یا ان کو اچھی طرح سے (زوجیت میں) رہنے دو یا اچھی  
طرح سے علیحدہ کر دو۔ اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ  
کر لو اور (گواہوں) خدا کے لئے درست گواہی دینا۔ ان باتوں  
سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر  
ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لئے (رنج و  
محن) سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا ۰

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم و) گمان بھی

یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کئے ہیں اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دیگا اور اسے اجر عظیم بخشے گا

(مطلقہ) عورتوں کو (ایام عدت میں) اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ دو اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور (بچے کے بارے میں) پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم ضد (اور نا اتفاق) کرو گے تو (بچے کو اس کے باپ کے) کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی

صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا

﴿سورة الطلاق آیت ۱ تا ۷﴾

مِنَ الْمَحِيضِ ۖ مَن نَّسَأَ لَكُمْ اِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّةٌ لَّهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ ۗ وَالَّذِي لَمْ يَحْضُنْ ۙ وَاُولَاتُ الْاِحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۙ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۗ ذٰلِكَ اَمْرٌ اَللّٰهُ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ ۙ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا ۗ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيَتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ ۙ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتٍ حَمِلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُوهُنَّ اَجْرًا ۗ وَاَتَدْرُوْا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفًا ۗ وَاِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوْا لَهٗ الْاٰخِرٰى ۙ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۙ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا اَللّٰهُ اَللّٰهُ لَا يَكُوْفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَّا اَتٰهَا ۙ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۙ



## طوفانِ نوح

۱۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لائے (لاچکے) ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایگا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ ۵

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیئے جائیں گے ۵

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح (ایک وقت) ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے ۵

اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ ۵

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے (نوح کو) حکم دیا کہ ہر قسم (کے جانداروں) میں سے جوڑا جوڑا (یعنی) دو (دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ) لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے (کہ ہلاک ہو جائیگا) اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے ۵

(نوح نے) کہا کہ خدا کا نام لیکر (کہ اسی کے ہاتھ میں) اس کا

۱۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحِينَا وَلَا تَخْطِطُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ ۖ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۗ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنِّي سَخِرَ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۖ كَتَبْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَا إِلَّا قَلِيلٌ ۖ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا أَوْ مَرْسَاهَا ۖ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ۖ قَالَ سَأُوبَىٰ إِلَىٰ جِبَلٍ يَئِيسٍ مِنَ الْمَاءِ ۗ قَالَ لَأَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ سَبَقَ ۗ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ

والا مہربان ہے ۵

اور وہ ان کو لیکر (طوفان کی) لہروں میں چلنے لگی (لہریں کیا تھیں)

گو یا پہاڑ (تھے) اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہہ کر (کشتی سے)

الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل

نہ ہو ۵

اس نے کہا کہ میں (ابھی) پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے

بچالے گا انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے

والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے (مگر جس پر خدا رحم کرے اتنے میں

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا  
تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہِ جُودٰی پر جا ٹھہری  
اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ۵

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۴۳ تا ۴۶﴾ ---

۲۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے  
ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی ۵  
تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ (بارالہا) میں ان کے  
مقابلے میں کمزور ہوں تو (ان سے) بدلہ لے ۵  
پس ہم نے زور کے مینہ سے آسمان کے دہانے کھول دیئے ۵  
اور زمین میں خشے جاری کر دیئے تو پانی ایک کام کے لئے جو مقدر  
ہو چکا تھا جمع ہو گیا ۵

اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی  
سوار کر لیا ۵

وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی (یہ سب کچھ) اس شخص کے  
انتقام کے لئے کیا گیا جس کو کافر ماننے نہ تھے ۵  
اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے

المُغْرَقِينَ ۝ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَقْلِعِي  
وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ  
وَقِيلَ بَعْدَ الْقُتُوبِ الظَّالِمِينَ ۝  
۲- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ  
وَازْدَجَرُوا ۝ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝ فَفَتَحْنَا  
أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۝ وَجَعَلْنَا الْآرْضَ عَيْوُنًا  
فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ ۝ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ  
وَدُسْرٍ ۝ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ۝ جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفْرًا ۝ وَلَقَدْ  
تَرَكْنَاهَا آيَةً ۝ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝  
۳- إِنَّا لَنَاطِقَاتُ الْمَاءِ حَمَلْنَاكَ فِي الْجَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكَ  
تَذْكِرَةً ۝ وَتَعْيِبَةً أَدْنَىٰ وَأَعْيَبَةً ۝

سجھے ۵؟

--- ﴿سورۃ القمر آیت ۱۵ تا ۱۹﴾ ---

۳۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم (لوگوں) کو کشتی میں سوار  
کر لیا ۵

تاکہ اس کو تمہارے لئے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان  
اسے یاد رکھیں ۵

--- ﴿سورۃ الحاقہ آیت ۲۱﴾ ---

نیز دیکھئے: عذاب الہی

## طہارت

۱۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۲۲﴾ ---

۲۔ مومنو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں (دھولیا کرو) اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو (نہا کر) پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم) کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو ۵

--- ﴿سورة المائدة آیت ۶﴾ ---

1- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ فَاغْتَرَّلُوا الْبِسْمَاءَ فِي الْحَيْضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

3- يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۚ وَتَبَارَكَ فَطَهِّرْ ۚ وَالزُّجُرْ ۚ فَاهْجُرْ ۚ

۳۔ ۱۔ (محمد) جو کپڑا پہنے پڑے ہو ۵

اٹھو اور ہدایت کر دو ۵

اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو ۵

اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو ۵

اور تاپاکی سے دور رہو ۵

--- ﴿سورة المدثر آیت ۵۲﴾ ---

## ظلم

۱۔ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو

مظلوم ہو اور خدا (سب کچھ) سنتا (اور) جانتا ہے ۰

﴿سورة النساء آیت ۱۲۸﴾

۲۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں

پر کچھ الزام نہیں ۰

﴿سورة الشوری آیت ۴۱﴾

۳۔ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کیلئے بھی (عذاب کی) نوبت

مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے

(عذاب) جلدی نہیں طلب کرنا چاہئے ۰

﴿سورة الذاریات آیت ۵۹﴾

## ظہار

۱۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی

مائیں نہیں (ہو جاتیں) ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے

وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور

خدا بڑا معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے ۰

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع

کر لیں تو (ان کو) ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا

ظلم: نیز دیکھئے: عدل و انصاف

۱۔ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ  
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۰

۲۔ وَلَمَنْ اتَّصَرَ بِعَدِّ ظَلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۰

۳۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا  
يَسْتَعْتَلُونَ ۰

۱۔ الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ

إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۰ وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَنَّكَرًا

مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۰ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۰ وَالَّذِينَ

يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

فَتَحْرِيرٌ رَقِيَّةٍ ۰ قَبْلَ أَنْ يَتَّسَاسَ ۰ ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ

بِهِ ۰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۰ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّسَاسَا ۰ فَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۰ ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۰ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۰ وَلِلْكَافِرِينَ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۰

(ضرور) ہے۔ (مومنو) اس (حکم) سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے

اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے ۰

جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے

رکھے جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو (اسے) ساٹھ محتاجوں کو کھانا

کھلانا (چاہئے) یہ (حکم) اس لئے (ہے) کہ تم خدا اور رسول

کے فرمانبردار ہو جاؤ اور یہ خدا کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں

کے لئے درد دینے والا عذاب ہے ۰

﴿سورة البجاد آیت ۲۲﴾



## عبادت

۱۔ لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم (اس کے عذاب سے) بچو ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱﴾ ---

۲۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۲۰۶﴾ ---

۳۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت کئے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت (کا وقت) آجائے ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۹۹﴾ ---

۴۔ (یعنی) آسمان اور زمین کا اور جوان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہمنام جانتے ہو ۵

--- ﴿سورة مریم آیت ۶۵﴾ ---

۵۔ اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کونہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۵

اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے ۵

--- ﴿سورة یٰسین آیت ۶۱﴾ ---

۶۔ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے

۱- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۵

۲- إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَكَ بِسُجُودٍ وَكَلِمَةٍ يَسْجُودُونَ ۵

۳- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۵

۴- رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۵

۵- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۵ وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۵

۶- قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۵ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۵

۷- إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذٰلِحِينَ ۵

۸- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۵

اس کی بندگی کروں ۵

اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۱۲۱﴾ ---

۷۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیا تے ہیں عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے ۵

--- ﴿سورة المؤمن آیت ۶۰﴾ ---

۸۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری

عبادت کریں ۵

--- ﴿سورة الذاریات آیت ۵۶﴾ ---

## عبرت

۱۔ اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی (مقام) عبرت (وغور) ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کیلئے خوشگوار ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۶۶﴾ ---

۲۔ اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی عبرت (اور نشانی) ہے کہ جوان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں (دودھ) پلاتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں (اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو ۵

اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو ۵

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۲۳﴾ ---

۳۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلانے ہوئے جانور بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح (کے طریقے) سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں (سب) خدا کو معلوم ہے ۵

اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لئے ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۵

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مینہ نکل (کر برس) رہا ہے اور آسمان جو (ادلوں کے)

۱- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسَخِّبُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْتٍ وَدَمِيرٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِبِغًا لِلشَّرْبِ ۖ

۲- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسَخِّبُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۖ

۳- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّالِمُ ضَلِيلٌ ۚ كُلُّ قَدِّعٍ عَلَيْهِ صَلَاحٌ وَتَسْبِيحٌ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۖ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ الْهَاصِرُ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ مِمَّا جَعَلَهُ رُكُومًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَن يَشَاءُ ۖ يَكادُ سَاءَ بَرِّقَهُ يَذَّهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۖ يَلْقَابُ اللَّهُ الْغَيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۖ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو (خیرہ کر کے بینائی کو) اچکے لئے جاتی ہے ۵

خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے ۵

اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے ۵

## عدت

۱۔ اور جب تم عورتوں کو (دو دفعہ) طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہئے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کریگا وہ اپنا ہی نقصان کریگا ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۳۱﴾ ---

۲۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہیں اور جب (یہ) عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام (یعنی نکاح) کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۳۲﴾ ---

۳۔ اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا (اور) حلم والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۳۵﴾ ---

۴۔ مومن! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ

۱- وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

۲- وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

۳- وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ حَلِيمٌ ۝

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنِهِنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

۵- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ

لگانے (یعنی ان کے پاس جانے) سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو

کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ ان کو کچھ فائدے

(یعنی خرچ) دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو ۵

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۴۹﴾ ---

۵۔ اے پیغمبر (مسلمانوں سے کہہ دو کہ) جب تم عورتوں کو طلاق

دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار

رکھو اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ (نہ تو تم ہی) ان

کو (ایام عدت میں) ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ (خود

ہی) نکلیں۔ ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں (تو نکال دینا چاہئے) اور یہ خدا کی حدیں ہیں جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا (اے طلاق دینے والے) تجھے کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی (رجعت کی) سبیل پیدا کر دے ۵

پھر جب وہ اپنی میعاد (یعنی انقضائے عدت) کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے (زوجیت میں) رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور (گواہوں) خدا کے لئے درست گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لئے (رجوع و محن سے) مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا ۵

--- ﴿سورۃ الطلاق آیت ۲۱﴾ ---

مِنْ بَيُّوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَذَرُنَّ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

6- وَالَّذِي يَسْتَنِّ مِنَ الْمَخِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَمْ يَخْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

7- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

ہے) اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل (یعنی بچہ جننے) تک ہے اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا ۵

--- ﴿سورۃ الطلاق آیت ۴﴾ ---

۷۔ (مطلقہ) عورتوں کو (ایام عدت میں) اپنے مقدر کے مطابق

وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لئے تکلیف

نہ دو اور اگر حمل سے ہو تو بچہ جننے تک اس کا خرچہ دیتے رہو پھر

۶۔ اور تمہاری (مطلقہ) عورتیں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہوں

اگر تم کو (ان کی عدت کے بارے میں) شبہ ہو تو ان کی عدت تین

مہینہ سے اور جنہوں کو ابھی حیض نہیں آیا (اگر ان کی عدت بھیجی جا

اگر وہ بچے کو جو چار پاؤں پر چلتے ہیں خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے  
بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۰

ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور خدا جس کو چاہتا ہے  
سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے ۰

--- ﴿سورة النور آیت ۲۶۲۴﴾ ---

## عجز و انکسار

۱۔ اور زمین پر اکڑ کر (اور تن کر) مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں  
ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں (کی چوٹی) تک پہنچ جائے گا۔  
ان سب (عادقوں) کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت  
ناپسند ہے ۰

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۳۸۳۷﴾ ---

۲۔ اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں  
اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو سلام  
کہتے ہیں ۰

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۶۳﴾ ---

مَنْ يَشِئْ عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۖ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ ۖ وَاللَّهُ  
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝



۱۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ  
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝  
كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝  
۲۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا  
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝  
۳۔ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَخْتَالٍ فَخُورًا ۝  
وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۖ وَأَعْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ  
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

۳۔ اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ بھلانا اور زمین میں اکڑ کر

نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا ۰

اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا اور (بولتے وقت آواز نیچی

رکھنا کیونکہ (اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ)

سب سے بری آواز گدھوں کی ہے ۰

--- ﴿سورة لقمان آیت ۱۹۱۸﴾ ---



۳۔ تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور (بچے کے بارے میں) پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم ضد (اور نا اتفاقی) تو بچے کو اس کے (باپ کے) کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلا سگی ۵

— ﴿سورة الطلاق آیت ۶﴾ —

## عدل

۱۔ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بیشک خدا سنتا (اور) دیکھتا ہے ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۵۸﴾ —

۲۔ تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۶۵﴾ —

۳۔ (اے پیغمبر) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی

لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٌ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلَةٌ لِّهِنَّ أُخْرَىٰ ۝



۱۔ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝  
۲۔ فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُونَ حَتَّىٰ يُحْكَمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا ۝

۳۔ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْغَائِبِينَ حَاصِمًا ۖ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَيْمًا ۖ

ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصلہ کرو اور (دیکھو)

دعا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا ۵

اور خدا سے بخشش مانگنا۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف

سے بحث نہ کرنا کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں

رکھتا ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۱۰۷﴾ —

عدت: نیز دیکھئے: طلاق۔ مہر۔ عدل۔ مزید حوالے: النور: ۵۱:

## عدل و انصاف

۱۔ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۸۶﴾ ---

۲۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بیشک خدا سنتا (اور) دیکھتا ہے

مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اسکے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۵۹﴾ ---

۳۔ اے ایمان والو! خدا کیلئے انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے

۱- لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

۲- وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

۴- وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ أَنْ تُقِيمُوا

۵- وَإِنْ طَائِفَتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۸﴾ ---

۴۔ اور جب (کسی کی نسبت) کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وہ

(تمہارا) رشتہ داری ہی ہو اور خدا کے عہد کو پورا کرو

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۵۲﴾ ---

۵۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرو اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع لائے پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے

ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۰

--- ﴿سورۃ الحجرات آیت ۹﴾ ---

## عذاب الہی

۱۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کونسا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشنے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کئے جاتے ہیں ۰

کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ۰

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۲۷﴾ ---

۲۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر (ناگہاں) آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گنہگار کس بات کی جلدی کریں گے ۰ کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤ گے۔ (اس وقت) کہا جائے گا کہ (اور اب ایمان لائے؟ اسی کیلئے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے) ۰ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو (اب)

تَقِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَتْ فَاصِلُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝



۱۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّتْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَن إِلَهَ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَنْظَرَ كَيْفَ تَصَرَّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

۲۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝ أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنٌ مِّنْكُمْ بِهِ ۗ أَلَنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الخُلْدِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ وَيَسْتَبْشِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ۗ قُلْ إِنْ رِزْقِي آتَانَهُ لَحَقُّهُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۗ وَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ تَفْهِيسَ ظَلَمَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ

تم انہی (اعمال) کا بدلہ پاؤ گے جو (دنیا میں) کرتے رہے ۰

اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہ وہاں خدا کی قسم سچ ہے اور تم (بھاگ کر خدا کو) عاجز نہیں کر سکو گے ۰

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو (عذاب سے بچنے کے) بدلے میں (سب) دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو (چپھتائیں گے اور) ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائیگا



اور (کسی طرح کا) ان پر ظلم نہیں ہوگا ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۵۳ تا ۵۴﴾ ---

۳۔ اور اگر ایک مدت مہین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کونسی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا (پھر) ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی ۵

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۸﴾ ---

۴۔ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی (اور) سخت ہے ۵

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۱۰۲﴾ ---

۵۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آجائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کرتا کہ ہم تیری دعوت (توحید) قبول کریں اور (تیرے) پیغمبروں کے پیچھے چلیں ۵

--- ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۳۳﴾ ---

۶۔ کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھنسا دے یا (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آجائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو ۵

لَا قُدْرَتُ بِهِ ۖ وَاسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ  
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

۳۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ  
لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوقًا  
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

۴۔ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ  
أَخْذَهُ لَيَشَدِيدٌ ۝

۵۔ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۖ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نَسْتَجِيبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ

۶۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَىٰ اللَّهُ بِهِمْ  
الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ أَوْ يَأْخُذَ  
هُمُ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

۷۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ۖ قَدْرِيَّةً أَمْرًا مُتَرَفِّعًا  
فَنَقُصِّهَا فِيهَا فَتَقَىٰ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ۖ فَدَمَّرْنَاهَا

یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے وہ (خدا کو) عاجز نہیں کر سکتے ۵

یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے بیشک تمہارا

پروردگار بہت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۲۷ تا ۲۸﴾ ---

۷۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہو تو وہاں

کے آسودہ لوگوں کو (فواہش پر) مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے

رہے پھر اس پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو گیا۔ اور ہم نے اسے

ہلاک کر ڈالا ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۶﴾ ---

۸۔ اور (کفر کرنے والوں کی) کوئی ہستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے یہ کتاب (یعنی تقدیر) میں لکھا جا چکا ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۸﴾ ---

۹۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ (ہو چکا) ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا۔ اور وہ (کسی وقت میں) ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا ۵

یہ تم سے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے ۵

جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے ڈھانک لے گا اور (خدا) فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے (اب) ان کا مزہ چکھو ۵

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۵۵ تا ۵۳﴾ ---

۱۰۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے (رہنے کے) لئے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں

تَذْمِيرًا ۵

۸۔ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۵

۹۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا آجَلَ مَسْمُومِي لَبَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۵  
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۵  
يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۵

۱۰۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْفُرُونَ ۵ وَلَنْذِيقْتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۵



لونا دیئے جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو ۵

اور ہم ان کو (قیامت کے) بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے شاید (ہماری طرف) لوٹ آئیں ۵

--- ﴿سورۃ السجدہ آیت ۲۱ تا ۲۰﴾ ---

## عرش

۱۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش (تخت شاهی) پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی (اس کے پاس) اس کا اذن حاصل کئے بغیر (کسی کی) سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے ۵

— ﴿سورۃ یونس آیت ۳﴾ —

۲۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا (تمہارے پیدا کرنے سے) مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے ۵

— ﴿سورۃ ہود آیت ۷﴾ —

۳۔ (ان سے) پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا (کون) مالک (ہے)؟ ۵  
بے ساختہ کہہ دیں گے کہ (یہ چیزیں) خدا ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ۵

— ﴿سورۃ المؤمنون آیت ۸۷﴾ —

۴۔ تو خدا جو سچا بادشاہ ہے (اس کی شان اس سے) اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) عرش بزرگ کا مالک ہے ۵

— ﴿سورۃ المؤمنون آیت ۱۱۶﴾ —

۵۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں

۱- اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدِىْرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَۙ

۲- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًاۗ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِۙ سَيَقُوْلُوْنَ يَلٰهُۗ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَۙ

۳- فَتَعَلٰى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيْرِۙ

۴- وَتَرٰى الْمَلٰٓئِكَةَ حَاقِقٰتِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْۗ وَقُضِيَٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

۵- الَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۗ

(اور) اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے ۵

— ﴿سورۃ الزمر آیت ۷۵﴾ —

۶۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد (حلقہ باندھے ہوئے) ہیں (یعنی فرشتے) وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کیلئے بخشش مانگتے رہتے ہیں ۵

— ﴿سورۃ المؤمن آیت ۷﴾ —

ے۔ تو اس روز ہو پڑنے والی (یعنی قیامت) ہو پڑے گی ۵

اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا ۵

اور فرشتے اس کے کناروں پر (اترائیں گے اور تمہارے

پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ ۵

اس روز تم (سب لوگوں کے سامنے) پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری

کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی ۵

— ﴿سورة الحاقة آیت ۱۸ تا ۲۵﴾ —

۸۔ اور وہ بخشنے والا (اور) محبت کرنے والا ہے ۵

عرش کا مالک بڑی شان والا ۵

جو چاہتا ہے کر دیتا ہے ۵

— ﴿سورة البروج آیت ۱۶ تا ۱۳﴾ —

## عزت و دولت

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل  
کرت ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار  
سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بیشمار رزق  
بخشتا ہے ۵

— ﴿سورة آل عمران آیت ۲۷ تا ۲۶﴾ —

۱۔ کہہ کہ اے خدا (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے  
بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو  
چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی  
تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ۵

عرش: مزید حوالے: الاعراف: ۵۳۔ التوبہ: ۱۲۹۔ الرعد: ۲۔ طہ: ۵۔ الفرقان: ۵۸۔ ۵۹۔ الحج: ۴

المومن: ۱۳۔ الزخرف: ۸۲۔ المدثر: ۴

۲۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (روٹی و) زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الکہف آیت ۳۶﴾ ---

۳۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعذیب کرتا تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا پیئے مت کہ خدا ترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ۵

اور جو (مال) تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت (کی بھلائی) طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے (وہی) تم بھی (لوگوں سے) بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

بولو کہ یہ (مال) مجھے میری دانش (کے زور) سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں۔ اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے

۵

تو (ایک روز) قارون (بڑی) آرائش (اور ٹھاٹھ) سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ۝

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْفَرِحِينَ ۖ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا ۗ وَلَا يَسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْعَجْرُمُونَ ۖ فَنَحَرَجْ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَئِن لَّمْ يَأْتِنَا بِمَا آوَيْنَا قَارُونَ ۖ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ عَظِيمٌ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ

جیسا (مال و متاع) قارون کو ملا ہے کاش (ایسا ہی) ہمیں بھی ملے وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے ۵

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کیلئے (جو) ثواب خدا (کے ہاں تیار ہے وہ) کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنیوالوں ہی کو ملے گا ۵

پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے

۵

اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے

ہائے شامت! خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کیلئے چاہتا ہے  
 رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کیلئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے  
 اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتے ہائے خرابی!  
 کافر نجات نہیں پاسکتے ۵

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۶ تا ۸﴾ ---

۳۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والے نہیں بھیجا مگر وہاں  
 کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس  
 کے قائل نہیں ۵

اور (یہ بھی) کہنے لگے کہ ہم بت سامال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم  
 کو عذاب نہیں ہوگا ۵

کہہ دو کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے  
 اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں  
 جانتے ۵

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں  
 ہاں (ہمارا مقرب وہ ہے) جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے  
 ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنبدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع  
 سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے ۵

--- ﴿سورۃ سبا آیت ۲۳ تا ۲۷﴾ ---

صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ  
 الْأَرْضَ ۚ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ۝ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَّتْ مِنْهُمُ الْمَكَانُ  
 بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآتُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ  
 بِنَا ۖ وَيَكَآتُهُ لَا يَفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ۝

4- وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِهَا  
 أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ۝ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا  
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ  
 لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا  
 أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْأَيْ تَقَرَّبْكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ  
 آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا  
 عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ أٰمِنُونَ ۝

5- هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  
 حٰثِي يَنْقُضُوا وَيَلِدُو خَزَائِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِن

۵۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس (رہتے)  
 ہیں ان پر (کچھ) خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ (خود بخود) بھاگ  
 جائیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں لیکن  
 منافق نہیں سمجھتے ۵

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل  
 لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے حالانکہ عزت خدا کی ہے اور  
 اس کے رسول کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے ۵

مومنو! تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے قائل نہ کر دے اور جو

ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں ۰

— ﴿سورة المنافقون آیت ۹۷﴾ —

۶۔ (لوگو) تم کو (مال کی) بہت سی طلب نے غافل کر دیا ۰

یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں ۰

دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا ۰

پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا ۰

دیکھو اگر تم جانتے (یعنی) علم الیقین (رکھتے تو غفلت نہ

کرتے) ۰

تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے ۰

پھر اس کو (ایسا) دیکھو گے (کہ) عین الیقین (آ جائے گا) ۰

پھر اس روز تم سے (شکر) نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی؟ ۰

— ﴿سورة الحاکم آیت ۸۲﴾ —

۷۔ ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے پخلخوڑ کی خرابی ہے ۰

جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے ۰

اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب

ہوگا ۰

ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائیگا ۰

الْمُفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۚ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۗ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۚ وَ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۗ

6- أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۗ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ كَلَّا سَوْفَ

تَعْلَمُونَ ۗ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

عِلْمَ الْيَقِينِ ۗ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۗ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ

الْيَقِينِ ۗ ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ النَّعِيمَ ۗ

7- وَيَلْلُكُنْ هَمَزَةً لَمَزَةً ۗ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۗ

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۗ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۗ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۗ الَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى الْأَفْدَى ۗ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۗ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۗ

اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے ۰

وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے ۰

جو دلوں پر جا لپٹے گی ۰

(اور) وہ اس میں بند کر دیئے جائیں گے ۰

یعنی (آگ کے) لمبے لمبے ستونوں میں ۰

— ﴿سورة الحمزہ آیت ۹۳﴾ —

## عزت و ذلت

۱۔ کہو کہ اے خدا (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ۵

تو ہی رات کو دن میں داخل کرنا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بیشمار رزق بخشتا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۲۶﴾ ---

۲۔ (اے پیغمبر) منافقوں (یعنی دوزخی لوگوں) کو بشارت سنا دو کہ ان کیلئے دکھ دینے والا عذاب (تیار) ہے ۵

جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۳۸﴾ ---

۳۔ جن لوگوں نے نیکی کاری کی ان کے لئے بھلائی ہے اور (مزید برآں) اور بھی اور ان کے مومنوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ

- ۱۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ تُؤَلِّجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ وَتُكَرِّمُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
- ۲۔ بِشَرِّ الْمُنَافِقِينَ بَأْتَن لَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَيْمَنُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝
- ۳۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَنَةٍ يَبُولُهَا ۗ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ ۗ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
- ۴۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۗ إِلَيْهِ يَصْعَدُ

رسوائی۔ یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۵

اور جنہوں نے برے کام کئے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے مومنوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے مومنوں (کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان) پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھادیئے گئے ہیں یہی دوزخی

ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۲۶﴾ ---

۴۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے ۵



الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ  
السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُولِكَ هُوَ يُجْزَى

عذاب ہے اور ان کا مکرتا بود ہو جائے گا

﴿سورة فاطر آیت ۱۰﴾

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

۲- وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
الَّتِي وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا  
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا أُعْرِبَ وَأَثْوًا حَقًّا  
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

عشر

۱۔ مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کما تے ہو اور جو چیزیں ہم  
تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے (راہ خدا میں)

خرچ کرو

﴿سورة البقرہ آیت ۲۶۷﴾

پھل کھاؤ اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی کا ٹو خدا کا حق بھی اس  
میں سے ادا کرو اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست  
نہیں رکھتا

۲۔ اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے چھتریوں پر چڑھائے  
ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور کھجور  
اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور  
انار جو (بعض باتوں میں) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور  
(بعض باتوں میں) نہیں ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے

﴿سورة الانعام آیت ۱۳۱﴾

## عفو الہی

۱۔ خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا اور خدا بخشنے والا بردبار ہے ۵

﴿سورة البقرة آیت ۲۲۵﴾ ---

۲۔ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو (ان سے) سلام علیکم کہا کرو خدا نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکو کار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة الانعام آیت ۵۳﴾ ---

۳۔ پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا۔ پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکو کار ہو گئے تو تمہارا پروردگار (ان کو) توبہ کرنے اور

۱- لَا يُوَٰخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللّٰغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّوَٰخِذُكُمْ  
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ  
۲- وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُّؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلِمَ عَلَيْكُمْ  
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اِنَّهٗ مِنْ يَمِيْنٍ مِّنْكُمْ سُوْءًا  
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهَا وَاَصْلَحَ فَاِنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ  
۳- ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوْا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ  
بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ  
رَّحِيْمٌ



نیکو کار ہو جانے کے بعد بخشنے والا (اور ان پر) رحمت کرنے والا

۵ ہے

﴿سورة الممل آیت ۱۱۹﴾ ---



۴۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا

مہربان ہے ۵

﴿سورة النور آیت ۲۲﴾

۵۔ (لوگو) جو (مال و متاع) تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا (ناپائیدار) فائدہ ہے اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے (یعنی) ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵

اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں ۵

﴿سورة الشوری آیت ۲۶﴾

۶۔ اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور (معاملے کو) درست کر دے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمے ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۵

﴿سورة الشوری آیت ۴۰﴾

4- اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْۙ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌۙ

5- فَمَا اَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُواْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌۙ وَالَّذِيْنَ اٰتٰنَا عَلٰى رِيْۤهْمٍ يَّتَوَكَّلُوْنَۙ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَۙ

6- وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاۗ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاجْرَةٌ

عَلٰى اللّٰهِۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَۙ

## عفو و درگزر

۱۔ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو (خدا سے) ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے ۵

جو آسودگی اور تنگی میں (اپنا مال خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۳۳، ۱۳۴﴾ ---

۲۔ (اے محمد) خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کیلئے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کر دو اور ان کیلئے (خدا سے) مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو اور جب (کسی کام کا) عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو بیشک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۵۹﴾ ---

۳۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کرنے والا (اور) صاحب قدرت ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۳۹﴾ ---

۴۔ (اے محمد) عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو ۵

۱- وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۗ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۗ  
۲- فَمَا رَحِمَةَ مَنَ اللَّهِ إِنِّي أَلَمْتُ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا عَلِيظًا ۖ الْقَلْبَ لَا نَقْضُوا مِن حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۗ

۳- إِنْ تُبَدُّوْا خَيْرًا أَوْ تُخَفَّوْهُ أَوْ تُعَفُّوْا عَنْ سُوِّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۗ

۴- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۗ  
۵- وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۗ

۶- وَلَا يَأْكُلِ أَوْلِيَا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالتَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَغَفَّرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۱۹۹﴾ ---

۵۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کیلئے بہت اچھا ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۲۶﴾ ---

۶۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے ان کو چاہئے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۲﴾ ---

## عقل

۱۔ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا اور زاد راہ (یعنی رستے کا خرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر (فائدہ) زاد راہ (کا) پر ہیزگاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۹۷﴾ ---

۲۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۶۹﴾ ---

۳۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۹۰﴾ ---

۴۔ اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجودیکہ) پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میوؤں کو بعض پر لذت میں

- 1- وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۝
- 2- يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝
- 3- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝
- 4- وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْ مَّتَّجِرَاتٍ وَجَلَّتْ مِنَ الْعَنَابِ وَزَّرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۚ وَنَفَّضَ لِبَعْضِهَا عَلِيٌّ بَعْضٌ فِي الْأَكْلِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝
- 5- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝



فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی

نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۴﴾ ---

۵۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں (اور) نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقلمند ہیں ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۹﴾ ---



## علم

۱۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی کم) علم دیا گیا ہے ۵

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۵﴾

۲۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو (قرآن) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور (خدائے) غالب (اور) سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے ۵

﴿سورۃ سبأ آیت ۶﴾

۳۔ خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بیشک خدا غالب (اور) بخشنے والا ہے ۵

﴿سورۃ قاطر آیت ۲۸﴾

۴۔ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ (اور) نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقلمند ہیں ۵

﴿سورۃ الزمر آیت ۹﴾

۵۔ مومنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو خدا تم کو کشادگی بخشنے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجے بلند کریگا اور خدا

تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

﴿سورۃ المجادل آیت ۱۱﴾

- ۱- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝
- ۲- وَيَذَرِي الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝
- ۳- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝
- ۴- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝
- ۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرَقِعِ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَمْنًا وَمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝
- ۶- إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

۶۔ (اے محمد) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے (عالم

کو) پیدا کیا ۵

جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا ۵

پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے ۵

جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ۵

اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا ۵

﴿سورۃ العلق آیت ۵ تا ۱﴾

## علم غیب

۱۔ (لوگو) جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہوں ۰

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۷۹﴾ ---

۲۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے ۰

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۵۹﴾ ---

۳۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب (کا علم) تو خدا ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ۰

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۲۰﴾ ---

۴۔ اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے اور (خدا کے نزدیک) قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ (اس سے

۱- مَا كَانَ لِلَّهِ يَدْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى  
يَعِزَّزَ الْغَيْبَاتِ مِنَ الظَّهَبِ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى  
الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ  
۲- وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الرُّوحِ  
وَالْبَحْرِ ۖ وَمَا تَنْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حِجَابَ فِي  
ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝  
۳- وَيَقُولُونَ كَلِمَاتٍ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَقُلْ إِنَّمَا  
الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝  
۴- وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا أَمَرَ السَّاعَةَ  
إِلَّا كَلِمَةٍ الْبَصِيرِ ۖ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ۝  
۵- قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۖ  
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝  
۶- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا  
فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا

بھی) جلد تر کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے ۰

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۷۷﴾ ---

۵۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب (زندہ کر کے) اٹھائے جائیں گے ۰

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۶۵﴾ ---

۶۔ خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ نر ہے یا مادہ) اور

کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کریگا ۵

اور کوئی تنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی

بے شک خدا ہی جاننے والا (اور) خبردار ہے ۵

--- ﴿سورۃ لقمان آیت ۳۳﴾ ---

۷۔ بے شک خدا ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے

والا ہے وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ فاطر آیت ۲۸﴾ ---

۸۔ (وہی) غیب (کی بات) جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب

کو ظاہر نہیں کرتا ۵

ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس (کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور

اس) کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الجن آیت ۲۶﴾ ---

تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

7- إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِدَاتِ الصُّدُورِ ۝

8- عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى

مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

رِصْدًا ۚ



## عمل

۱۔ جو لوگ اپنے (ناپسند) کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور (پسندیدہ کام) جو کرتے نہیں ان کیلئے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا ۵

﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۸۸﴾

۲۔ جو شخص برے عمل کریگا اسے اسی (طرح) کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ خدا کے سوانہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار ۵ اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی (تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی) ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۱۲۳، ۱۲۴﴾

۳۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے (کچھ) زیادہ بھی عنایت کرے گا اور جنہوں نے (بندہ ہونے سے) عار و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۷۳﴾

۱۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَكُفُّوا أَنْ يُجْعَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۵

۲۔ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۵ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۵

۳۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۵ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا واسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۵

۴۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۵ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۵

۵۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ

۳۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۹۷﴾

۵۔ (اور) جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ۵

﴿سورۃ الكهف آیت ۳۰﴾

۶۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان

میں ہیں ○

وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں ○

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اسکے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کیلئے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے ○

--- ﴿سورۃ الکہف آیت ۱۰۵، ۱۰۳﴾ ---

۷۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس سے بہتر (صلہ موجود) ہے اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کئے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۸۳﴾ ---

۸۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے

أَحْسَنَ عَمَلًا

6- قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ صَلَّ

سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

صُنْعًا ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ

فَحِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۚ

7- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

فَلَا يَجْزِي الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۚ

8- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَنُعْزِّبَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت

اچھا بدلہ دیں گے ○

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۷﴾ ---

مزید حوالے: المائدہ: ۹- الرعد: ۲۹- الحج: ۳۱-۵۲- العنکبوت: ۹-۵۸- السجدہ: ۱۷-

الزمر: ۳۵- الشوری: ۲۳- الفتح: ۲۹- العصر: ۱-۳

## عورت

۱۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ اور اپنے لئے (نیک عمل) آگے بھیجو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ (ایک دن) تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور (اے پیغمبر) ایمان والوں کو بشارت سنا دو

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۲۳﴾ ---

۲۔ اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے معاملے کے) گواہ کر لیا کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو (کافی ہیں) کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۸۲﴾ ---

۳۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کی جنس ہو

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۹۵﴾ ---

۴۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ

۱- نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ حَرْثُكُمْ اَلَيْ سِئْتُمْ وَقَدْ مَوَّا لَانْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ قُلُقُوۡةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيۡنَ ۝

۲- وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاۡءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى ۗ

۳- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ اَنْ لَا اُضِيعَ عَمَلٌ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ

۴- يَاۡكُفٰهُمُ النَّاسُ اَتَقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِيۡ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنٰ وَبَيْنَهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۡءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيۡ تَسَاۡءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰیكُمْ رَقِيْبًا ۝

۵- اَلرِّجَالُ قَوٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۡءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ وَبِۤمَا اَنْفَقُوۡا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضَّالِحٰتُ فَنِيۡتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالَّذِيۡ نَحْنُ نَشُوْرُ هُنَّ

بناتے ہوڈرو اور (قطع عودت) ارحام سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے

--- ﴿سورة النساء آیت ۱﴾ ---

۵۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لئے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھے پیچھے خدا کی حفاظت میں (مال و آبرو کی) خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی (اور بد خوئی) کرنے

گئی ہیں تو (پہلے) ان کو (زبانی) سمجھائو (اگر نہ سمجھیں تو) پھر انکے ساتھ سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو اور اگر فرمانبردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو بیشک خدا سب سے اعلیٰ (اور) جلیل القدر ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۳۴﴾

۶۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں اور صلح خوب (چیز) ہے اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں (چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے۔ اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۲۸﴾

۷۔ خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ۵

۶۔ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ  
خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۵ وَكُنْ تَسْتَضِيعُوا  
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْلُغُوا كِلَيْ  
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۵

۷۔ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ  
عَدْنٍ مَرْضُوانَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ۵

۸۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرْنَا وَأَنْتُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بہشت ہائے جاودانی میں نفیس مکانات کا (وعدہ کیا ہے) اور خدا کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے ۵

﴿سورة التوبة آیت ۷۲﴾

۸۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی

ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں (ماک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ

رکھیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ  
دیں گے ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۹۷﴾

۹۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اس نے  
تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی  
طرف (ماکل ہو کر) آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی  
پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کیلئے ان باتوں میں (بہت  
سی) نشانیاں ہیں ۵

﴿سورۃ الروم آیت ۲۱﴾

۱۰۔ اور (اس لئے کہ) منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک  
مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال  
رکھتے ہیں عذاب دے۔ انہی پر برے حادثے واقع ہوں اور خدا  
ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ تیار کی اور  
وہ بری جگہ ہے ۵

﴿سورۃ اللع آیت ۶﴾

## عورتوں سے حسن سلوک

۱۔ مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ

عورت: نیز دیکھئے: مردوزن کے درجات میں برابری

حَيَوَةً طَيِّبَةً ۚ وَكَتَبْنَا لَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ۝

۹۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۱۰۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ  
الظَّالِمِينَ ۗ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ ذَا بَرَّةٍ السُّوءِ ۗ وَغَضِبَ  
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝



۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا  
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَأْشَرَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ  
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

اور (دیکھنا) اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں  
سے کچھ لے لو انہیں (گھروں میں) مت روک رکھنا ہاں اگر وہ  
کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں (تو روکنا مناسب نہیں) اور  
ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں  
تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں بہت سی  
بھلائی پیدا کر دے ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۹﴾

## غزوات

۱۔ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کیلئے مورچوں پر (موقع بموقع) متعین کرنے لگے اور خدا سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر خدا ان کا مددگار تھا۔ اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے ۰

اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سرو سامان تھے پس خدا سے ڈرو (اور ان احسانوں کو یاد کرو) تاکہ شکر کرو ۰

جب تم مومنوں سے یہ کہہ (کر ان کے دل بڑھا) رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار تین ہزار فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے ۰

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور (خدا سے) ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعہ حملہ کر دیں تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا ۰

اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لئے (ذریعہ) بشارت بنایا یعنی

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۝ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّدَ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ۝ بَلَىٰ إِن تَصِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُبَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۝ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآبِينَ ۝

۲۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ اتَّخَذْتُم مِّنْ بَآذِنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْسَلْنَا مَا يُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّن

اسلئے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب (اور) حکمت والا ہے ۰

(یہ خدا نے) اس لئے (کیا) کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ (جیسے آئے تھے ویسے ہی) تاکام واپس جائیں ۰

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۲۱ تا ۱۲۷﴾ ---

۲۔ اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا (یعنی) اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے

خدا نے تم کو دکھا دیا اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم (پیغمبر) میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان (کے مقابلے) سے پھیر (کر بھاگا) دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا تصور معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے ۵

(وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوہناک نہ ہو اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے ۵

پھر خدا نے غم ورنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی۔ (یعنی) نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑے تھے خدا کے بارے میں ناحق (ایام) کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے) تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں یہ لوگ (بہت سی باتیں) دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں

يُرِيدُ الدُّنْيَاَ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۗ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ اِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَكُونُ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَيْرِ لَكِيْلًا ۗ تَخَزِنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۗ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۗ مَا قَاتَلْنَا هُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۗ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا

کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کئے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے (احد کے دن) جبکہ (مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گٹھ گٹس (جنگ سے) بھاگ گئے

تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بیشک خدا بخشنے والا (اور) بردبار ہے ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۵۲ تا ۱۵۵﴾

۳۔ (بھلائیہ) کیا (بات ہے کہ) جب (احد کے دن کفار کے ہاتھ سے) تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ (جنگ بدر میں) اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اٹھے کہ (ہائے) آفت (ہم پر) کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے (کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا) بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے (واقع ہوئی) اور (اس سے) یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۶۵ تا ۱۶۷﴾

۴۔ (جب) ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے (مقابلے کے) لئے (لشکر کثیر) جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے ۵

پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ (خوش و خرم) واپس آئے ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہو ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۷۳ تا ۱۷۷﴾

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۵

۳۔ اَوْ لَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ اِنَّ هَذَا قُلٌّ فُو مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۵ وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ النَّحْيِ الْجَمْعِ فَيَاذَنَ اللّٰهُ وَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۵ وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۵ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۵ وَقَالُوْا حَسْبَنَا اللّٰهُ وَرِعْمَ الْوَكِيْلُ ۵ فَاَنْقَلَبُوْا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ اِلَى اللّٰهِ وَفَضِّلْ لَكُمْ مِنْهُمْ سُوْءًا ۵ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۵

۵۔ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۵ وَاِنْ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَرِهُوْنَ ۵ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاٰثِمًا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۵ وَاِذْ يَبْعَدُكُمْ اللّٰهُ اِحْدٰى الطَّآفَتَيْنِ اَنْهَا لَكُمْ وَاذْ يَبْعَدُكُمْ اَنْ غَيَّرَ ذَاتِ السَّوْكِتَةِ لَكُمْ وَبَرِيْدٌ ۵

۵۔ (ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکالنا چاہئے تھا)

جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور (اس وقت) مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں ۵

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ

(ابوسفیان اور ابو جہل کے) دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا

(مسخر ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے (شان و)



شوکت (یعنی بے ہتھیار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ (کر پھینک) دے ۰

تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو شرک ناخوش ہی ہوں۔

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہ (تسلی رکھو) ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک خدا غالب حکمت والا ہے ۰

جب اس نے (تمہاری) تسکین کے لئے اپنی طرف سے تمہیں نیند (کی چادر) اڑھادی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے (نہلا کر) پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور

اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو

اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝  
لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلِكُوْنِ الْكُفْرَةِ الْمُجْرِمُونَ ۝  
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ  
قِينَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى  
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۝ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ إِذْ يَغْشَىكُمْ الْعُتَا  
سُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ  
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ  
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ  
أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۝ سَالِقِي فِي قُلُوبِ  
الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ  
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۝ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

6. وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ

تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں  
رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار (کر) اڑا دو اور ان  
کا پور پور مار (کر توڑ) دو ۰

یہ (مزا) اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی  
مخالفت کی اور جو شخص خدا) اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے  
تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے ۰

--- ﴿سورة الانفال آیت ۱۳ تا ۲۵﴾ ---

۶۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم (کفار سے) لوٹ کر لاؤ اس میں سے

پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور  
 قیاموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس  
 (نصرت) پر ایمان رکھتے ہو جو (حق و باطل میں) فرق کرنے  
 کے دن (یعنی جنگ بدر میں) جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیر  
 ہو گئی اپنے بندے (محمد) پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر قادر  
 ہے ۰

جس وقت (تم مدینے سے) قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید  
 کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے (اتر گیا) تھا اور اگر تم (جنگ کے  
 لئے) آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین (پر جمع ہونے) میں  
 تقدیم و تاخیر ہو جاتی لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہے والا تھا  
 اسے کرنی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر (یعنی یقین جان کر)  
 مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر (یعنی حق پہچان کر) جیتا  
 رہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنا جانتا ہے ۰

اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں  
 دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور (جو)  
 کام (درپیش تھا اس) میں جھگڑنے لگتے لیکن خدا نے (تمہیں  
 اس سے) بچا لیا بیشک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے ۰  
 اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو

لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ ۚ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا  
 يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُحِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ ۖ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ النَّصُورِ  
 وَالرَّكْبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ ۖ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقَاتِلُ ۖ فَأَبَىٰ  
 الْفِرْعَوْنُ ۖ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ  
 مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبِحِسَابٍ مِّنْ حَتَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ ۖ وَإِن  
 اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ قَلِيلًا  
 وَكَوْا أَرْبَابَكُمْ كَثِيرًا لَّفَسَلْتُمْ وَلَتَنَارَعُنَّكُمْ فِي الْأَمْرِ  
 وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ  
 وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذِ التَّقَاتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ  
 فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ وَإِلَىٰ اللَّهِ  
 تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً  
 فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ  
 ۗ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ

تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں  
 میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے  
 کر ڈالے۔ اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے ۰

مومنو! جب (کفار کی) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت  
 قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو ۰  
 --- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۲۱ تا ۲۵﴾ ---

۷۔ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور (جنگ) حنین  
 کے دن جب کہ تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت پر غرہ تھا تو وہ

تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے ۵

پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور (تمہاری مدد کو فرشتوں کے) لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے (آسمان سے) اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۲۶۵﴾ ---

۸۔ مومنو! تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں (جہاد کے لئے) نکلو تو تم (کاہلی کے سبب سے) زمین پر گرے جاتے ہو (یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے) کیا تم آخرت (کی نعمتوں) کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں ۵ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا (جو خدا کے پورے فرمانبردار ہوں گے) اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۵

أَعْبَيْتُمْ كُفْرَكُمْ فَلَئِمَّ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَكَيْتُمْ مُذْهِبِينَ ۖ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلَّمُ إِلَى الْأَرْضِ ۖ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۖ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ إِلَّا تَتَوَفَّوْا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ۖ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

کو یاد ہوگا) جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا اس وقت (دو) ہی شخص تھے جن (میں) ایک ابو بکر تھے (دوسرے) (خود رسول اللہ) جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست (اور) حکمت

تم سبکبار ہو یا گراں بار (یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت گھروں سے) نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال اور جان سے لڑو۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطیکہ جھوٹے

اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ (شوق سے) چل دیتے لیکن مسافت ان کو دور (دراز) نظر آئی (تو عذر کریں گے) اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ (ایسے عذروں سے) اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ خدا تمہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں ان کو اجازت کیوں دی؟

جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ (بیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ) اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور خدا پر ہیزگاروں سے واقف ہے۔

اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک

حَكِيمٌ ۝ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ۝ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا  
لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَةُ ۝ وَسَيَحْلِفُونَ  
بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ  
أَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ  
الْكَاذِبِينَ ۝ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ  
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ  
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۝ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا  
لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ لِبَعَالِهِمْ فَتَبَطُّهُمْ وَتَلَّ  
أَعْدَاؤُهُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝

۹- فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَ

میں ڈانواں ڈول ہو رہے ہیں۔

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے سامان تیار کرتے لیکن  
خدا نے ان کا اٹھنا (اور نکلنا) پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ  
دیا اور (ان سے) کہہ دیا گیا کہ جہاں (معذور) بیٹھے ہیں تم بھی  
ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔

--- (سورۃ التوبہ آیت ۳۸ تا ۴۶) ---

۹۔ جو لوگ (غزوہ تبوک میں) بیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی  
مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند

کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور (اوروں سے بھی) کہنے لگے کہ گرمی میں مت ٹکنا (ان سے) کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ (اس بات کو) سمجھتے ۵

یہ (دنیا میں) تھوڑا سا نہن لیں اور (آخرت میں) ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا ۵

سورۃ التوبہ آیت ۸۲، ۸۱

۱۰۔ اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے (تمہارے پاس آئے) ان کو بھی اجازت دی جائے اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ (گھر میں) بیٹھ رہے۔ سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا ۵

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں (کہ شریک جہاد ہوں یعنی) جبکہ خدا اور اس کے رسول خیر اندیش (اور دل سے ان کے ساتھ) ہوں نیکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

اور نہ ان (بے سروسامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ انکو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی

گِرْهُوَا۟ اَنْۢ يُجَاهِدُوۡا بِاَمْوَالِهِمْۙ وَاَنْفُسِهِمْۙ فِي۟ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوۡا لَا تَنْفِرُوۡا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَۙ اَشَدُّ حَرًّا لَّوۡ كَانُوۡا يَفْقَهُوۡنَ ۝۱۰ فَلْيُضْحَكُوۡا قَلِيْلًا وَّلْيَلْبَسُوۡا كَثِيْرًا ۝۱۱ جَزَاءُۙ بِمَا كَانُوۡا يَكْسِبُوۡنَ ۝۱۲

۱۰۔ وَجَاءَ الْمَعَذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۱ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۝۱۲ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۳ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَاكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أُجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ سَوَّوْا كُلًّا وَاعْيَنُهُمْ تَقِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۝۱۴ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۵ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا

چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ۵

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور (پھر) تم سے اجازت طلب کرتے ہیں (یعنی) اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں۔ (گھروں میں بیٹھ) رہیں۔ خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ سمجھتے نہیں ۵

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے تم کہنا کہ عذرت کرو ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیئے ہیں۔ اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو (اور) دیکھیں گے پھر تم غائب (حاضر کے جاننے والے (خدائے واحد) کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا ۵

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے رب و خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو ان کی طرف التفات نہ کرنا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ۵

یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۹۶ تا ۹۷﴾ ---

۱۱۔ بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر خدا نے ان

رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۖ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ  
بَيَّنَّا اللَّهُ مِنْ آخِيَارِكُمْ ۖ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  
ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ سَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ  
لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَا وَهُمْ  
بِحُكْمٍ ۖ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ يُخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا  
عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ  
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

۱۱۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ  
الْبَعُوثُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ  
فَرِيقٍ مِّنْهُمْ لَمَّا تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۖ  
وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ۗ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ  
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا  
أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۗ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

پر مہربانی فرمائی۔ بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا  
(اور) مہربان ہے ۵

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب  
زمین باوجود فرائض کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر  
دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا (کے ہاتھ) سے خود  
اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ  
کریں۔ بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۵

اے اہل ایمان! خدا سے ڈرتے رہو اور راستہ جازوں کے ساتھ  
 رہو ۵

اہل مدینہ کو اور جوان کے آس پاس بدورہتے ہیں ان کو شایان نہ  
 تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی  
 جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں  
 جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسی جگہ  
 چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں  
 تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ  
 خدا نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ۵

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے  
 کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لئے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا  
 ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے ۵

— ﴿سورۃ التوبہ آیت ۱۱۷﴾ —

۱۲۔ مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو (اس نے) تم پر (اس  
 وقت) کی جب فوجیں تم پر (حملہ کرنے کو) آئیں تو ہم نے ان  
 پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر (نازل کئے) جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور  
 جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے ۵

انقوا الله وكونوا مع الصّٰدقین ۵ مَا كَانَ لِأَهْلِ  
 الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ  
 رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُرْعَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ  
 نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۗ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً  
 وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِحَسَنِهِمْ  
 اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ

۱۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ  
 جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ  
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۗ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ  
 أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ  
 وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۗ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا  
 زِلْزَالًا شَدِيدًا ۗ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ

جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر (چڑھ) آئے  
 اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل (مارے دہشت کے) گلوں  
 تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے  
 لگے ۵

وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے ۵  
 اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے  
 کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا

کیا تھا

اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ (یہاں) تمہارے (ٹھہرنے کا) مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے ۵

— ﴿سورة الاحزاب آیت ۱۳۶۹﴾ —

۱۳۔ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں (بھرے ہوئے تھے) کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور خدا طاقتور (اور) زبردست ہے ۵

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے ۵

مَرَّصٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۝ وَاسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۝ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝  
۱۳۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا ۝ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَوَدْيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوُّهَا ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۵

— ﴿سورة الاحزاب آیت ۲۷۲۵﴾ —



## غسل

۱۔ مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو۔ نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کہ غسل (نہ) کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو (اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو) اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح (کر کے تیمم) کر لو۔ بیشک خدا معاف

کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے ۵

--- سورة النساء آیت ۴۳ ---

## غصہ

۱۔ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو (خدا سے) ڈرنے والوں

کے لیے ہے

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمْ يَأْتِ الْغَائِبُ فَلَمْ يَأْتِ بِمَاءٍ فَيَسْتَمِئْ مِنْ الْأَرْضِ فَإِنْ فَسِدًا فَمَسْحًا بِيَدَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

۱۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

۲۔ وَالَّذِينَ يَحْتَبِرُونَ كُبْرَىٰ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا عَضُّوا لَهُمْ يَقْفِرُونَ ۝

جو آسودگی اور تنگی میں (اپنا مال خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- سورة آل عمران آیت ۱۳۳، ۱۳۴ ---

۲۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں ۵

--- سورة الشوریٰ آیت ۲۷ ---

## غفلت

۱۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کیلئے پیدا کئے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں یہ لوگ (بالکل) چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۱۷۹﴾ ---

۲۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانوں سے غافل ہو رہے ہیں ۵

ان کا ٹھکانا ان (اعمال) کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۸۷﴾ ---

۳۔ اور بہت سے لوگ ہماری نشانوں سے بے خبر ہیں ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۹۲﴾ ---

۴۔ لوگوں کا حساب (اعمال کا وقت) نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ

۱- وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أذانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۵

۲- إِنَّ الَّذِينَ لَا يُدْرُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۵ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۵

۳- وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ۵

۴- اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۵ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ إِلَّا سَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۵ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۵



غفلت میں (پڑے اس سے) منہ پھیر رہے ہیں ۵

ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی

مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ۵

ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ۵

--- ﴿سورة الانبياء آیت ۳۳﴾ ---



## غلامی

۱۔ اور کسی مومن کو شایاں نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں (تو ان کو اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے۔ یہ (کفارہ) خدا کی طرف سے (قبول) توبہ (کے لئے) ہے اور خدا سب کچھ جانتا (اور) بڑی

حکمت والا ہے ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۹۲﴾

۲۔ صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں (کے قرض ادا کرنے میں) اور خدا کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) پس (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہئے یہ حقوق) خدا کی طرف سے

۱۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِتَابٌ قَدِيمَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ

۲۔ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالسَّكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ

۳۔ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنْ مَّا آتَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تَكْفُرُوا فَتَيِّبْكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِيَٰكُمْ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهِنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ أَلْسِنَتِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ

﴿سورۃ التوبہ آیت ۶۰﴾

۳۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں (صلاحیت اور) نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو (بے شرعی سے) دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لئے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جوان کو مجبور کرے گا تو ان (بیچاروں کے مجبور کئے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

۴۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو (ان کو) ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا (ضرور) ہے۔ (مومنو) اس (حکم) سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے ۵

— سورة البقرہ آیت ۲۳ —

## غور و فکر

۱۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو ۵

— سورة آل عمران آیت ۱۹۱/۹۰ —

۲۔ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے اور ہر طرح کے میوؤں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ۵

— سورة الرعد آیت ۳ —

۴۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ بَيْنِهِمْ تَتَّبِعُ الَّذِينَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۵



۱۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَتَعْوَذًا وَأَعْلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

۲۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِدَ وَأَنْهَارًا ۚ وَ مِنَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجِينَ مِثْلَيْنِ يُغْفَىٰ إِلَيْكَ النَّهَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۳۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْ

۳۔ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے) ہیں جن میں تم اپنے چار پاؤں کو چراتے ہو ۵

اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور (اور اور بیشمار درخت) اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل (پیدا کرتا ہے) غور کرنے والوں کے لئے اس میں (قدرت خدا کی بڑی) نشانی ہے ۵

— سورة النحل آیت ۱۱۰ —

۴۔ اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں

﴿سورة النحل آیت ۴۴﴾

۵۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کیلئے پیدا کیا ہے اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں ۵

﴿سورة الروم آیت ۸﴾

۶۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھنسا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں ۵

﴿سورة الحشر آیت ۲۱﴾

الذَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴﴾  
 4- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۵﴾  
 5- أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿۶﴾  
 6- لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُظَرِّبَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷﴾

1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا ۚ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۱﴾

کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ (تو غیبت نہ کرو) اور خدا کا ڈر رکھو بیشک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة الحجرات آیت ۱۲﴾

## غیبت

۱۔ اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی

## فاجر

۱۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے۔ کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں۔ یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟

--- ﴿سورۃ ص آیت ۲۸﴾ ---

۲۔ بے شک نیکو کار نعمتوں (کی بہشت) میں ہوں گے اور بد کردار روزخ میں؟

(یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے؟)

اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے؟

اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے؟

جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلانہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا؟

--- ﴿سورۃ الانفاطار آیت ۱۹ تا ۲۱﴾ ---

۳۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سچین میں ہیں؟

۱۔ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟

۲۔ إِنَّ الْأَبْدَانَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الشُّجَارَ لَفِي حَبِيمٍ

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

۳۔ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَإِلَّٰهُ يَوْمَئِذٍ يَمْلِكُ الَّذِينَ

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ



اور تم کیا جانتے ہو کہ سچین کیا چیز ہے؟

ایک دفتر ہے لکھا ہوا؟

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہیں؟

(یعنی) جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟

--- ﴿سورۃ المطففین آیت ۷﴾ ---



## فتح مکہ

۱۔ جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح (حاصل ہوئی) ۵

اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل

ہو رہے ہیں ۵

تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت

مانگو۔ بیشک وہ معاف کرنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النصر آیت ۳۲﴾ ---

## فحاشی

۱۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں

رکھتے ہیں ۵

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے

بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم

دیا ہے کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔

بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ۵

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۲۸﴾ ---

۲۔ خدام کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ

سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں

۱۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ  
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝



۱۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَ  
اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللَّهُ اَمْرًا  
بِهَآءِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۚ اتَّقُوا لَوْنِ عَلَى اللّٰهِ  
مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

۲۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى  
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالنُّكْرِ وَالْبِغْيِ ۚ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ  
اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ  
يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

۴۔ يَاۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور) تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم

یاد رکھو ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۹۰﴾ ---

۳۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی

(یعنی تہمت بدکاری کی خبر) پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ

دینے والا عذاب ہوگا اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۵

--- ﴿سورۃ النور آیت ۱۹﴾ ---

۴۔ اے پیغمبر (مسلمانوں سے کہہ دو کہ) جب تم عورتوں کو طلاق

دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ (نہ تو تم ہی) ان کو (ایام عدت میں) ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ (خود ہی) نکلیں۔ ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں (تو نکال دینا چاہئے) اور یہ خدا کی حدیں ہیں جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا ۵

--- ﴿سورۃ الطلاق آیت ۱﴾ ---

## فراخی و تنگی

۱۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۸۵﴾ ---

۲۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے ۵ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا ۵

خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی (چاہئے تھا) تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے ۵

--- ﴿سورۃ طٰ آیت ۱۲۳﴾ ---

وَاحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَأْجِسَةٍ مَخِيئَةٍ ۖ وَبِكَ حُدُودِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ



- 1- يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
- 2- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۚ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۖ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۖ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْشَىٰ ۖ
- 3- لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ
- 4- فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

۳۔ صاحبِ وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے۔ اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشنے گا ۵

--- ﴿سورۃ الطلاق آیت ۷﴾ ---

۴۔ ہاوں (ہاں) مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے ۵ (اور) بیشک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے ۵

--- ﴿سورۃ الانشراح آیت ۶۵﴾ ---



## فرشتے

۱۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۲۳﴾

۲۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرئیل کا دشمن ہو (اس کو غصے میں مرجانا چاہئے) اس نے تو (یہ کتاب) خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے ۵

جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۹۷﴾

۳۔ مومنو! خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر (آخرا زمان) پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۳۶﴾

۴۔ اور کاش تم اس وقت (کی کیفیت) دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان کے مونہوں اور پیشوں پر (کوڑے اور

۱۔ وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدْ وَاِلٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيسَ ۝۱  
اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ ۝۲ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۳

۲۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلْجِبْرِیْلِ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۴  
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیْلِ وَمِیْكَل ۝۵  
فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ ۝۶

۳۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۝۷  
وَمَنْ يٰكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝۸

۴۔ وَكُلُوْا تَرٰوْا اِذْ يَتَوَقَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰئِكَةَ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاذْبَارَهُمْ وَاذْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝۹

۵۔ اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۝۱۰ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝۱۱

۶۔ قُلْ يَتَوَقَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ

تھوڑے وغیرہ) مارتے (ہیں) اور کہتے (ہیں کہ) اب عذاب آتش کا مزہ چکھو ۵

﴿سورة الانفال آیت ۵۰﴾

۵۔ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی بیشک خدا سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے ۵

﴿سورة الحج آیت ۷۵﴾

۶۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے ۵

﴿سورة السجده آیت ۱۱﴾

۷۔ سب تعریفِ خداہی کو (سزاوار ہے) جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں وہ (اپنی) مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

— ﴿سورۃ قاطر آیت ۱﴾ —

۸۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کیلئے معافی مانگتے رہتے ہیں سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

— ﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۵﴾ —

۹۔ جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں ۵

کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے ۵

— ﴿سورۃ ق آیت ۱۸﴾ —

۱۰۔ مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشادِ خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجالاتے ہیں ۵

— ﴿سورۃ التحریم آیت ۶﴾ —

تُرْجَعُونَ ۷

۷- الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اَوْۤىٰٓ اَجْنِحَةً مَّثْنِیَّ وَتِلْكَ وَّرَبِّہٖۤ اَزْدٌۭ بِیَزِدُّ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

۸- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ یَنْفَطِرْنَ مِنْ فَوْقِہِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ یَسْبُحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّہُمْ وَیَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِی الْاَرْضِ ۗ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝

۹- اِذْ یَتَلَقٰی الْمُتَلَقِّیْنَ عَنِ الْیَمِیْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیْدٌ ۗ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَیْہِ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌ ۝

۱۰- یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَکُمْ وَاٰهْلِکُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ عَلَیْہَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُوْمَرُوْنَ ۝

۱۱- وَ الْمَلٰٓئِکَۃُ عَلٰی اَرْجَآئِہَا وَّ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَہُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمٰنِیۃٌ ۝

۱۲- وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِکَۃً ۗ وَمَا جَعَلْنَا عَدُوِّہُمْ اِلَّا

۱۱۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر (اتر آئیں گے) اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے ۵

۱۲۔ اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لئے مقرر کیا ہے (اور) اسلئے کہ اہل

کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لئے کہ جن لوگوں کے دلوں میں

(نفاق) کا مرض ہے اور جو (کافر) ہیں) کہیں کہ اس مثال (کے بیان کرنے) سے خدا کا مقصود کیا ہے؟ اسی طرح خدا جس کو

چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور

تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا  
اور یہ تو بنی آدم کے لئے نصیحت ہے ۵

﴿سورة المدثر آیت ۳۱﴾

۱۳۔ ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع)  
کیا

اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟  
شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے ۵

اس میں روح (الائین) اور فرشتے ہر کام کے (انتظام کے) لئے  
اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں ۵

یہ (رات) طلوع صبح تک (امان اور) سلامتی ہے ۵

﴿سورة القدر آیت ۵۲﴾

فِئْتَنَةٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَوِيَنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَذَرُوا الَّذِينَ  
أَمْتُوا إِنَّمَا لِآبَائِهِمْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝۱۳  
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا  
مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۝  
وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۝  
۱۳- إِنْكَ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝  
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ  
فِيهَا يَأْذَنُ الرُّبُّهُمُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَّمَ ذَهَبِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝



مزید حوالے: البقرہ: ۳۰-۳۴-۱۰۲-۱۶۱-۱۷۷-۲۳۸ آل عمران: ۸۰-الاعراف: ۱۱-۳۷-الانفال: ۹-۱۲-۵۰-الرعد: ۱۱-الحجر: ۳۱-النحل: ۲۹-۳۲-۳۳-

بنی اسرائیل: ۶۱-الکہف: ۵۰-طہ: ۱۱۶-سبا: ۳۰-الصافات: ۱۳۹-۱۵۰-الزخرف: ۱۹-محمد: ۲۷-النجم: ۲۷-المدثر: ۳۰-التازعات: ۱-۲-

نیز دیکھئے: کراما کاتبین

## فرعون

۱۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے (اور وہ بھی) فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے اور فرعون ملک میں متکبر و مغتلب اور (کبر و کفر میں) حد سے بڑھا ہوا تھا ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۸۳﴾ ---

۲۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں (بہت سا) ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے اے پروردگار۔ ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب الیم نہ دیکھ لیں ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۸۸﴾ ---

۳۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دیکر بھیجا ۵ (یعنی) فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا ۵ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جاتا رہے گا اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے

فَمَا أَمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝  
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَدْرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبَعُوهُ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۗ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۖ يَقَدِّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ۝ وَأَتَّبَعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ بئسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ۝

طَسَمَ ۖ تِلْكَ آيَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِينِ ۖ نَتَلَوُا عَلَيْكَ مِّنْ نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضَعِفُ

اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی (پیچھے لگی رہے گی) جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے ۵

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۹۶-۹۹﴾ ---

۴۔ طَسَمَ۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ۵ (اے محمد) ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں (کے سنانے) کے لئے صحیح صحیح سنانے ہیں ۵ کہ فرعون نے ملک میں سرائٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی

لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں (ملک کا) وارث کریں۔

اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھادیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اسکو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر) اسے پیغمبر بنا دیں گے۔

تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھالیا اس لئے کہ (نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ) وہ ان کا دشمن اور اور ان کیلئے موجب غم ہو بیشک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ (یہ) میری اور تمہاری (دونوں کی) آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ (انجام سے) بے خبر تھے۔

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۹۲﴾ ---

طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذَّخَّرُونَ لَهُمْ وَيَسْتَعِجِلُّونَ لَهُمُ الْآثَانَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِنَ الْمُسْتَعِجِلِينَ ۝ وَيُرِيدُ أَنْ لَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيَةً وَيَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَوَدَّ أَنْ يَرَوْا وَرُءُوسَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكِ لَا تُقْلِقُونَ عَلَيَّ أَنْ يَتَّخِذَنَا وَتَحِيزَهُ ۖ وَكَذَٰلِكَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

5- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ۖ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الظِّلِّينَ فاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَظْلِمُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝

۵۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا تو ہامان میرے لئے گارے کو آگ لگا (کراہی نہیں پکا) دو پھر ایک (اونچا) محل بنا دو تا کہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔

اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا

سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۲۰ تا ۲۸﴾ ---

۶۔ اور فرعون نے کہا کہ ہا مان میرے لئے ایک محل بناؤ تاکہ میں

(اس پر چڑھ کر) رستوں پر پہنچ جاؤں ۵

(یعنی) آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور

میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد

اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون

کی تدبیر تو بیکار تھی ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۳۶ تا ۳۷﴾ ---

۷۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے ۵

جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان (یعنی) طویٰ میں

پکارا ۵

(اور حکم دیا) کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے ۵

اور اس سے کہو) کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے ۵

اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف (پیدا)

۵ ۵

غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی ۵

مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا ۵

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم

إِنَّمَا لَا يُرْجَعُونَ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي

الْبُيُوتِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝

۶. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰؤُلَاءِ لَنُؤْتِيَنَّكُم مِّنْ عِندِنَا مَا نَشَاءُ

فَلَا تَخَافُونَّ أَتُحِبُّونَ الْعِبَادَةَ لِلذَّٰلِمِينَ ۝

وَأَنذِرْ عِبَادَكَ بِحِكْمِ الْوَالِدِ الْعَقِيلِ ۝ وَأَوَّاكِنَّا فِي

الْبُيُوتِ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝

فِي تَبَابٍ ۝

۷. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِاللَّيْلِ إِذْ

أَسْرَأَ ۝ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ طَوًى ۝ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِذْهُ طَغَىٰ ۝

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزُولَ ۝ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رِبِّكَ

فَتَخْلِي ۝ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۝ فَخَشَرَ فَنَادَىٰ ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ

الْأَعْلَىٰ ۝ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْلِي ۝

پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا ۵

اور (لوگوں کو) اکٹھا کیا اور پکارا ۵

کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں ۵

تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت (دونوں) کے عذاب میں پکڑ لیا ۵

جو شخص (خدا سے) ڈر رکھتا ہے اس کے لئے اس (قصے) میں

عبرت ہے ۵

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۲۶ تا ۳۵﴾ ---

## فساد

۱۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۶﴾ ---

۲۔ خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۸۱﴾ ---

۳۔ اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لعنت ہے اور

ان کے لئے گھر بھی برا ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲۵﴾ ---

۴۔ اور جو (مال) تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت (کی بھلائی) طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے (ویسی) تم بھی (لوگوں سے) بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو

۱- وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۵

۲- إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ ۵

۳- وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۵ أُولَئِكَ

لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۵

۴- وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ

نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۵ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ۵

۵- ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۵

دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورة القصص آیت ۷۷﴾ ---

۵۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آجائیں ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۴۱﴾ ---

## فسق

۱۔ خدا اس بات سے عار نہیں کرتا کہ پچھریا اس سے بڑھ کر کسی چیز (مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ) کی مثال بیان فرمائے جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے اس سے (خدا) بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو ۵

جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز (یعنی رشتہ قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کئے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۷۶﴾ ---

۲۔ اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکردار ہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۹۹﴾ ---

۳۔ حج کے مہینے (معین ہیں جو) معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۹۷﴾ ---

۴۔ اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو۔ اور کتاب

۱۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

۲۔ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

۳۔ الْحَجَّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ

۴۔ وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَّيْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

۵۔ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمِيثَاقُ وَالذَّمُّ وَحَمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلًا وَآكِرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

۶۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَحَمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلًا

دستاویز اور گواہ (معاملہ کرنے والوں کا) کسی طرح کا نقصان نہ کریں اگر تم (لوگ) ایسا کرو تو یہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہے اور خدا سے ڈرو ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۸۲﴾ ---

۵۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں (لیکن تھوڑے) اور اکثر نافرمان ہیں ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۱۰﴾ ---

۶۔ تم پر مہرا ہوا جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر



خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم (مرنے سے پہلے) ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قیمت معلوم کرو یہ سب گناہ (کے کام) ہیں ۵

--- ﴿سورة المائدة آیت ۳﴾ ---

۷۔ اور جو خدا کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیگا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں ۵

--- ﴿سورة المائدة آیت ۲۷﴾ ---

۸۔ اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

--- ﴿سورة المائدة آیت ۱۰۸﴾ ---

۹۔ اور ظاہری اور پوشیدہ (ہر طرح کا) گناہ ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کئے کی سزا پائیں گے ۵ اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۱﴾ ---

۱۰۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس (یعنی) ایک ہی طرح کے) ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک

لغير الله به والمنخفة والموقودة والمتردية  
والتطيحة وما أكل السيم إلا ما ذكيتم وما  
ذبح على الثصب وأن تستقسموا بالأزلام  
ذلكم فسق ۶

7- وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۷

8- وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ ۸

9- وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَلْئِمِ وَبَاطِنَهُ ۶ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ

الْأَلْئِمَ سَيُخَذُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ۶ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ

يُذَكَّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۶

10- الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ

يَأْمُرُونَ بِالْمَنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ

أَيْدِيَهُمْ ۶ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۶ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ

الْفٰسِقُونَ ۱۰

11- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

كَانَ مِنَ الْغٰوِبِينَ ۶ فَفَسَقَ عَنِ أَمرِ رَبِّهِ ۶ أَفَتَتَّخِذُونَ

کاموں سے منع کرتے اور (خرچ کرنے سے) ہاتھ بند کئے رہتے ہیں انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا بیشک منافق نافرمان ہیں ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۶۷﴾ ---

۱۱۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس (نے نہ کیا) وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں

اور شیطان کی دوستی) ظالموں کے لئے (خدا کی دوستی کا) بادل ہے

--- ﴿سورة الكهف آیت ۵۰﴾ ---

۱۲۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی دوزے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں

--- ﴿سورة النور آیت ۴﴾ ---

۱۳۔ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے (رہنے کے لئے) باغ ہیں۔ یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے (رہنے کے لئے) دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اسکے مزے چکھو

--- ﴿سورة السجدة آیت ۲۰ تا ۲۱﴾ ---

۱۴۔ پس (اے محمد) جس طرح عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لئے (عذاب) جلدی نہ مانگو جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا

ذُرِّيَّتِكَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

12- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَأَجْلِدْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

13- أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۚ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

14- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْرِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَكْبُتُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلَّغْ ۚ فَعَلَّ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۚ

15- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

ہے تو (خیال کریں گے کہ) گویا (دنیا میں) رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھردن۔ (یہ قرآن) پیغام ہے سو (اب) وہی ہلاک ہو گئے جو نافرمان تھے

--- ﴿سورة الاحقاف آیت ۳۵﴾ ---

۱۵۔ مومنو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو (مبادا) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم اپنے کئے پر نادام ہونا پڑے

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۶﴾ ---

1- فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ  
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

## فطرت

1- تو تم ایک طرف کے ہو کر دین (خدا کے رستے) پر سیدھا منہ  
کئے چلے جاؤ (اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا  
کیا ہے) اختیار کئے رہو (خدا کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و  
تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں  
جانتے ۵

1- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ كَأَنَّهُمْ  
فِيهِمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
لِيُنذِرُوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ  
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١١﴾

--- ﴿سورة الروم آیت ۳۰﴾ ---

## فقہ

1- اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں  
کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے  
تاکہ دین (کا علم سیکھتے اور اس) میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی  
قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سنا تے تاکہ وہ حذر کرتے ۵

--- ﴿سورة التوبہ آیت ۱۲۲﴾ ---

## فلکیات

۱۔ (اے محمد) لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ گھنٹا بڑھتا کیوں ہے) کہہ دو کہ وہ لوگوں کے (کاموں کی میعادیں) اور جج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے ۵

— ﴿سورة البقرة آیت ۱۸۹﴾ —

۲۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (کاموں کا) حساب معلوم کرو یہ (سب کچھ) خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کیلئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ۵

— ﴿سورة یونس آیت ۵﴾ —

۳۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجا دیا ۵

اور ہر شیطان راوندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا ۵

— ﴿سورة الحجر آیت ۱۷﴾ —

۴۔ اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کیلئے اس میں (قدرت خدا کی بہت سی) نشانیاں ہیں ۵

— ﴿سورة النحل آیت ۱۲﴾ —

۵۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا

۱۔ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْآيَاتِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَیْجَةِ ۗ

۲۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

۳۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيبٍ ۝

۴۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُومَ مَسَّحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

۵۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

۶۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۗ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

۷۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۗ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۗ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ

(یہ) سب (یعنی سورج اور چاند اور ستارے) آسمان میں (اس

طرح چلتے ہیں گویا) تیر رہے ہیں ۵

— ﴿سورة الانبیاء آیت ۳۳﴾ —

۶۔ اور ہم نے تمہارے اوپر (کی جانب) سات آسمان پیدا کئے

اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں ۵

— ﴿سورة المؤمنون آیت ۱۷﴾ —

۷۔ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ (خدائے)

غالب (اور) دانا کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ ہے ۵

اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ

(گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے ۵

نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ یس آیت ۲۸-۳۰﴾ ---

۸۔ بیشک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ۵

اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی ۵

کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگائیں اور ہر طرف سے (ان پر انگارے) پھینکے جاتے ہیں ۵

(یعنی وہاں سے نکال دیئے کو اور ان کیلئے عذاب دائمی ہے ۵

ہاں جو کوئی (فرشتوں کی کسی بات کو) چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارا اس کے پیچھے لگتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الصلٰت آیت ۱۰۲﴾ ---

۹۔ اسے سات آسمان اوپر تلے بنائے (اے دیکھنے والے) کیا تو (خدا) رحمن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو (آسمان میں) کوئی شکاف نظر آتا ہے؟

الْقَدِيمِ ۵ لَا الْقَمَسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

الْبَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۵ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۵

۸۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوَكِبِ ۵ وَحِفْظًا ۵ مِن

كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۵ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى

وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۵ دُخُورًا ۵ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصَابٌ ۵

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۵

۹۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۵ مَا تَرَى فِي خَلْقِ

الرَّحْمٰنِ مِنْ تَقْوِيَةٍ ۵ فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ ۵ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۵

ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ ۵ كَرَّتَيْنِ ۵ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ

حَسِيرٌ ۵ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا

رُجُومًا لِلشَّيْطٰنِ ۵ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۵



پھر دوبارہ (سہ بارہ نظر کر تو نظر (ہر بار) تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی ۵

اور ہم نے قریب کے آسمان کو (تاروں کے) چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لئے دکھتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الملک آیت ۵۲﴾ ---



فے

۱۔ اور جو (مال) خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے (لڑائی بھڑائی کے بغیر) دلویا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لئے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلویا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے (اور پیغمبر کے) قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجتمندوں کے اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہو۔

اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بیشک خدا سخت عذاب دینے والا ہے ۵ اور ان مفلسان تارک الوطن کے لئے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج (اور جدا) کر دیئے گئے ہیں (اور) خدا کے فضل

۱۔ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَنْ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۖ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَبْتَغُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۗ

اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار

ہیں۔ یہی لوگ سچے (ایماندار) ہیں ۵

﴿سورۃ الاحزاب آیت ۸۴﴾

## قبر

۱۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ

خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا

﴿سورۃ الحج آیت ۷﴾

۲۔ انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے

اسے (خدا نے) کس چیز نے بنایا؟

نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا

پھر اس کے لئے رستہ آسان کر دیا

پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا

پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا

﴿سورۃ ص آیت ۷۷﴾

۳۔ جب آسمان پھٹ جائے گا

اور جب تارے جھڑ پڑیں گے

اور جب دریابہ (کرایک دوسرے سے مل) جائیں گے

اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی

۱۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّارْتَابَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ  
فِي الْقُبُورِ

۲۔ قِيلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ  
نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ  
فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ

۳۔ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا  
الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا  
قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

۴۔ أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ



تب ہر شخص معلوم کریگا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے

کیا چھوڑا تھا

﴿سورۃ الانقار آیت ۵۲﴾

۲۔ (لوگو) تم کو (مال کی) بہت سی طلب نے غافل کر دیا

یہاں تک کہ تم نے قبریں جادیکھیں

﴿سورۃ النکاثر آیت ۲﴾



## قبلہ

۱۔ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر (پہلے سے چلے آتے) تھے (اب) اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے ۵

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزماں) تم پر گواہ بنیں۔ اور جس قبلہ پر تم (پہلے) تھے اس کو ہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون (ہمارے) پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات (یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو) گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی ہے (وہ اسے گراں نہیں سمجھتے) اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یونہی کھو دے۔ خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان (اور) صاحب رحمت ہے ۵

(اے محمد) ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلہ کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا منہ مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ) کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہو کرو (نماز پڑھنے کے وقت)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لَعَلَّكُمْ مِنَ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۝ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ إِنَّمَا كَانَتْ أَفْئَاتِكُمْ وَالنَّاسِ الْفَاسِقِينَ ۝ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۝ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۝ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۝ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۝ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۝ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۝ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۝ إِنَّكَ إِذَا

اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ (نیا قبلہ) ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں ۵

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں اور تم بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہو۔ اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلہ کے پیرو نہیں اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش (یعنی وحی خدا) آچکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں



میں (داخل) ہو جاؤ گے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۳۲ تا ۱۳۵﴾ ---

۲۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لئے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ (یعنی

مسجدیں) ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۸۷﴾ ---

## قتل

۱۔ (اے محمد! لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا (گناہ) ہے اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام (یعنی

خانہ کعبہ میں جانے) سے (بند کرنا) اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا (جو یہ کفار کرتے ہیں) خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ (گناہ) ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۱۷﴾ ---

۲۔ اور کسی مومن کو شایاں نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے (ہاں) اگر وہ معاف کر دیں (تو ان کو اختیار ہے) اگر مقتول

لَیْسَ الظَّالِمِیْنَ ۵

۲۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوِّأَ لِقَوْمِكَ مِمَّا بِيصْرَ يَبُوتًا ۖ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۵



۱۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الثَّمَرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۖ

۲۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ

تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہئے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ (کفارہ) خدا کی طرف سے (قبول) توبہ (کے لئے) ہے اور خدا سب کچھ جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے ۵

اور جو شخص مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس

میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کریگا اور ایسے شخص کیلئے اس نے بڑا (سخت) عذاب تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۹۲، ۹۳﴾ ---

۳۔ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو (ناحق) قتل کرے گا (یعنی) بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا ۵

۴۔ اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر (یعنی بقتولی شریعت) اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے (کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے) تو اسکو چاہیے کہ قتل (کے قصاص) میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور وفتیاب ہے ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۳۳﴾ ---

تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدًّا فَجَزَاءُ مِّمَّا كَفَرَ بِهِمْ خُلْدًا فِيهَا وَعَظَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝

۳۔ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ

۴۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

۵۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَلَا يَزْنُونَ ۖ



۵۔ اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق (یعنی شریعت کے حکم) سے اور بدکاری نہیں کرتے ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۶۸﴾ ---



## قتل اولاد

۱۔ اور ناداری (کے اندیشے) سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۵۱﴾ ---

۲۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا (کیونکہ) ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے ۵

--- ﴿سورة نبي اسرائيل آیت ۳۱﴾ ---

## قرآن

۱۔ الم۔ یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں (کہ کلام خدا ہے۔ خدا سے) ڈرنے والوں کی رہنما ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱﴾ ---

۲۔ اور اگر تم کو اس (کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد عربی) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنالو اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو ۵

لیکن اگر (ایسا) نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے

قتل اولاد: مزید حوالے: التکویر: ۸-۹

۱۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۖ تَحْنُنْ نَزْرُقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

۲۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ تَحْنُنْ نَزْرُقَهُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۖ



۱۔ الْمَلَّةَ ۚ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ

۲۔ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِن تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ

۳۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہو گئے (اور جو) کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۳﴾ ---

۳۔ (روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے) جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور (جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (جو حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۸۵﴾ ---

۴۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختلاف پاتے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۸۲﴾ ---

۵۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے ۵

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۲۰۴﴾ ---

۶۔ اور یہ (قرآن) ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنالائے۔ ہاں (ہاں یہ خدا کا کلام ہے) جو (کتابیں) اس سے پہلے (کی) ہیں۔ ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں (تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں) کہ یہ رب العالمین کی طرف سے (نازل ہوا) ہے ۵

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنالیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنالادو اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۳۸﴾ ---

۷۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا

۴۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

۵۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

۶۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَلْعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

۷۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

۸۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۗ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَلَىٰ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا لَعُورًا ۝

کرو ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۹۸﴾ ---

۸۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنالائیں تو اس جیسا نہ لائیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ۵

اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی

ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۸﴾ ---

۹۔ ہم نے (بار) امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا ۵

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۷۲﴾ ---

۱۰۔ یس۔ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے ۵  
(اے محمد) بیشک تم پیغمبروں میں سے ہو ۵  
سیدھے رہتے پڑے ۵

(یہ خدائے غالب (اور) مہربان نے نازل کیا ہے ۵  
تا کہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ یس آیت ۲۱﴾ ---

۱۱۔ خدانے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں (یعنی) کتاب (جس کی آیتیں باہم) ملتی جلتی (ہیں) اور دہرائی جاتی (ہیں) جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے (اس سے) روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم (ہو کر) خدا کی یاد کی طرف (متوجہ) ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ۵

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۲۳﴾ ---

۱۲۔ اور ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں ۵

۹۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝

۱۰۔ یٰسَ ۙ وَالْقُرْاٰنِ الْحٰکِمِیْمِ ۙ اِنَّكَ لَیَوْمَ الْمُرْسَلِیْنَ ۙ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۙ تَنْزِیْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۙ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

۱۱۔ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ ۙ كِتٰبًا مُّتَشٰبِهًا مَّثٰنٰی ۙ تَنْزِیْلًا مِنْهُ جُلُوْدٌ الذِّیْنَ یَحْشَوْنَ رِبِّیْمَ ۙ ثُمَّ تَلٰیۡنَ جُلُوْدَهُمْ ۙ وَقَلُوْۤا لَهُمْ اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ ۙ ذٰلِكَ هُدٰی اللّٰهُ یَهْدِیْ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ۙ وَمَنْ یُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

۱۲۔ وَكَذٰلِكَ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ۙ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا غَیْرَ ذِیْ عَوَجٍ لَّعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ ۝  
۱۳۔ حُمَ ۙ تَنْزِیْلٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۙ بِشِیْرًا وَّزَیْرًا ۙ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ۝

(یہ) قرآن عربی (ہے) جس میں کوئی عیب (اور اختلاف) نہیں تاکہ وہ ڈرمانیں ۵

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۲۸﴾ ---

۱۳۔ حم۔ یہ کتاب خدائے رحمن ورحیم (کی طرف) سے اتری۔ (ایسی) کتاب جس کی آیتیں واضح (المعانی) ہیں (یعنی) قرآن عربی ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں ۵

جو بشارت بھی سنا تا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں ۵

--- ﴿سورۃ حم السجدہ آیت ۳۱﴾ ---

۱۴۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں (نازل) کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں (ہماری زبان میں) کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں۔ کیا (خوب کہ قرآن تو) عجیبی اور (مخاطب) عربی کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لئے (یہ) ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی (یعنی بہرا پن) ہے اور یہ ان کے حق میں (موجب) ناپیدائی ہے گرانی کے سبب ان کو (گویا) دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے ۵

--- ﴿سورة حم السجدة آیت ۴۴﴾ ---

۱۵۔ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں (یعنی مکے) کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں دلاؤ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں ۵

--- ﴿سورة الشورى آیت ۷﴾ ---

۱۶۔ حم۔ کتاب روشن کی قسم ۵

کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو ۵ اور یہ بڑی کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ہمارے پاس (لکھی ہوئی اور) بڑی فضیلت (اور) حکمت والی ہے ۵

--- ﴿سورة الزخرف آیت ۴۱﴾ ---

۱۷۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنالیا ہے بات یہ ہے کہ یہ (خدا پر) ایمان نہیں رکھتے ۵

۱۴۔ وَكُوِّجَعَلْنَهُ قُرْآنًا عَجَبًا لِّقَالُوا كَلَّا فَصَلِّتْ  
آيَةً عَجَبًا وَعَرَبِيًّا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي  
أَذَانِهِمْ وَقُرْءَهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ  
مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

۱۵۔ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ  
وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِرَبِّ فِيهِ قُرْآنٌ فِي  
الْحَيَّةِ وَقُرْآنٌ فِي السَّعِيرِ

۱۶۔ حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمَّ الْقُرَىٰ لَدِينًا لَعَلَّكُمْ حَكِيمٌ

۱۷۔ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ  
مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

۱۸۔ فَلَا أُفِصِحُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعَلْمُونَ  
عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ  
يَسْتَهْأَلُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں ۵

--- ﴿سورة الطور آیت ۳۳﴾ ---

۱۸۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم ۵

اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے ۵

کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے ۵

(جو) کتاب محفوظ میں (لکھا ہوا ہے) ۵

اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں ۵

پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے ۵

کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟

اور اپنا وظیفہ یہ بتاتے ہو کہ (اسے) جھٹلاتے ہو

--- ﴿سورة الواقعة آیت ۸۴-۸۵﴾ ---

۱۹۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ

خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے

لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں

--- ﴿سورة الحشر آیت ۲۱﴾ ---

۲۰۔ (اے محمد) ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے

--- ﴿سورة الدهر آیت ۲۳﴾ ---

۲۱۔ (یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں) بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے

لوح محفوظ میں (لکھا ہوا)

--- ﴿سورة البروج آیت ۲۱-۲۲﴾ ---

أَفِيهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ۖ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ

أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ۖ

19- لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا

مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَبَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبَهَا

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ

20- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۗ

21- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۚ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۖ

مزید حوالے: یونس: ۱۵-س: ۸-الدخان: ۳۱-محمد: ۲۳-الرحمن: ۱-۲-الحاقة: ۸۳-۸۴-الجن: ۱-۲-

عجس: ۱۶-۱۷-القدر: ۹

نیز دیکھئے: امثال القرآن- تلاوت- قرآن کا اعجاز- قرآن کی پیشین گوئیاں- قرآنی دعائیں

قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج

## قرآن اور سائنس

۱۔ بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لئے رواں ہیں اور مینہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک ہوئے پیچھے سبز) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لئے (خدا کی قدرت کی) نشانیاں ہیں ۵

— (سورۃ البقرہ آیت ۱۶۳) —

۲۔ بیشک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر (ان سے درخت وغیرہ) اگاتا ہے وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے یہی تو خدا ہے پھر تم کہاں بیکے پھرتے ہو؟۔ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو (موجب) آرام (ٹھہرایا) اور سورج اور چاند کو (ذرائع) شمار بنایا ہے یہ خدا کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں جو غالب (اور) علم والا ہے ۵ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لئے ہم

۱- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝  
 2- إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ۖ يُخْرِجُ الْحَىِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ تَوَفَّكُونَ ۝ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حِسَابًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ

نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ۵ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر (تمہارے لئے) ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لئے ہم نے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ۵ اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے۔ پھر ہم ہی (جو مینہ برساتے ہیں) اس سے ہر طرح کی روئیدگی اگاتے ہیں۔ پھر اس میں سے سبز سبز کو نکلیں نکالتے ہیں اور ان کو نیپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے سچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو



ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں ملتے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور (جب پکتی ہیں تو) ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں (قدرت خدا کی بہت سی) نشانیاں ہیں ۵ اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا۔ اور بے سمجھے (جھوٹ بہتان) اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان ان سے بلند ہے ۵ (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے)

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۰۱ تا ۱۰۵﴾ ---

۳۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام پر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے یہ خدائے رب العلمین بڑی برکت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۵۴﴾ ---

۴۔ (ان) سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداء پیدا کرے (اور) پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ خدایں پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا

دَانِيَةً وَجَدَّتْ مِنْ اَعْنَابٍ وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا  
وَوَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۝ اَنْظُرُوا اِلَى ثَمَرِهِ اِذَا اَنْثَرَ وَيَنْعِهِ ۝ اِنَّ فِي  
ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ  
وَخَلَقْنٰهُمْ وَخَرَقُوْا لَهُ بَيْنِيْنَ وَبَيْنَ بَعِيْرٍ عَلِمٌ ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى  
عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ بِدِيْعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

3- اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ  
اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۝ يُغْشِي السَّمٰوٰتِ الْيَلَمُ الْيَلَمُ  
حٰشِيَئًا ۝ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ مَسْعُوْرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ۝ اِلَّا  
لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۝ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

4- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۝  
قُلِ اللّٰهُ يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۝ فَاَلَيْ تَتَوَكَّلُوْنَ ۝

5- اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى  
الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الْقَمٰرَ وَالْقَمَرُ ۝ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۝  
يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُؤْمِنُوْنَ ۝  
وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوٰسِيْ وَاَنْهٰرًا ۝

کرے گا تو تم کہاں اُسے جا رہے ہو ۵

--- ﴿سورة يونس آیت ۳۳﴾ ---

۵۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے۔ پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے (اس طرح) وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو ۵ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے۔

اور ہر طرح کے میووں کی دودھ قسمیں بنائیں وہی رات کو دن کا لباس پہنتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ۵

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجودیکہ) پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں ۵

— سورة الرعد آیت ۲۳۲ —

۶۔ اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں سننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ۵

اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی (مقام) عبرت (وغور) ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے ۵

— سورة النحل آیت ۶۶-۶۵ —

۷۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا۔ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا فِيهَا رُجُوبًا وَإِنَّ فِيهَا لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّمَّا تَجْرَتْ وَمَجْتَمَعٌ مِنَ الْأَنْهَارِ وَرُزْقٌ مِّنَ السَّمَاءِ صَوَانٌ وَغَيْرُ صَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفِضٌ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَرْضِ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝  
6- وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لِّبَنَاءٍ خَالِصًا سَائِبًا لِلشَّيْبَانِ ۝

7- أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لِّعَلَّاهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں (کے بوجھ) سے ہلنے (اور جھکنے) نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں ۵

اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانوں سے منہ پھیر رہے ہیں ۵

اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا (یہ) سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے) آسمان میں (اس طرح چلتے ہیں گویا) تیر رہے ہیں ۵

۸۔ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں

کا طومار لپیٹ لیتے ہیں جس طرح ہم نے (کائنات کو) پہلے پیدا

کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے (یہ) وعدہ (ہے) جس کا

پورا کرنا لازم ہے۔ ہم (ایسا) ضرور کرنے والے ہیں ۵

--- ﴿سورة الانبياء آیت ۱۱۲﴾ ---

۹۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے ۵

پھر اسکو ایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا ۵

پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا۔ پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں

بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا۔ پھر اس کو نبی

صورت میں بنا دیا تو خدا جو سب سے بہتر بنا نیوالا بڑا بابرکت ہے

پھر اس کے بعد تم مرجاتے ہو ۵

پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کئے جاؤ گے ۵

اور ہم نے تمہارے اوپر (کی جانب) سات آسمان پیدا کئے

اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں ۵

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا

پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر

ہیں ۵

پھر ہم نے اس سے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغ

فِي فَلَكَ يَتَسَبَّحُونَ ۵

8۔ يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّينِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا بَدَأْنَا

أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۵

9۔ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْمَةِ مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ

نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۚ

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ

الْخَالِقِينَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ۚ وَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۚ

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً بَقْدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِه

لَقَدِيرُونَ ۚ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ ۚ

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۚ وَسَجَّهَةً تَخْرُجُ

مِنْ طُورٍ سِينَاءَ تَنْثَبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٌ لِلْأَكْلِينَ ۚ

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ

بنائے ان میں تمہارے لئے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں

اور ان میں سے تم کھاتے ہو ۵

اور وہ درخت بھی (ہم ہی نے پیدا کیا) جو طور سینا میں پیدا ہوتا

ہے (یعنی زیتون کا (درخت کہ) کھانے کیلئے روغن اور سالن

لئے ہوئے اگتا ہے ۵

اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی عبرت (اور نشانی) ہے کہ جو

ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں (دودھ) پلاتے ہیں اور

تمہارے لئے ان میں (اور بھی) بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو ۵

اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو ۵

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۲۲ تا ۲۴﴾ ---

۱۰۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ پھر ان کو تہہ بہہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مینہ نکل (کر برس) رہا ہے اور آسمان میں جو (اولوں کے) پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برس دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اسکی چمک آنکھوں کو (خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے) ۵

خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے ۵

اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۳ تا ۲۵﴾ ---

۱۱۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں

فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

۱۰۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ يَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَّنْ يَّشَاءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۗ يَغْلِبُ اللّٰهُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۗ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِيْ عَلَى بَطْنِهٖ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِيْ عَلَى اَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۱۱۔ اَوْ لَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمَا اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لآيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

۱۲۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمْرٌ مِّمَّا تَحْتَا بِالسَّحَابِ ۗ صَخَّرَ اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝

۱۳۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۱۴۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۱۵۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۱۶۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۱۷۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۱۸۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۱۹۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۲۰۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۲۱۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۲۲۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں ۵

کچھ شک نہیں کہ اس میں (قدرت خدا کی) نشانی ہے مگر یہ اکثر

ایمان لانے والے نہیں ۵

--- ﴿سورة الشعراء آیت ۸۷﴾ ---

۱۲۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ (اپنی جگہ پر)

کھڑے ہیں مگر وہ (اس روز) اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے

بادل (یہ) خدا کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے

شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے ۵

--- ﴿سورة النمل آیت ۸۸﴾ ---

۱۳۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر (کس طرح) اسکو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ خدا کو آسان ہے ۵

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھر وادردیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے پھر خدا ہی پھولی پیدائش کریگا بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورة العنكبوت آیت ۲۰، ۱۹﴾ ---

۱۴۔ وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔

اور ایک نشانی ان کیلئے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسوقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے ۵

اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ (خدا کے) غالب (اور) دانا کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ ہے ۵

اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ (گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے ۵

نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے

ہیں ۵

--- ﴿سورة یسین آیت ۳۶، ۳۵﴾ ---

13- أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْرِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

14- سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنَّ لَهُمُ اللَّيْلَ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ ۝ وَالْقَمَسُ تَجْرِي لِيَسْتَقِرَّ لَهَا ۗ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرُ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الْقَمَسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

15- قُلْ أَبْغَضْتُ كَمَا تُبْغَضُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَتَجَلَّوْنَ لَهُ أَندَادًا ۗ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۗ سَوَاءٌ لِّلسَّالِفِينَ ۝ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ

۱۵۔ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور (بتوں کو) اسکا مد مقابل بناتے ہو وہی تو سارے جہان کا مالک ہے ۵

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا (سب) چاروں میں (اور تمام) طلب گاروں کے لئے یکساں ۵

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اس نے

اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ (خواہ) خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں ۵

پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام) کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں (یعنی ستاروں) سے مزین کیا اور (شیطانوں سے) محفوظ رکھا یہ زبردست (اور) خبردار کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں ۵

— (سورہ ہم السجدہ آیت ۱۲۹) —

۱۶۔ ہم عنقریب ان کو اطراف (عالم) میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ (قرآن) حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے ۵

— (سورہ ہم السجدہ آیت ۵۳) —

۱۷۔ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے ۵

اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو (دیکھو) ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں ۵

اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو ۵

السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۚ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

16- سَنُرِيهِنَّ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِنَّ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

17- وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا يَافَىٰ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝ وَالْأَرْضَ قَرْنَاهَا فِعْمَ الْيَهُودِ ۝ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

18- قَادًا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْثَةً وَاجِدَةً ۝ وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاجِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ ۚ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝

19- مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۚ وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ

۱۸۔ تو جب صور میں ایک (بار) پھونک ماری جائے گی ۵

اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھائے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیئے جائیں گے ۵

تو اس روز ہو پڑنے والی (یعنی قیامت) ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا ۵

— (سورہ الحاقة آیت ۱۶ تا ۱۳) —

حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح (کی حالتوں) کا پیدا کیا ہے ۵  
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے  
بنائے ہیں ۵

اور چاند کو ان میں (زمین کا) نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا  
ہے ۵

اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے ۵

پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور (اسی سے) تم کو نکال کھڑا کریگا ۵

اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا ۵

تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو ۵

--- ﴿سورۃ نوح آیت ۲۰ تا ۲۳﴾ ---

۲۰۔ جب آنکھیں چندھیا جائیں ۵

اور چاند گہنا جائے ۵

اور سورج اور چاند جمع کر دیئے جائیں ۵

اس دن انسان کہے گا کہ (اب) کہاں بھاگ جاؤں؟ ۵

پیشک کہیں پناہ نہیں ۵

اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے ۵

اس دن انسان کو جو (عمل) اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے

چھوڑے ہوئے سب بتا دیئے جائیں گے ۵

--- ﴿سورۃ القیامۃ آیت ۱۳ تا ۱۷﴾ ---

۲۱۔ جب آسمان پھٹ جائے گا ۵

اور جب تارے جھڑ پڑیں گے ۵

أَطْوَارًا ۚ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ  
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ بِرَاجًا ۚ وَاللَّهُ  
أَبْتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۚ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ  
إِخْرَاجًا ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۚ لِيَتَسَلَّكُوا  
بِهَا سَبِيلًا فَيَجَاءُ ۚ

20- فَاذْأَبْرَقَ الْبَصَرُ ۚ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۚ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْعَرُ ۚ كَلَّا لَا وَزَرَ ۚ إِلَىٰ رَبِّكَ

يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۚ يَنْتَوَىٰ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۚ

21- إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۚ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَحَرَتْ ۚ وَإِذَا

الْبِعَارُ مُجْرَتْ ۚ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۚ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا

قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۚ

22- فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ۚ

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ

اور جب دریا بہ (کرا ایک دوسرے سے مل) جائیں گے ۵

اور جب قبریں اکھیر دی جائیں گی ۵

تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے

کیا چھوڑا تھا ۵

--- ﴿سورۃ الانظار آیت ۵ تا ۱۱﴾ ---

۲۲۔ تو انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کاپسے پیدا ہوا ۵

وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے ۵

جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الطارق آیت ۸ تا ۱۲﴾ ---

نیز دیکھئے: تخلیق انسان - تخلیق کائنات - تسخیر کائنات

## قرآن کا اعجاز

۱۔ اور اگر تم اس (کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد عربی) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک کہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو ۵

لیکن اگر (ایسا) نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہونگے (اور جو) کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۳، ۲۴﴾ ---

۲۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں (ہاں یہ خدا کا کلام ہے) جو (کتابیں) اس سے پہلے) کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ (یہ رب العالمین کی طرف سے) (نازل ہوا) ہے ۵

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسکو اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہہ

۱- وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ

۲- وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِمَّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

۳- قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۚ



دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنا لاؤ اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۲۷، ۲۸﴾ ---

۳۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لائیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۸﴾ ---



## قرآن کے بارے میں شک کرنیوالوں کو چیلنج

۱۔ اور اگر تم کو اس (کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد عربی) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر (ایسا) نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدنی اور پتھر ہوں گے (اور جو) کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۳-۲۴﴾ ---

۲۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں (ہاں یہ خدا کا کلام ہے) جو (کتابیں) اس سے پہلے (کی) ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی (اس میں) تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ) یہ رب العالمین کی طرف سے (نازل ہوا) ہے ۵

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنا لاؤ اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۳۸-۳۷﴾ ---

۳۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس سورتیں بنا لاؤ اور خدا کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو ۵

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۱۳﴾ ---

۱۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ

۲۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَنَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

۳۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

۴۔ قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۚ

۵۔ أَمْ يَقُولُونَ نَقَّوْهُ ۗ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۚ

۴۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لاسکیں گے اگر چہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۸﴾ ---

۵۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ۵ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں ۵

--- ﴿سورۃ الفورا آیت ۲۳-۲۴﴾ ---

## قرآنی پیشین گوئیاں

۱۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس (دین) کو (دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں ۵

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۲۳﴾ ---

۲۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کیلئے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ (اسے جانتے) ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۴۱﴾ ---

۳۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دیگا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں ۵

--- ﴿سورۃ النور آیت ۵۵﴾ ---

۴۔ اے پیغمبر جس (خدا) نے تم پر قرآن (کے احکام) کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا کہہ دو کہ میرا پروردگار

۱۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

۲۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنبُوهُنَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

۳۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

۴۔ إِنَّ الَّذِي قَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادَكَ إِلَيْهِ مَعًا ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

۵۔ الْمَرْءُ غَلِيظُ الرُّومِ ۚ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيِّغِلُونَ ۚ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يُفَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ يُنصِرُ اللَّهُ ۚ يُنصِرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ وَعَدَّ اللَّهُ

صريح گمراہی میں ہے ۵

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۸۵﴾ ---

۵۔ الم (اہل) روم مغلوب ہو گئے ۵

نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب

غالب آ جائیں گے ۵

چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدایٰ کا حکم ہے اور اس روز

مومن خوش ہو جائیں گے ۵

(یعنی) خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب

(ان کو اللہ سے نصرت دے گا)

خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۶۵﴾ ---

۶۔ بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا (اور) صحیح خواب دکھایا۔ کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتر وا کر امن و امان سے داخل ہو گے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فح کرادی ۵

--- ﴿سورة الفتح آیت ۲۷﴾ ---

۷۔ (اے اہل عرب) کیا تمہارے کافران لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لئے (پہلی) کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھدی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے ۵

--- ﴿سورة القمرا آیت ۳۳﴾ ---

لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۵  
 6- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّجْدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ لِلَّذِينَ أَحْلَقْنَا رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۵  
 7- أَلْقَارِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الرُّبُوبِ أَمْ يَقُولُونَ سِحْرٌ جَمِيمٌ تَلْتَصِرُ ۵ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۵

## قرآنی دعائیں

۱۔ (اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ۰  
اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ۰  
ہم کو سیدھے راستے چلا ۰

ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا ۰  
نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے ۰

— ﴿سورۃ الفاتحہ آیت ۲۳﴾ —

۲۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنانے رکھو اور ہماری اولاد میں  
سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہو اور (پروردگار) ہمیں  
ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر (رحم کیساتھ) توجہ  
فرما۔ بیشک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے ۰

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۲۸﴾ —

۳۔ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہوگی ہو تو ہم سے  
مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جیسا تو نے ہم  
سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم  
میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھو۔ اور (اے پروردگار)  
ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما

تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب کر ۰

— ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۸۶﴾ —

۱۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۙ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ  
الْمُسْتَقِيمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ  
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۙ

۲۔ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ  
وَارِنَا مَتَابِعَنَا وَكُنْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۙ

۳۔ رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا  
تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا  
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۙ وَاَعْفُ عَنَّا  
وَاعْفِرْ لَنَا ۙ وَارْحَمْنَا ۙ اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰى  
الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۙ

۴۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ  
لَدُنْكَ رَحْمَةً ۙ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۙ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ  
النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ ۙ

۵۔ اَللّٰهُمَّ مَلِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ  
مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّقُ مَنْ تَشَاءُ ۙ بِبِيَدِكَ

۳۔ اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے  
بعد ہمارے دلوں میں کبھی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے  
نعمت عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ۰

اے پروردگار تو اس روز جس (کے آنے) میں کچھ بھی شک نہیں  
سب لوگوں کو (اپنے حضور میں) جمع کر لے گا بیشک خدا خلاف  
وعدہ نہیں کرتا ۰

— ﴿سورۃ آل عمران آیت ۹۸﴾ —

۵۔ اے خدا (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی  
بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جسکو چاہے عزت

دے اور جسے چاہے ذلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے ۵

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بیشمار رزق بخشتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۲۷﴾ ---

۶۔ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۳۷﴾ ---

۷۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے۔ تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائو ۵  
اے پروردگار جسکو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ۵

اے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لئے پکار رہا تھا (یعنی) اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے

۶۔ اَلْغَيْبُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوَلِّجُ النُّجُوْمَ فِي السَّمٰوٰتِ  
وَتُوَلِّجُ النَّجْمَ فِي الْاَلْبٰلِ ۝ وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ  
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۝ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝  
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاَسْرَافَنَا فِيْ اٰمِرِنَا وَتَبَّتْ اَقْدَامُنَا  
وَاصْرَفْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

۷۔ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اَللّٰهَ قِيَمًا وَّقَعُوْدًا ۝ وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ  
يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ  
هٰذَا بَاطِلًا ۝ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ  
تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ اٰخَرْتَهُ ۝ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝  
رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا  
بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۝ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا  
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَاِنَّا مَا وَعَدْتَنَا  
عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  
الْبِعْعَادَ ۝

۸۔ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَبِمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۝ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ

آئے۔ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا ۵  
اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کئے ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کچھ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۹۱﴾ ---

۸۔ اے پروردگار مجھ کو (ایسی توفیق عنایت) کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی (یہ توفیق بخش) اے پروردگار میری دعا

قبول فرما ۵

اے پروردگار حساب (کتاب) کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجیو ۵

--- ﴿سورۃ ابراہیم آیت ۴۰﴾ ---

۹۔ اے پروردگار مجھے (مدینے میں) اچھی طرح داخل کیجیو اور (مکے سے) اچھی طرح نکالیو۔ اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۰﴾ ---

۱۰۔ میرے پروردگار (اس کام کے لئے) میرا سینہ کھول دے ۵  
اور میرا کام آسان کر دے ۵  
اور میری زبان کی گرہ کھول دے ۵  
تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں ۵

اور میرے گھر والوں میں سے (ایک کو) میرا وزیر (یعنی مددگار) مقرر فرما ۵

--- ﴿سورۃ طآ آیت ۲۵﴾ ---

۱۱۔ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے ۵

--- ﴿سورۃ طآ آیت ۱۱۴﴾ ---

۱۲۔ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار یو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ المؤمنون آیت ۲۹﴾ ---

۱۳۔ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں ۵

اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے

دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۵

۹۔ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقِيْ وَاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقِيْ وَاَجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۵

۱۰۔ رَبِّ اَسْرِخْ لِيْ صَدْرِيْ ۵ وَبَسِّطْ لِيْ اَمْرِيْ ۵ وَاخْلُقْ لِيْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۵ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ ۵ وَاَجْعَلْ لِيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۵

۱۱۔ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۵

۱۲۔ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۵

۱۳۔ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ۵ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِيْ ۵

۱۴۔ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ۵

۱۵۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۵ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۵

۱۶۔ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ وَلِيْمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا

پاس آ موجود ہوں ۵

--- ﴿سورۃ المؤمنون آیت ۹۸﴾ ---

۱۳۔ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور (مجھ پر) رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ المؤمنون آیت ۱۱۸﴾ ---

۱۵۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الممتحنہ آیت ۵﴾ ---

۱۶۔ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان

لاکرمیرے گھر میں آئے اسکو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کیلئے اور زیادہ تباہی

بڑھا

--- ﴿سورة نوح آیت ۲۸﴾ ---

۷-۱۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ۵

ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ۵

اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے ۵

اور گنڈوں پر (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے والیوں کی برائی سے ۵

اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے ۵

--- ﴿سورة الطلق آیت ۵۲﴾ ---

۱۸-۱۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ۵

(یعنی) لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی ۵

لوگوں کے معبود برحق کی ۵

(شیطان) وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر (چمچے ہٹ

جاتا ہے ۵

۱۷- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقَلِ ۝ مِنْ هَمِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

۱۸- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْإِثْمِ وَالنَّاسِ ۝



جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ۵

(خواہ وہ) جنات سے (ہو) یا انسانوں میں سے ۵

--- ﴿سورة الناس آیت ۶﴾ ---



مزید حوالے: البقرہ: ۱۲۹-۲۵۰-۲۸۵-آل عمران: ۱۹-۳۹-۵۳-۱۷۳-الاعراف: ۲۳-۳۵-۸۹-۱۲۶-۱۵۱-۱۵۵-۱۵۶-یونس: ۸۵-۸۶-۸۸-

ہود: ۴۷-یوسف: ۱۰۱-ابراہیم: ۳۸-بنی اسرائیل: ۲۳-الکہف: ۱۰-مریم: ۴۶-الانبياء: ۸۳-۸۷-۸۹-المونون: ۹۳-۳۹-۱۱۸-

الفرقان: ۷۳-الشعراء: ۸۳-۸۹-النمل: ۱۹-القصص: ۱۶-۲۱-۲۳-المومن: ۷-۸-الاحقاف: ۱۵-الحشر: ۱۰-الممتحنہ: ۳-التحریم: ۸-۱۱-

## قربانی

۱۔ اور خدا (کی خوشنودی) کے لئے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر (رستے میں) روک لئے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو (کردو) اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو۔ تو اگر وہ سر منڈالے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب (تکلیف دور ہو کر) تم مطمئن ہو جاؤ تو جو (تم میں) حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جسکو (قربانی) نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اس شخص کیلئے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں اور خدا سے ڈرتے ہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۹۶﴾ ---

۲۔ مومنو! خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی (جو خدا کی نذر کر دیئے گئے ہوں اور) جن کے گلوں میں پٹے

۱- وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۝

۳- وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِئْتُمْ جُنُوبَهَا فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ

بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر (بیت اللہ) کو جارہے ہوں (اور) اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۲﴾ ---

۳۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائر خدا مقرر کیا ہے ان میں تمہارے لئے فائدے ہیں تو (قربانی کرنے کے وقت) قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں



اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو

خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور (اے پیغمبر) نیکو کاروں کو خوشخبری سنا دو

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۳۶، ۳۷﴾ ---

۴۔ تو اپنے پروردگار کے لئے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو

--- ﴿سورۃ الکوتر آیت ۲﴾ ---

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ نَبَالَ اللَّهُ لَحْمَهَا  
وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ نَبَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ۝ كَذَلِكَ  
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ ۝ وَبَشِّرِ  
الْمُحْسِنِينَ ۝

4- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنصِرْهُ



1- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ  
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ ۝

2- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا  
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

## قرض

۱۔ کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اسکو کئی  
حصے زیادہ دے گا اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہ ہی اسے  
کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے

۲۔ مومنو! جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لئے قرض کا معاملہ  
کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ  
کرے بلکہ انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا  
ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے اور جو شخص  
قرض لے وہی (دستاویز کا) مضمون بول کر لکھوائے اور خدا سے

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۴۵﴾ ---

کہ اس کا مالک ہی خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے معاملے کے) گواہ کر لیا کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں) کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ اور جب گواہ (گواہی کے لئے) طلب کئے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس (کی دستاویز) کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لئے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر (ایسے معاملے کی) دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا) کسی طرح کا نقصان نہ کریں اگر تم (لوگ) ایسا کرو تو یہ تمہارے لئے گناہ کی بات ہے اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو

يَجْس مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ هُوَ فليُجْلِلْ وَلِيَّهُ  
بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدْ وَاشْهَدْ نِينَ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ  
لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ  
وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوا  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ ۖ وَأَدْلَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ  
وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ  
وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا  
كَاتِبًا فَرِهْنِ مَشْبُوهَةً ۖ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ اءَامَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُبُوا الشَّهَادَةَ ۖ  
وَمَنْ يَكْتُبْهَا فَإِنَّهُ أَمْرٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ

(کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵  
اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز) لکھنے والا نہ مل سکے تو (کوئی چیز)  
رہن یا قبضہ رکھ کر (قرض لے لو) اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی  
رہن کے بغیر قرض دیدے) تو امانت دار کو چاہئے کہ صاحب امانت  
کی امانت ادا کر دے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے۔  
اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا  
گنہگار ہوگا۔ اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

— ﴿سورة البقرة آیت ۲۸۲ تا ۲۸۳﴾ —

۳۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ۔ بشرطیکہ میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو اسکے ذمے ہو عمل میں آئے گی) تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور خدا سب کچھ جاننے والا (اور) حکمت

والا ہے۔

﴿سورة النساء آیت ۱﴾

۳۔ صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مظلوم اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں قرضداروں کے قرض

نیز دیکھئے برہم

۳۔ يُوَصِّيْكُمْ اللهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰىيْنَ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۗءً فَوْقَ اٰنثٰىيْنَ فَلَهُنَّ نِسَاۗءُ مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاٰحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُوْرِيْهِ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهَا وَكَذٰلِكَ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَكَذٰلِكَ وَاٰوْرَثَةُ اٰبُوْهِ فَلِاٰوِيْهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهَا اِخْوَةٌ فَلِاٰوِيْهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوْصِيْ بِهَا اَوْ دِيْنٍ ۚ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمۡ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝۴  
۴۔ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۗءِ وَالمَسْكِيْنِ وَالعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالمَوْلٰتِ فَاُوْرَثُوْهُنَّ مِمَّا تَرَكَنَّ وَاَلْغَرَمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۵  
۵۔ اِنْ تَقْرَضُوْا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَكِيْمٌ ۝



ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہئے یہ حقوق (خدا کی طرف سے مقرر کر دیئے

گئے ہیں اور خدا جاننے والا (اور حکمت والا ہے) ۝

﴿سورة التوبه آیت ۶۰﴾

۵۔ اگر تم خدا کو (اخلاص اور نیت) نیک (سے) قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا قدر شناس اور وہ ہر دہ بار ہے ۝

﴿سورة العنابن آیت ۱۷﴾

## قسم اٹھانا

۱۔ اور خدا (کے نام) کو اس بات کا حیلہ نہ بنانا کہ (اس کی) قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور خدا سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے ۵

خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا اور خدا بخشنے والا بردبار ہے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۲۳-۲۲۵﴾ ---

۲۔ خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر (جن کے خلاف کرو گے) مواخذہ کریگا تو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو (اور اسے توڑ دو) اور (تم کو) چاہئے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے (سمجھانے کے) لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۸۹﴾ ---

۳۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے

۱- وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلُّوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

۲- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكْفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۳- وَإِنْ نَكَثْتُمْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنَا فِيكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانَ الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَدُّوا بِأَخْرَاجِ الرُّسُولِ ۚ وَهُمْ يَدْعُوكُمْ أَوْلَىٰ مَقَرَّةٍ اتَّخَذْتُمُوهُمْ فَالَّذِينَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

دین میں طعن کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو (یہ بے ایمان لوگ ہیں اور) ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ (اپنی حرکات سے باز آ جائیں) ۵

بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر (خدا) کے جلاوطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے (عہد شکنی کی) ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطیکہ ایمان رکھتے ہو ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۲-۱۳﴾ ---

۴۔ اور جب خدا سے عہد (واثق) کرو تو اس کو پورا کرو اور جب  
پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے  
ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے ۵

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کا تا۔  
پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں  
اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ  
غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزما تا ہے اور  
جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر  
ظاہر کر دے گا۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم (سب) کو ایک ہی جماعت  
بنادیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے  
ہدایت دیتا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو (اس دن) ان کے بارے  
میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا ۵

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ (لوگوں  
کے) قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں اور اس وجہ سے کہ تم نے  
لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزا چکھنا پڑے اور  
بڑا سخت عذاب ملے ۵  
۵۔ خدا نے تم لوگوں کیلئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور

4- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ  
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
مَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَّضُوا عَهْدَهُمْ مِنْ  
بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَارًا تَتَخَذُونَ آيَاتِكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ  
أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْهَتُكُمْ اللَّهُ  
بِهِ وَلِيَتَّبِعَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝  
وَكُلُوا شَاءَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ  
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝ وَلَتَسْتَلْنَ عَنَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝  
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرَوْا قَدَمَ بَعْدَ  
نُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

5- قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ آيَاتِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ  
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

6- وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۝

خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ التحریم آیت ۲﴾ ---

۶۔ کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا

ذلیل اوقات ہے ۵

--- ﴿سورۃ القلم آیت ۱﴾ ---

## قصاص

۱۔ مومنو! تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص (یعنی خون کے بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے (اس طرح پر کہ) آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اور اگر قاتل کو اس کے (مقتول) بھائی (کے قصاص میں) سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے (قرار داد کی) پیروی (یعنی مطالبہ خون بہا) کرنا اور (قاتل کو) خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہئے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لئے دکھ کا عذاب ہے ۵

اور اے اہل عقل (حکم) قصاص میں (تمہاری) زندگانی ہے کہ تم (قتل و خونریزی سے) بچو ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۷۸﴾ ---

۲۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۹۳﴾ ---

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَكُلُّمُ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۲۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

۳۔ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

۳۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لئے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۳۵﴾ ---

## قلب

۱۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کیلئے برابر ہے۔

وہ ایمان نہیں لائیں گے ۵

خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی

آنکھوں پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب (تیار)

ہے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۷۶﴾

۲۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر

جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں

تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ

رکھتے ہیں ۵

﴿سورۃ الانفال آیت ۲﴾

۳۔ اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حامل

ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کئے جاؤ گے ۵

﴿سورۃ الانفال آیت ۲۳﴾

۴۔ اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں ۵

﴿سورۃ الرعد آیت ۲۸﴾

۵۔ اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ

نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل (اور ان

۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذَنَّا عَلَيْهِمْ ءَاذَنَّا اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ

وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

۲۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا

تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

۳۔ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاِنَّهٗ اِلَيْهِ

يُخْشَرُوْنَ ۝

۴۔ اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِيْنُ الْقُلُوْبِ ۝

۵۔ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُوْنَ ۝

۶۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عِنْدَهٗ مُسْتَوٰٓءًا ۝

۷۔ اَفَلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ

بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ ۗ بِهَا فَاَنهٰٓءُ لَا تَعْمٰى الْاَبْصَارُ

کے علاوہ اور اعضاء) بخشنے تاکہ تم شکر کرو ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۷۸﴾

۶۔ اور (اے بندے) جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ

کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب (جوارج) سے ضرور باز پرس

ہوگی ۵

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۶﴾

۷۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل

(ایسے) ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان (ایسے) ہوتے کہ ان

سے سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو

سینوں میں ہیں (وہ) اندھے ہوتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۴۶﴾ ---

۸۔ خدانے کسی آدمی کے پہلو میں دودل نہیں بنائے۔ اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا سہ دکھاتا ہے ۵

مومنو! لے پالکوں کو ان کے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہوگئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصہ دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے (اور خدا بخشنے والا مہربان ہے) ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۴﴾ ---

وَلَكِنْ نَعَمَى الْقُلُوبُ الْبَاطِنُ فِي الصُّدُورِ

۸۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ

أَزْوَاجَكُمْ لِيَنظُرُوْنَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُوْلُ

الْحَقَّ ۗ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۗ اُدْعُوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۗ هُوَ اَقْسَطُ

عِنْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلٰكِنْ

مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۗ

۹۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ



۹۔ اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا

ہے اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے ۵

--- ﴿سورة التفاضل آیت ۱۱﴾ ---





## قلم

۱۔ ن۔ قلم کی اور جو (اہل قلم) کہتے ہیں اس کی قسم ۰

کہ (اے محمد) تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو ۰  
اور تمہارے لئے بے اعتنا اجر ہے ۰

اور تمہارے اخلاق بڑے (عالی) ہیں ۰

--- ﴿سورۃ القلم آیت ۲ تا ۴﴾ ---

۲۔ (اے محمد) اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے (عالم کو) پیدا کیا ۰

جس نے انسان کو خون کی پھینکی سے بنایا ۰

پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے ۰

جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ۰

اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا ۰

--- ﴿سورۃ العلق آیت ۱ تا ۵﴾ ---

## قوموں کا ذکر

۱۔ اے یعقوب کی اولاد! میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر

کئے تھے اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخش

تھی ۰

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷﴾ ---

۱۔ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۚ مَا أَنْتَ بِبِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۚ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ

۲۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ



۱۔ يَبْقَىٰ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ

۲۔ أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ النَّجْدِ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ

إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۚ

۳۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمِ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ ۚ

۴۔ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلَاؤُنَا

وَاتَيْنَا نُمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً ۚ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ

۲۔ بھلایا مجھے ہیں یا شیخ کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے

ہیں ہم نے ان (سب) کو ہلاک کر دیا بیشک وہ گنہگار تھے ۰

--- ﴿سورۃ الدخان آیت ۳۷﴾ ---

۳۔ اور بن کے رہنے والے اور شیخ کی قوم۔ (غرض) ان سب

نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی ۰

--- ﴿سورۃ ق آیت ۱۳﴾ ---

۴۔ اور ہم نے نشانیاں بھیجی اس لئے موقوف کر دیں کہ اگلے

لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی اور ہم نے شمود کو ادنیٰ (نبوت

صالح کی کھلی) نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو  
نشانیوں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۹﴾ ---

۵۔ یہ (وہی) عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا  
اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانتا تو  
اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی  
لگی رہے گی) دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو  
ہوؤ کی قوم عاد پر پھنکار ہے ۵

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۶۰﴾ ---

۶۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب ۵

(یعنی) ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر نیلے سبب ۵  
(لوگوں کو) چاہئے کہ (اس نعمت کے شکر میں) اس گھر کے مالک  
کی عبادت کریں ۵

جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا ۵

--- ﴿سورۃ القریش آیت ۳۱﴾ ---

۷۔ یہاں تک کہ یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں اور وہ  
ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں ۵

بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوْفًا ۵

۵- وَبِكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا  
أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۵ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً  
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۵ الْآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۵ أَلَا بَعْدَ الْعَادِ  
قَوْمٌ هُودٌ ۵

۶- لَا يَلْفُ قَرْنَيْنٌ ۵ الْفَهْمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۵  
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۵ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ  
جُوعٍ ۵ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۵

۷- حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا جُوجُورٌ وَمَأْجُوجُورٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ  
يَنْسِلُونَ ۵ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ  
أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۵ يَوْنِلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ  
هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۵



اور (قیامت کا) سچا وعدہ قریب آجائے تو ناگاہ کافروں کی  
آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں (اور کہنے لگیں کہ) ہائے شامت ہم  
اس (حال) سے غفلت میں رہے بلکہ ہم (اپنے حق میں) ظالم  
تھے ۵

--- ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۹۶﴾ ---



مزید حوالے: البقرہ: ۳۰-۸۳-۱۲۲-۲۱۱-۲۳۶-آل عمران: ۳۹-۹۳-المائدہ: ۱۳-۳۵-۴۳-۴۵-۸۱-۱۱۳-الاعراف: ۱۰۳-۱۳۳-۱۳۶-۱۴۷-

بنی اسرائیل: ۳-۱۰۱-۱۰۳-مریم: ۵۸-طہ: ۳۸-۸۰-۹۳-الشعراء: ۱۷-۲۲-الجمہ: ۲۳-المومن: ۵۳-الزخرف: ۵۹-الدخان: ۳۱-

بقیہ مزید حوالے دیکھئے صفحہ نمبر ۲۲۶

الجاثیہ: ۵-الاحقاف: ۱۰-الف: ۶-۱۳

## قوموں کا عروج و زوال

۱۔ یہ اس لئے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا سے نہیں بدلا کرتا اور اس لئے کہ خدا استثنا جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۵۳﴾ ---

۲۔ خدا اس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی۔ اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۱۱﴾ ---

۳۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی (فراموشی) معیشت میں) اتر رہے تھے۔ سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے ۵

--- ﴿سورة القصص آیت ۵۸﴾ ---

۴۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی (سیر کرتے) تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جو تاتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا اور ان کے پاس ان

۱۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ  
۲۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءَ اَفْكَالٍ مَّرَدًا ۙ وَاَلْهَمُّ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَاٰلٍ ۙ

۳۔ وَاَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَرُوْا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَاَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۗ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اَسَءُوْا السُّوْاى اَنْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۗ  
۵۔ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

کے پیغمبر نشانیاں لیکر آتے رہے تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ۵

پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لئے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے ۵

--- ﴿سورة الروم آیت ۱۰۹﴾ ---

۵۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ (حالانکہ) وہ ان سے کہیں

قوموں کا ذکر بقیہ: مزید حوالے: شمول: الاعراف-۷۲- التوبہ-۱۱- ہود-۶۰-۶۸-۹۶- ابراہیم-۱۸-۱۹- الحج-۲۲- الفرقان-۳۸- الشعراء-۱۳۱- النحل-۳۵-

العنکبوت-۳۸- ص-۱۳۱- المؤمن-۳۱- تم السجدة-۱۳-۱۷- قی-۱۲- الزاریات-۳۳- النجم-۵۱- القمر-۲۳- الحاقة-۳-۵- النجر-۹-

عاد: الاعراف-۶۳-۶۴- التوبہ-۷۱- ہود-۵۰-۶۰- ابراہیم-۶۰- الحج-۲۲- الشعراء-۱۲۳- العنکبوت-۳۸- ص-۱۲- المؤمن-۲۱- تم السجدة-۱۳-۱۵-

الاحقاف-۲۱- قی-۱۳- الزاریات-۳۱- النجم-۵۰- القمر-۱۸- الحاقة-۳-۶- النجر-۶- قریش: القمر-۳۳-۳۶- یاجوج ماجوج: الکہف-۹۸-۹۳-

زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات (بنانے) کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا ۵

﴿سورة المؤمن آیت ۸۲﴾

## کافروں کی پیروی

۱۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں (دوزخ کی آگ آ لپٹے گی اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو (کہیں سے) مدد مل سکے گی ۵

﴿سورة هود آیت ۱۳﴾

۲۔ تو تم کافروں کا کہنا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شدید مد سے لڑو ۵

﴿سورة الفرقان آیت ۵۲﴾

۳۔ اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے (نازل ہوئی) تو تم ہرگز کافروں

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ  
قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْلَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ۝

۱- وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم  
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝  
۲- فَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝  
۳- وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُونَ أَنْ يُنْفِقَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ  
رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ۝ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ  
أَلْيَتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا  
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

کے مددگار نہ ہونا ۵

اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں (کی تبلیغ) سے بعد اسکے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جو ۵

﴿سورة القصص آیت ۸۷﴾

۴۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کا راسخ کافی ہے ۵

— ﴿سورة الاحزاب آیت ۴۸﴾ —

۵۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر (قائم) کر دیا تو اسی (رستے) پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا ۵

یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے ۵

— ﴿سورة الباقیہ آیت ۱۹۶۸﴾ —

۶۔ تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کئے رہو۔ اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہنا نہ مانو ۵

— ﴿سورة الاحزاب آیت ۲۴﴾ —

## کافروں کی سرکشی

۱۔ (اے محمد) اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک (لکھی ہوئی) کتاب آسمان سے اتار لاؤ تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں (ان سے) کہتے تھے ہمیں خدا کو ظاہر (یعنی آنکھوں سے) دکھا دو سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا۔ پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے پھڑے کو (معبود) بنا بیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح

غلبہ دیا ۵

۴۔ وَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَذَعُرْ اٰذِهٖمْ وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۵

۵۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاٰمِرِ فَاَتْبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاٰءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كٰفُوْرًا ۶



۱۔ يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اٰرٰنَا اللّٰهَ جِهْرًا فَاَخَذْتَهُمُ الصَّوَاقِفَ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۝ وَاَتَيْنَا مُوسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۲

۲۔ وَاِذَا نُنزِلُ عَلَيْهِمُ الْاٰيٰتِنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْۢ بَعْدِكَ فَاصْبِرْ عَلَيْنَا جٰاْرَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوْ اِثْنًا بَعْدَآبِ

۲۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں (یہ کلام) ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا (کلام) ہم بھی کہہ دیں۔ اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں ۵

اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج ۵

اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔

اور (اب) ان کیلئے کوئی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد محترم (میں نماز پڑھنے) سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے ۵

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب (کا مزہ) چکھو ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲۵ تا ۳۱﴾ ---

۳۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ سو (اے محمد) تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کیلئے رہنما ہوا کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۷﴾ ---

۴۔ اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ (عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو) ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو ۵

یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیج میں نہریں بہا نکالو ۵

یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو (ہمارے) سامنے لے آؤ ۵

الْيَوْمَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمَتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۵

۳۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۵

۴۔ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ كَمَا نَزَّلْنَا سَفَاً أَوْ تَأْتِي بَالَهُ وَالْمَلِكَةَ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُرْحٍ أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى نُنزِّلَ عَلَيْنَا مِثْلَ بُرُوجٍ أَوْ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مِثْلَ بُرُوجٍ أَوْ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مِثْلَ بُرُوجٍ أَوْ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مِثْلَ بُرُوجٍ ۵

یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں ۵

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے ۵

کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے (کہ اس میں) چلتے پھرتے

(اور آرام کرتے (یعنی بستے) تو ہم ان کے پاس فرشتے کو بھیجے  
بنا کر بھیجے ۵

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے وہی  
اپنے بندوں سے خبردار (اور ان کو) دیکھنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۹۰ تا ۹۶﴾ ---

۵۔ انسان (کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا) جلد بازی ہی سے بنایا  
گیا ہے میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی  
نہ کرو ۵

اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو (جس عذاب کی) یہ وعید (ہے وہ)  
کب (آئے گا) ۵

اے کاش کافر اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے منہوں پر سے  
(دوزخ کی) آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیشوں پر سے  
اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا ۵

بلکہ قیامت ان پر ناگہاں واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی  
پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ۵

--- ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۲۳ تا ۲۰﴾ ---

۶۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے  
تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک

بَشَرًا رَسُولًا ۝ وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ  
الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ  
فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ  
السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ  
بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

5- خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا  
تَسْتَعْجِلُونِ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ  
عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝  
بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا  
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

6- وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَاكُلُونَ  
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ  
لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝  
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِكَةُ

دوسرے کیلئے آزمائش بنایا کیا تم صبر کرو گے اور تمہارا پروردگار تو  
دیکھنے والا ہے ۵

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے  
کیوں نہ نازل کئے گئے۔ یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں  
یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بناء پر (بڑے سرکش  
ہور ہے ہیں) ۵

جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کے لئے کوئی  
خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے (خدا کرے تم) روک لے

(اور بند کر دیئے) جاؤ ۵

اور جو انہوں نے عمل کئے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے  
تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۲۳ تا ۲۰﴾ ---

۷۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ۵

کہہ دو کہ جس (عذاب) کے لئے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس  
میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو ۵

--- ﴿سورة النمل آیت ۷۱ تا ۷۲﴾ ---

۸۔ اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی

پیروی کرو ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں

کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے

ہیں ۵

اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور

(لوگوں کے) بوجھ بھی اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے

دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی ۵

--- ﴿سورة العنکبوت آیت ۱۳ تا ۱۲﴾ ---

أَوْ تَرَىٰ رَبَّنَا ۚ لَقَدْ اسْتَلْبِرُوا فِيٰ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا  
كَبِيرًا ۚ يَوْمَ يُدَوِّنُ الْمَلٰٓئِكَةُ لِأَبْشٰرِ يَوْمِئِذٍ لِلْعٰجِمِينَ  
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّتَّجِرًا ۚ وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنۢ عَمَلٍ  
فَجَعَلْنَاهُ حَبَآءً مَّنشُورًا ۚ

7- وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ ۙ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۚ قُلْ

عَسٰى أَن يَكُوْنَ رَوْفٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۚ

8- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيْلَنَا

وَلْنَحْمِلَ خَطِيْئَكُمْ ۗ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطِيْئِهِمْ

مِّنۢ شَيْءٍ ؕ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۚ وَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ

وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۚ وَيَسْتَلْذِنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا

يَفْتَرُونَ ۚ

9- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ

الْعَذَابُ ۗ وَلِيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَإِن جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَٰفِرِيْنَ ۚ

يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنۢ فَوْقِهِمْ وَمِنۢ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

۹۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں اگر ایک

وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ (کسی

وقت میں) ان پر ضرور نازل گاہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ

ہوگا ۵

یہ تم سے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو

گھیر لینے والی ہے ۵

جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے



گا اور (خدا) فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے (اب) ان کا

مزرہ چکھو ۵

--- ﴿سورة العنكبوت آیت ۵۵۲۵۳﴾ ---

۱۰۔ اور جب ان کے پاس حق (یعنی قرآن) آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے ۵

اور (یہ بھی) کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں (یعنی مکہ اور طائف) میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ ۵

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر

درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے ۵

--- ﴿سورة الزخرف آیت ۲۲۲۳﴾ ---

## کامیاب لوگ

۱۔ مومنو! رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی

عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۷۷﴾ ---

۲۔ بیشک ایمان والے رستگار ہو گئے ۵

جو نماز میں مجر و نیاز کرتے ہیں ۵

وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۵

۱۰۔ وَكَمَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۵ وَقَالُوا

لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۵ أَهُمُ

يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ۵ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۵ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ ۵



۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۵

۲۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۵ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۵

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۵ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ

فَاعِلُونَ ۵ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَقْرَبِهِمْ حَقِّقُونَ ۵ إِلَّا عَلَى

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۵

فَمَنِ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۵ وَالَّذِينَ

اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں ۵

اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ۵

اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ۵

مگر اپنی بیویوں سے یا (کنیزوں سے) جو ان کی ملک ہوتی ہیں ۵

کہ (ان سے مباشرت کرنے سے) انہیں ملامت نہیں ۵

اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ (خدا کی مقرر کی

ہوئی) حد سے نکل جانے والے ہیں ۵

هُم لَافِيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعْوَانٌ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ  
صَلَاتِهِمْ حَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرْتُوْنَ  
الْعُرْدُوْسَ ۝ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

۳- يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝  
يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۝ وَمَنْ يُطِيعِ  
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

۴- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ  
فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝



اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں ۝

اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ۝

یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں ۝

(یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے۔ اور) اس میں

ہمیشہ رہیں گے ۝

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۱۱ تا ۱۱﴾ ---

۳- مومنو! خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو ۝

وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش

دے گا اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو

بے شک بڑی مراد پائے گا ۝

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۷۰ تا ۷۰﴾ ---

۴- پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو

اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تا کہ نجات پاؤ ۝

--- ﴿سورة الجمعة آیت ۱۰﴾ ---



مزید حوالے: البقرہ: ۵-۲۲-۱۸۹-آل عمران: ۱۸۵-النساء: ۱۳-المائدہ: ۱۰۱-۱۱۹-الانعام: ۱۲-۱۳۵-التوبہ: ۲۱-۲۲-۷۲-۸۸-۸۹-۱۰۰-۱۱۲-

الصافات: ۶۰-الجماعہ: ۳۰-الفتح: ۵-القصف: ۱۳-التغابن: ۹-۱-۲- نیز دیکھئے: مومن اور متقی کی صفات

## کائنات

۱۔ پیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کیلئے رواں ہیں اور مینہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں غفلتوں کیلئے (خدا کی قدرت کی) نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۳﴾ ---

۲۔ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا (حیوان) یا دوپروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوئی کتابی کی نہیں پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کئے جائیں گے ۵

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۳۸﴾ ---

۳۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش (تخت شاہی) پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے کوئی (اس کے پاس) اس کا اذن حاصل کئے بغیر

۱- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَاقِ اللَّيْلِيِّ تَجْرِي فِي السَّعْيِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۵  
۲- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلَكُمُ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۵

۳- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَمِنْ بَعْدَ إِذْنِهِ ۵ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۵ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۵

۴- هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۵ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۵ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۵ إِنَّ فِي

(کسی کی) سفارش نہیں کر سکتا یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی

عبادت کرو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۳﴾ ---

۳۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند

کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (کاموں کا) حساب

معلوم کرو یہ (سب کچھ) خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے

والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ۵

رات اور دن کے (ایک) دوسرے کے پیچھے) آنے جانے میں

اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں (سب میں) ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ۵

﴿سورۃ یونس آیت ۶۵﴾

۵۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے (کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بردبار (اور) غفار ہے ۵

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۴۳﴾

۶۔ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو) اس کا مد مقابل بناتے ہو وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے ۵

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا (سب) چار دن میں اور تمام (طلبگاروں کے لئے) یکساں ۵

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ (خواہ) خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں ۵

اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۵

۵- تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ وَإِنْ  
فِي شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۵

۶- قُلْ أَبَتُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي  
يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ  
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا  
أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَلِينُ ۗ ثُمَّ اسْتَوَى  
إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا  
طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۗ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۗ فَقَضَاهُنَّ  
سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۗ  
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۗ وَحِفْظًا ۗ ذَلِكَ تَقْدِيرُ  
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۵

۷- تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ

پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام) کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چرانگوں (یعنی ستاروں) سے مزین کیا اور (شیطانوں سے) محفوظ رکھا۔ یہ زبردست (اور) خبردار کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں ۵

﴿سورۃ حم السجدہ آیت ۱۳۹﴾

۷۔ وہ (خدا) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۵

اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست (اور) بخشنے والا ہے ۵  
اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے (اے دیکھنے والے) کیا تو (خدائے) رحمن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو (آسمان میں) کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ ۵  
پھر دوبارہ (سہ بارہ) نظر کر تو نظر (ہر بار) تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی ۵

اور ہم نے قریب کے آسمان کو (تاروں کے) چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لئے دہشت انگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۵

--- سورة الملك آیت ۵۲۱ ---

## کتمان حق

۱۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ ۵

--- سورة البقرہ آیت ۲۲ ---

۲۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ۵

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  
مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِطٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ  
هَلْ تَرَى مِنْ قُطُوبٍ ۖ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ  
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۖ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ  
الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا  
لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۖ



- 1- وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَلِمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ
- 2- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ
- 3- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى  
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ  
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۖ



--- سورة البقرہ آیت ۱۳۰ ---

۳۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں (کسی غرض فاسد سے) چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم نے ان لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ۵

--- سورة البقرہ آیت ۱۵۹ ---

## کراما کاتبین

۱۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے ۵

﴿سورة الانعام آیت ۶۱﴾

۲۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں (سب سنتے ہیں) اور ہمارے فرشتے ان کے پاس (ان کی) سب باتیں لکھ لیتے ہیں ۵

﴿سورة الزخرف آیت ۸۰﴾

۳۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں ۵

جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں ۵

کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اسکے پاس تیار رہتا ہے ۵

﴿سورة ق آیت ۱۸۲﴾

۴۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں ۵

۱- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۚ  
 2- أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۖ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۚ  
 3- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۚ إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَكَلِّمِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۚ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۗ  
 4- وَذَانَ عَلَيْكُمْ لَحُفَظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۗ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۚ  
 5- وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۗ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۗ النَّجْمُ الْقَائِمُ ۗ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَنَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۗ

عالی قدر (تمہاری باتوں کے) لکھنے والے ۵

جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ۵

﴿سورة الانفطار آیت ۱۲﴾

۵۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم ۵

اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے ۵

وہ تارا ہے چمکنے والا ۵

کہ کوئی تنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں ۵

﴿سورة الطارق آیت ۳﴾

## کسب و اختیار

۱۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔ ۵

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ۵

— ﴿سورۃ النساء آیت ۱۱۳﴾ —

۲۔ اے ایمان والو! اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو (دنیا میں) کئے تھے آگاہ کر دے گا اور ان کا بدلہ دے گا) ۵

— ﴿سورۃ المائدہ آیت ۱۰۵﴾ —

۳۔ خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ۵

— ﴿سورۃ یونس آیت ۴۳﴾ —

۴۔ کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا

۱۔ وَمَنْ يَلْسِبْ إِنَّمَا فَإَلَمَّا يَلْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَمَنْ يَلْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنَّمَا تَمَّ يَرُوهَ بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا تُمِينًا ۝

۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَبْصُرُكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۖ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

۳۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

۴۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

۵۔ مَن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۖ وَمَا لَنَا مَعَدِّينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

۶۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ

ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ۵

— ﴿سورۃ یونس آیت ۱۰۸﴾ —

۵۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے ۵

— ﴿سورۃ نبی اسرائیل آیت ۱۵﴾ —

۶۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا

پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ  
سیدھے رستے پر ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۴﴾ ---

۷۔ اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحبِ رحمت ہے اگر وہ ان کے  
کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے  
مگر ان کے لئے ایک وقت (مقرر کر رکھا) ہے کہ اسکے عذاب  
سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے ۵

--- ﴿سورۃ الکہف آیت ۵۸﴾ ---

۸۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے  
اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان  
(لوگوں) پر ظلم نہیں کیا جائے گا ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۶۲﴾ ---

۹۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے محنت کرتا  
ہے (اور) خدا تو سارے جہان سے بے پروا ہے ۵

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۶﴾ ---

۱۰۔ اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ  
میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ

أَهْدَى سَبِيلًا ۝

7- وَرَبِّكَ الْعَفْوَءُ ذُو الرَّحْمَةِ ۝ لَوْ يَاقَا عَدُوَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا  
لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۝ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ  
ذُنُوبِهِمْ مَوْبِلًا ۝

8- وَلَا تَكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۝ وَكَدَيْنَا كِتَابًا يَتَّبِعُ بِالْحَقِّ  
وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۝

9- وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ  
الْعَالَمِينَ ۝

10- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۝ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْمِهَا  
لَا يَحْمِلَنَّ مِنْهَا شَيْئًا ۝ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۝

11- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۝ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۝ وَمَا  
رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝



نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو ۵

--- ﴿سورۃ فاطر آیت ۱۸﴾ ---

۱۱۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لئے اور جو برے کرے گا تو ان کا

ضرر اسی کو ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ۵

--- ﴿سورۃ حم السجده آیت ۲۶﴾ ---



مزید حوالے: ہود: ۱۰۱-الرعد: ۱۱-الشوری: ۲۰-الجماعہ: ۱۵-الاحقاف: ۱۹-النجم: ۳۱-الملک: ۲۱-المدثر: ۳۸-البلد: ۱۱

الشمس: ۷-۱۰-الیل: ۱۳-۱۴



## کعبہ

۱۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور (حکم دیا کہ) جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسمعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۲۵﴾ ---

۲۔ اور جب ابراہیم اور اسمعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے (تو دعا کئے جاتے تھے کہ) اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بیشک تو سننے والا (اور) جاننے والا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۲۷﴾ ---

۳۔ پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کیلئے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں بابرکت اور جہان کیلئے موجب ہدایت ۵ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل ہو اس نے امن پالیا۔ اور لوگوں پر خدا کا حق (یعنی فرض) ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۹۶﴾ ---

۴۔ خدا نے عزت کے گھر (یعنی) کعبہ کو لوگوں کیلئے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں یہ اس لئے کہ تم جان لو کہ

نیز دیکھئے: کہ کرمہ

۱۔ وَ اذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنًا وَاَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیۡنَ ۗ وَ عٰهَدْنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّآئِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۗ

۲۔ وَ اذْ یَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِیْلُ ۗ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

۳۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِّلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًیۡ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۗ فِیْهِ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهٖمَ ۗ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ۗ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ ۝

۴۔ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِبْلًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدًیۡ وَالْقَلٰیْدَ ۗ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ اَنْ اللّٰهُ یَعْلَمَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

۵۔ وَ اذْ یَاۡنَا لَ اِبْرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكْ بِیْ شَیْئًا وَ طَهِّرْ بَيْتِیَ لِطَّآئِفِیْنَ وَالْقَابِلِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۹۷﴾ ---

۵۔ اور (ایک وقت تھا) جب ہم نے ابراہیم کے لئے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا (اور ارشاد فرمایا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیو اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں (اور) سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو صاف رکھا کرو ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۲۶﴾ ---

## کفار سے جنگ

۱۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو۔  
مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔  
اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے  
(یعنی مکے سے) وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو اور (دین سے  
گمراہ کرنے کا) فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب  
تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی  
وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو  
کافروں کی یہی سزا ہے ۵

اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے ۵  
اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فسادنا بود ہو جائے اور  
(ملک میں) خدا ہی کا دین ہو جائے اور اگر وہ (فساد سے) باز  
آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں (کرنی چاہئے) ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۹۰-۱۹۳﴾ ---

۲۔ اور (مسلمانوں) خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب

۱- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۖ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۖ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ  
وَأَخْرِجُوهُمْ مِمَّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ  
مِنَ الْقَتْلِ ۖ وَلَا تُقَاتِلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۖ  
كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ۖ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ  
الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى  
الظَّالِمِينَ ۖ

۲- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ  
۳- الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ  
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۖ  
۴- فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ  
الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْتَفِبَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ

کچھ سنتا (اور سب کچھ) جانتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ: آیت ۲۳۳﴾ ---

۳۔ جو مومن ہیں وہ تو خدا کے لئے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ  
بتوں کے لئے لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو  
(اور ڈرو مت) کیونکہ شیطان کا داؤد بودا ہوتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۷۶﴾ ---

۴۔ تو (اے محمد) تم خدا کی راہ میں لڑو تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار  
نہیں ہو۔ اور مومنوں کو بھی ترغیب دو قریب ہے کہ خدا کافروں کی

لڑائی کو بند کر دے۔ اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا ۵ کے لحاظ سے بہت سخت ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۸۴﴾ ---

۵۔ جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھ رہتے (اور لڑنے سے جی چراتے) ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے ۵

(یعنی) خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں اور خدا بڑا بخشنے والا (اور) مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۹۵﴾ ---

۶۔ اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا ۵

اور جو شخص جن کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لئے کنارے کنارے چلے (یعنی حکمتِ عملی سے دشمن کو مارے) یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو (سمجھو کہ) وہ

وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّ اَشَدُّ تَكْوِيْلًا ۝

5- لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُولَى الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِينَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۗ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۗ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

6- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْاَدْبَارَ ۗ وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَوْمَئِذٍ دُبْرَكَ الْاِلَّا مُتَحَرِّقًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَدِّثًا اِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وُجِهَ جَهَنَّمَ ۗ وَيَسَّ الْبَصِيْرُ ۝

7- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۗ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ۗ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اَنْتَهُوْا فَلَا يَنْهٰهُمُ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا

بہت ہی بری جگہ ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۱۶۱۵﴾ ---

۷۔ (اے پیغمبر) کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آجائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حرکات) کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے (وہی ان کے حق میں برتا جائے گا)

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد)

باقی رہے اور وہ سب خدا ہی کا ہو جائے اگر باز آجائیں تو

خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے ۵

اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲۰ تا ۲۸﴾ ---

۸۔ اگر تمہیں کوڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کو (اس سے) عبرت ہو ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۵۷﴾ ---

۹۔ اور جہاں تک ہو سکے (فوج کی جمعیت کے) زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے) لئے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے بیت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا ۵

اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے ۵

اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا۔

--- ﴿سورة الانفال آیت ۶۰ تا ۶۲﴾ ---

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۖ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝  
۸- فَاَمَّا تَشَقَّقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ  
يَدَّكُرُونَ ۝

۹- وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخِرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ  
لَا تَعْلَبُوْنَهُمْ ۗ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ  
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفِّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تظَلُمُوْنَ ۝ وَاِنْ  
جَاحَظُوْا لِلتَّلَاقِ فَاَجْتَمِعْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ  
الْعَلِيْمُ ۝ وَاِنْ تُرِيْدُوْا اَنْ يَّخْذَ عُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ  
اللّٰهُ ۗ

۱۰- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ اِنْ يَكُنْ  
مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِيْنَ ۗ وَاِنْ يَكُنْ  
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ ۗ اَللّٰنْ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ  
فِيْكُمْ ضَعْفًا ۗ فَاِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا

۱۰۔ اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو (دو سو کا فردوں پر غالب رہیں گے اور اگر سو (ایسے) ہوں گے تو ہزار پر غالب رہیں گے اسلئے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے ۵

اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہٹا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ (ابھی) تم میں کسی قدر کمزوری ہے پس اگر تم میں ایک سو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں

گے تو خدا کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اور خدا ثابت  
قدم رہنے والوں کا مددگار ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۶۵﴾ ---

۱۱۔ اے اہل ایمان! اپنے نزدیک کے (رہنے والے) کافروں  
سے جنگ کرو اور چاہئے کہ وہ تم میں سختی (یعنی محنت و قوت  
جنگ) معلوم کریں اور جان رکھو کہ خدا پر ہیزگاروں کے ساتھ  
ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۲۳﴾ ---

۱۲۔ جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہاں  
تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو (جو زندہ پکڑے جائیں ان  
کو) مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اسکے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا  
چاہئے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ (فریق مقابل) لڑائی کے  
بتھیار (ہاتھ سے) رکھ دے یہ (حکم یاد رکھو) اور اگر خدا چاہتا  
تو (اور طرح) ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری  
آزمائش ایک کو (دوسرے سے) لڑوا کر) کرے اور جو لوگ  
خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ الْمَوْلَانِ وَالْمَوْلَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ الْمَوْلَانِ وَالْمَوْلَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ الْمَوْلَانِ وَالْمَوْلَى  
11- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ  
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ  
12- قَادًا لِقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَصْرًا لِّلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا  
أَخْلَسْتَهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ قَائِمًا مَّتَابَعًا وَاِمَّا فِدَاءً  
حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ  
لَآتَصَّرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِّيَسْئَلُوا بِعُضْمِ بَعْضِ  
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنْ لِعَمَالِهِمْ  
13- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَالَّذِينَ  
بُنِيَانٍ مَّرْصُوعِينَ

۵

--- ﴿سورة محمد آیت ۴﴾ ---

۱۳۔ جو لوگ خدا کی راہ میں (ایسے طور پر) پرے جما کر لڑتے ہیں  
کہ گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بیشک محبوب کردگار ہیں ۵

--- ﴿سورة القف آیت ۴﴾ ---

## کفار و مشرکین

۱۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کیلئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے ۵

خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب (تیار) ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۷۶﴾ ---

۲۔ جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر (برکت) نازل ہو اور خدا تو جسکو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور بڑے فضل کا مالک ہے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۰۵﴾ ---

۳۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ۵

وہ ہمیشہ اسی (لعنت) میں (گرفتار) رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکائی کیا جائے گا اور نہ انہیں (کچھ) مہلت ملے گی ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۳﴾ ---

۴۔ اس دن (کفر کے) پیشوا اپنے پیروؤں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور (دونوں) عذاب (الہی) دیکھ لیں گے اور ان کے آپس

۱- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

۲- مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الشُّرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَزَقَكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

۳- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ خُلِدُوا فِيهَا لَا يَخَفُونَ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

۴- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرَأُ فَنَنْتَبِرَآ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۖ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ مِنَ النَّارِ ۖ

۵- زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ

کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے ۵

(یہ حال دیکھ کر) پیروی کرنے والے (حسرت سے) کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۶﴾ ---

۵۔ اور جو کافر ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی خوشنا کر دی گئی ہے

اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱۲﴾ ---

۶۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لیجاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۵۷﴾ ---

۷۔ جو لوگ کافر ہوئے (اس دن) نہ تو ان کا مال ہی خدا (کے عذاب) سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی (کچھ کام آئیگی) اور یہ لوگ آتش (جہنم) کا ایندھن ہونگے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۰﴾ ---

۸۔ اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان (کی وجہ) سے غمگین نہ ہونا یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کیلئے بڑا عذاب (تیار) ہے ۵

امَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۵

6- اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى  
النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ  
مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ۵

7- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا  
أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ ۵

8- وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ  
يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي  
الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۵ إِنَّ الَّذِينَ  
اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۵ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا  
أُنزِلَ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُنزِلُ لَهُمُ لِيُذَادُوا  
إِنَّمَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۵

جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ  
سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا ۵

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیئے جاتے ہیں  
تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے (نہیں بلکہ) ہم ان کو اس لئے  
مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں آخر کار ان کو ذلیل کرنے  
والا عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۷۶﴾ ---

۹۔ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین (کے تمام خزانے اور اس) کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب (سے رستگاری حاصل کرنے) کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درو دینے والا عذاب ہوگا ۵

(ہر چند) چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے ۵

--- ﴿سورة المائدة آیت ۳۶﴾ ---

۱۰۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لئے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۳۰﴾ ---

۱۱۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے ۵

--- ﴿سورة انفال آیت ۵۵﴾ ---

۹۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا  
ثَقِيلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يُرِيدُونَ أَنْ  
يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخارجينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ  
مُقِيمٌ ۝

۱۰۔ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَقِّمُ لَهُمْ  
أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَكْبِرَ الْجَمَلُ فِي  
سَمِّ الْجِيَاطِ ۝ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

۱۱۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا  
يُؤْمِنُونَ ۝

۱۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا  
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً  
فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۱۳۔ وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ۝ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنْآ لَعْنَى

۱۲۔ مومنو! مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے

پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو

تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بیشک خدا سب کچھ جانتا (اور)

حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۲۸﴾ ---

۱۳۔ اگر تم عجیب بات سنی جا ہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ

جب ہم (مرکر) مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟



یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہو گئے۔ اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے ۵

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار (یعنی طالب عذاب) ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب (واقع) ہو چکے ہیں اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے۔ اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے ۵

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ سو (اے محمد) تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لئے رہنما ہو کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲۵﴾ ---

۱۳۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے ۵

(اے محمد) ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھالیں اور فائدے اٹھالیں اور (طول) اہل ان کو (دنیا میں) مشغول کیے رہے عنقریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا ۵

--- ﴿سورة الحجر آیت ۳۲﴾ ---

۱۵۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ (یعنی پیغمبر) کھڑا کریں

خَلَقِي جَدِيدَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ  
الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ  
خَلَقْتُمِن قَبْلِهِمُ النَّاسَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ  
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

۱۴۔ رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ذَرَهُمْ

يَاكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ الْآمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

۱۵۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ

كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

الْعَذَابَ فَلَا يَخَفُّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۝ قَالِقَوْلِ الْيَهُودِ

الْقَوْلِ إِنَّا كُنَّا لَكَادِبُونَ ۝ وَالْقَوْلِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ

گے تو نہ تو کفار کو (بولنے کی) اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر

قبول کئے جائیں گے ۵

اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب

ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی ۵

اور جب مشرک اپنے (بنائے ہوئے) شریکوں کو دیکھیں گے تو

کہیں گے کہ پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے

سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ (ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور)

ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو ۵

اور اس دن خدا کے سامنے سرگوں ہو جائیں گے اور جو طوفان

وہ بانہا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا ۵

جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) خدا کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لئے کہ شرارت کیا کرتے تھے ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۸۸﴾ ---

۱۶۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم (مرکر بوسیدہ) ہڈیاں اور پُور پُور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ ۵  
کہہ دو کہ (خواہ تم) پتھر ہو جاؤ یا لوہا ۵

یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک (پتھر اور لوہے سے بھی) بڑی (سخت) ہو جھٹ کہیں گے کہ (بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟  
کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو (تعجب سے) تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۵۱﴾ ---

۱۷۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برا بیختہ کرتے رہتے ہیں ۵  
تو تم ان پر (عذاب کے لئے) جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے (دن) شمار کر رہے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ مریم آیت ۸۳﴾ ---

السَّلَامَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝

16- وَقَالُوا عِزًّا لَنَا عِظَامًا وَرِقَابًا وَأَنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا

جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا

يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي

فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيَنْغَضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

17- أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزَّهُمْ آرَاءًا

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا

18- وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ

مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ سَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ

حِسَابًا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

19- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ

لَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ

۱۸۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال (کی مثال ایسی ہے)

جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے۔ یہاں تک کہ

جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے

پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور خدا جلد

حساب کرنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ النور آیت ۳۹﴾ ---

۱۹۔ اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی

پیروی کرو ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے حالانکہ وہ ان کے

گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ  
جھوٹے ہیں ۵

اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور  
(لوگوں کے) بوجھ بھی اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے  
دن ان کی ان سے ضرور پرش ہوگی ۵

--- ﴿سورۃ العنکبوت آیت ۱۳۱﴾ ---

۲۰۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے نہ  
انہیں موت آئے گی کہ مرجائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے  
ہٹا کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ فاطر آیت ۳۶﴾ ---

۲۱۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سننا ہی نہ کرو اور (جب پڑھنے  
لگیں تو) شور مچا دیا کرو تا کہ تم غالب رہو ۵

سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان  
کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے مزادیں گے ۵

مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۝ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ  
وَأَثْقَالًا مَّعَهُ أَثْقَالَهُمْ ۚ وَيَسْتَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنَّا كَانُوا  
يَقْتُرُونَ ۝

20- وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا  
وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِنَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ  
كَفُوْرٍ ۝

21- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ  
وَالنَّوْءِ فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِيْنَ  
كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَا الَّذِي  
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارِ  
لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً لِّمَا كَانُوْا بِآيٰتِنَا  
يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝



یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے (یعنی) دوزخ ان کیلئے اسی میں ہمیشہ  
کا گھر ہے یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے  
تھے ۵

--- ﴿سورۃ حم السجدہ آیت ۲۸۲﴾ ---



## کفر

۱۔ اور جس شخص نے ایمان (چھوڑ کر اس) کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ۵

﴿سورة البقرة آیت ۱۰۸﴾

۲۔ اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان (کی وجہ) سے عملیں نہ ہوں۔ یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کیلئے بڑا عذاب (تیار) ہے ۵ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۷۶﴾

۳۔ مومنو! خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر (آخر الزماں) پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر ذور جا پڑا ۵

جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے

۱- وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

۲- وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ

يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۝ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ

إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ

پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۲۶﴾

۳۔ اے اہل ایمان! اگر تمہارے (ماں) باپ اور (بہن) بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں ۵

﴿سورة التوبة آیت ۲۳﴾

۵۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو (کفر پر بردستی) مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ جو (دل سے اور) دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۱۰۶﴾ ---

۶۔ اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پروا ہے اور وہ اپنے بندوں کیلئے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لئے پسند کرے گا اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے ۵

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا (اور) اس کی طرف سے دل سے رجوع کرتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کیلئے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ (لوگوں)

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵﴾

۵۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۵﴾

۶۔ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَ تُمْرَىٰ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَمَا رَجَعْتُمْ بِهِ إِلَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۗ وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ مِمَّا كَرِهَ مِنْ نِيَابِ اللَّهِ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَا قُوتَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَا قُوتَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَا قُوتَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ



کو) اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ (اے کافر نعمت) اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھالے پھر تو تو دوزخیوں میں ہوگا؟ ۵

--- ﴿سورۃ الزمر آیت ۸۷﴾ ---



## کلیچر

- ۱۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر عبث نشان تعمیر کرتے ہو ۰
- اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے ۰
- اور جب (کسی کو) پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو ۰
- تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ۰

اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو ۰

- اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی ۰
- اور باغوں اور چشموں سے ۰

مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے (سخت) دن کے عذاب کا خوف ہے ۰

--- ﴿سورۃ الشعراء آیت ۱۲۸-۱۳۵﴾ ---

- ۲۔ کیا جو چیزیں (تمہیں) یہاں (میسر) ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیئے جاؤ گے؟ ۰
- یعنی باغ اور چشمے ۰

اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں۔  
اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو ۰  
تو خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو ۰

--- ﴿سورۃ الشعراء آیت ۱۳۶-۱۵۰﴾ ---

- ۳۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی (فرانی)

نزدیکھے: زریب و زینت

- ۱۔ اَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِهَا تَعْمُونَ ۞ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۞ وَجَنَّتِ وَعْيُونُ ۞ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞
- ۲۔ اَتَّرَكُونَ فِيهَا ههِنًا أَمِينِينَ ۞ فِي جَنَّتِ وَعْيُونُ ۞ وَ زُرُوعٍ وَتَخَلَّى طَلْعَهَا هَضِيمٌ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فُرُجِينَ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞
- ۳۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ بَطَرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۞ فَنِلَكَ مَسِيْكَتَهُمْ لَمْ تُنْكَرْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقَرِيْبِ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَوْهَارِ سُوْلَىٰ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۞ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقَرِيْبِ إِلَّا وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ ۞



معیشت میں اتر رہے تھے سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے ۰

اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں ۰

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۵۸-۵۹﴾ ---

## کنجوسی

۱۔ جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں (وہ اچھا نہیں) بلکہ ان کے لئے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائیگا اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۸۰﴾ ---

۲۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو (مال) خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۷﴾ ---

۳۔ اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۲۸﴾ ---

۴۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا (یعنی بہت تنگ) کر لو (کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں) اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو (اور انجام یہ ہو) کہ ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۲۹﴾ ---

۱۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ

۲۔ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۖ

۳۔ وَأُخْرِبَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْرَ ۖ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ

۴۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ

۵۔ قُلْ لَوْ أَنهَم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَفُورًا ۖ

۶۔ وَالَّذِينَ إِذًا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ

۵۔ کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے (ان کو) بند کر رکھتے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱۰۰﴾ ---

۶۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں۔ بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۶۷﴾ ---

۷۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کیلئے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے ۵

--- ﴿سورۃ محمد آیت ۳۸﴾ ---

۸۔ سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے (احکام کو) سنو اور (اس کے) فرمانبردار رہو اور (اس کی راہ میں) خرچ کرو (یہ) تمہارے حق میں بہتر ہے اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ التائبین آیت ۱۶﴾ ---

۹۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا ۵

اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا ۵

اسے سختی میں پہنچائیں گے ۵

اور جب وہ (دوزخ کے گڑھے میں) گرے گا تو اس کا مال اسکے

کچھ بھی کام نہ آئے گا ۵

--- ﴿سورۃ البیل آیت ۱۱﴾ ---

۱۰۔ ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے ۵

جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے ۵

اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب

7- هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعُونَ لِنُفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِمَنْ هُمْ مَنِ يَعْبَدُ ۖ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ ۖ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۗ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۗ

8- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْئًا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْبٰغِيُونَ ۗ

9- وَأَمَّا مَنْ يَبْخُلْ وَاسْتَعْلَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ۖ فَسَنِيَرُهُ لِّلْعٰسَىٰ ۗ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۗ

10- وَيَلِكُ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لُّزُومٌ ۗ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۗ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۗ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۗ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۗ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ ۗ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۗ فِي عَمَدٍ مُّبَدَّدَةٍ ۗ

ہوگا ۵

ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا ۵

اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے ۵

وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے ۵

جو دلوں پر جا لپٹے گی ۵

(اور) وہ اس میں بند کر دیئے جائیں گے ۵

یعنی (آگ کے) لمبے لمبے ستونوں میں ۵

--- ﴿سورۃ الحجر آیت ۹۲﴾ ---





جو (اسیر ہو کر اونٹنیوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں آجائیں (یہ حکم) خدا نے تم کو لکھ دیا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۴﴾ ---

۳۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ (یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا) مومنوں پر حرام ہے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۳﴾ ---

## کن عورتوں سے نکاح جائز ہے

۱۔ آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی (حلال ہیں) جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہونہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
- 3- الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

1- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَائِلٌ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَائِلٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ وَلَا مَعْزِزِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۵﴾ ---

کن عورتوں سے نکاح جائز ہے نیز دیکھئے: کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں

## کوڑوں کی سزا

۱۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد (جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو) دونوں میں سے ہر ایک کو سوڑے مارو۔ اور اگر تم خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا (کے حکم) میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ اور چاہئے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو ۵

— ﴿سورة النور آیت ۲﴾ —

۲۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی دڑ سے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں ۵

— ﴿سورة النور آیت ۴﴾ —

## گالی گلوچ

۱۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برانہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا (نہ) کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال (ان کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے ۵

۱- الذَّانِبَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۲- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝



۱- وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ آمَةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۲- الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۲۔ جو (ذی استطاعت) مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو (بیچارے غریب) صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں (ان پر جو) منافق) طعن کرتے اور ہنستے ہیں خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کیلئے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے ۵

۳۔ مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برائنام رکھو ایمان لانے کے بعد برائنام (رکھنا) گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۱﴾ ---

۳۔ ہر وطن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے ۵

--- ﴿سورة الصم آیت ۱﴾ ---

## گداگری

۱۔ جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور (اس کی بے ادبی سے) درگزر کرنا بہتر ہے اور خدا بے پروا (اور) بردبار ہے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۶۳﴾ ---

۲۔ (اور وہاں تم جو خرچ کرو گے تو) ان حاجتمندوں کیلئے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے

گالی گلوچ: نیز دیکھئے: بری عادت

گداگری: مزید حوالے: البقرہ: ۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹ آیات ۶- نیز دیکھئے: خیرات- صدقات

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بَشِّرِ الْأَسْمَاقُوسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝



۱۔ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا آدَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝  
 ۲۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقِيفِ ۗ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۗ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْقَابًا وَمَا تُفْقَهُوا مِن خَيْرٍ قَانَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ ۝  
 ۳۔ وَأَمَّا السَّائِلُ فَكَلا تَنْهَرُهُ ۝



ان کو صاف پہچان لو (کہ حاجتمند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور) لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کرو

گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۷۳﴾ ---

۳۔ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۱۰﴾ ---



## گناہ

- 1- **إِنْ تَجْتَبُوا كَبِيرَ مَا تُهْوُونَ عَنْهُ تَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَنُدْخِلَكُم مِّنْ دُونِهَا كَرِيمًا ۝**
- 2- **وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ  
سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝**
- 3- **وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ  
أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۗ  
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ  
إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا  
تَزْكُوا أَنفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بَيْنَ أُمَّةٍ ۗ**



--- ﴿سورة النساء آیت ۲۱﴾ ---

۱۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے  
اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے) گناہ معاف  
کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے ۝

۲۔ اور ظاہری اور پوشیدہ (ہر طرح کا) گناہ ترک کر دو۔ جو لوگ  
گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کئے کی سزا پائیں گے ۝

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۰﴾ ---

۳۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا  
ہی کا ہے (اور اس نے خلقت کو) اسلئے (پیدا کیا ہے) کہ جن  
لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور  
جنہوں نے نیکیاں کیں ان کو نیک بدلہ دے ۝

جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی  
باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بیشک تمہارا پروردگار بڑی بخشش

والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا  
اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک  
صاف نہ جتاؤ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے ۝

--- ﴿سورة النجم آیت ۲۲، ۲۱﴾ ---



## گناہ کبیرہ

۱۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے) گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۱﴾ ---

۲۔ اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے (یعنی) ان لوگوں کیلئے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵

اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الشوری آیت ۳۶، ۳۷﴾ ---

۳۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے (اور اس نے خلقت کو) اس لئے (پیدا کیا ہے) کہ جن لوگوں نے برے کام کئے ان کو ان کے اعمال کا (برا) بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کیں ان کو نیک بدلہ دے ۵

جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی

۱- اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَنُدْخِلَكُم مَّا دَخَلْنَا كَرِيمًا ۝

۲- وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْشَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا  
يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ  
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ ۝

۳- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ  
اَسٰءَوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝  
الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّحْمَ  
اِنَّ رَبَّكَ وَاَسِعُ الْمَغْفِرَةَ ۝ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ  
مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمْ اٰجِنَةٌ فِي الْبُصُوْنِ اَمْهَتِكُمْ ۝ فَلَا  
تُرْكُوْا اَنْفُسَكُمْ ۝ هُوَ اَعْلَمُ بِمَن اٰتٰى ۝



باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بیشک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بیچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے ۵

--- ﴿سورة اٰثم آیت ۳۱، ۳۲﴾ ---



## گواہی

۱۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۳۰﴾

۲۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخرا لڑماں) تم پر گواہ بنیں ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۳۳﴾

۳۔ اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۲۸۳﴾

۴۔ مسلمانو! تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو اگر وہ (ان کی بدکاری کی) گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کیلئے کوئی اور سبیل (پیدا) کرے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۵﴾

۱۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

۲۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

۳۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمِرٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

۴۔ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝

۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَتَوَّعَلُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكْفُرُ غَيْبًا أَوْ فُجُورًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ نَعَزَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

۵۔ اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کیلئے سچی گواہی دو

خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا

نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے تو تم

خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم بچہ دار

شہادت دو گے یا (شہادت سے) بچنا چاہو گے تو (جان رکھو) خدا

تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۳۵﴾

۶۔ اے ایمان والو! خدا کیلئے انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے ۵

--- ﴿سورة المائدة: آیت ۸﴾ ---

۷۔ مومنو! جب تم میں سے کسی کی موت آمو جو ہو تو شہادت (کا نصاب) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم (مسلمانوں) میں سے دو مرد عادل (یعنی صاحب اعتبار) گواہ ہوں۔ یا اگر (مسلمان نہ ملیں اور) تم سفر کر رہے ہو اور (اس وقت) تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو (شخصوں کو) گواہ (کر لو) اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو (عصر کی) نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے ۵ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے (جھوٹ بول کر) گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو (میت سے) قرابت قریب رکھتے ہوں پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰۤءِدِلُوا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

۷- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ الثَّلَاثِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرِيْنَ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنَّ اَنْتُمْ ضَرِيْبَتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۗ تَحْسَبُوْنَهَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ نَمٰنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ وَلَا تَلْتَمِزُوْا شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ۝ فَاِنْ عَجَزَ عَلَىٰ اَنْهٰمَ اسْتِحْقَاقًا اِنَّمَا فَاٰخَرِيْنَ يَقُوْلُن مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوَّلِيْنَ فَيُقْسِمْنَ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اٰحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۗ اِنَّا اِذَا لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تَرُدَّ اٰيٰتُنَّۗۙ بَعْدَ اٰيٰتِنَهُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاسْمِعُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۙ

ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں ۵ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ (ہماری) قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کردی جائیں گی اور خدا سے ڈرو اور (اس کے حکموں کو) (گوش ہوش سے) سنو اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

--- ﴿سورة المائدة: آیت ۱۰۶﴾ ---



۹۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے وہی اپنے بندوں سے خبردار (اور ان کو) دیکھنے والا ہے ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۹۹﴾ ---

۹۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مار دو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۴﴾ ---

۱۰۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے ۵

اور پانچویں (بار) یہ (کہے) کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ۵ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے ۵

اور پانچویں (دفعہ) یوں (کہے) کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب (نازل ہو) ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۹۲﴾ ---

۱۱۔ پھر جب وہ اپنی میعاد (یعنی انقضائے عدت) کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے (زوجیت میں) رہنے دو یا

۸۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ يَعْبادُكُمْ خَمِيْرًا بَصِيْرًا ۝

۹۔ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ يَأْتُوْنَ بِاَرْبَعَةِ شَهِدَآءٍ فَاَجْلِدُوْهُم مِّنْ جَلْدَةٍ وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهِادَةً اَبَدًا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

۱۰۔ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَاَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِدَآءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهِادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعَةُ شَهِدٰتٍ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَيَوْنُ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرُوْا عَنَّا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَةً شَهِدٰتٍ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَيَوْنُ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنْ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

۱۱۔ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ قَارِئُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَاَشْهَدُوْا ذَوٰى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ

اچھی طرح سے علیحدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور (گواہوں) خدا کیلئے درست گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کیلئے (رنج و محن سے) مخلص کی صورت پیدا کرے گا ۵

--- ﴿سورة الطلاق آیت ۲﴾ ---

مزید حوالے: البقرہ: ۲۳، آل عمران: ۱۸، ۵۲، ۵۳، ۶۳، ۸۱، ۹۹، ۱۳۰، النساء: ۳۳، ۳۴، ۸۳، الانعام: ۱۱، ۱۳، ۱۵۰۔

الاعراف: ۳۷، التوبہ: ۱۷، یونس: ۲۹، ۳۶، ۶۱، ہود: ۱۷، ۱۸، یوسف: ۲۶، ۲۷، النحل: ۸۳، الانبیاء: ۵۶، النور: ۱۳، القصص: ۲۳، ۷۵۔

المنکبوت: ۵۲، نیس: ۶۵، الزمر: ۶۹، نم السجدہ: ۲۰، ۲۲، الزخرف: ۱۹، ۸۶، الاحقاف: ۱۰، اللغ: ۸، ق: ۲۱، ۳۷، البجادہ: ۶، المعارج: ۳۳۔

المزمل: ۱۵، العاديات: ۷۔

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَن يَكْفُرْ أَفَعَلَّ اللَّهُ  
مَعْرَجًا



1- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى  
لِّلْعَالَمِينَ

2- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن  
جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ  
إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا  
وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

3- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ  
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا  
حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا  
هُوَ أَزَلٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ

کرتے ہیں کہ) شاید تم یاد رکھو

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی

جائے اس میں مت داخل ہو اور اگر (یہ) کہا جائے کہ (اس

وقت) لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لئے بڑی پاکیزگی کی

بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے

(ہاں) اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور

اس میں تمہارا اسباب (رکھا) ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ تم

گھر

۱۔ پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کیلئے مقرر کیا گیا تھا وہی

ہے جو مکے میں ہے بابرکت اور جہان کیلئے موجب ہدایت

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۹۰﴾ ---

۲۔ اور خدا ہی نے تمہارے لئے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی

نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لئے ڈیرے بنائے جن کو تم

سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور

پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں (بناتے ہو جو)

مدت تک (کام دیتی ہیں)

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۸۰﴾ ---

۳۔ مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں

میں گھر والوں سے اجازت لئے اور ان کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہو

کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور (ہم) یہ نصیحت اس لئے

باہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۷﴾ ---

۳۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا (اوروں کو) کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک (طرح کا گھر) بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ (اس بات کو) جاننے ۵

--- ﴿سورة العنکبوت آیت ۴۱﴾ ---

## لباس

جَنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بِيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ  
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝  
۴۔ مِثْلُ الَّذِيْنَ اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ  
الْعَنْكَبُوْتِ ۗ اِتَّخَذَتْ يَنْتَا ۙ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبِيُوْتِ  
لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

۱۔ اَحَلَّ لَكُمْ لِيَلَّةَ الصِّيَامِ الرَّفَقُ اِلَى نِسَابِكُمْ ۗ هُنَّ لِيَاسٍ  
لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ ۗ  
۲۔ يٰبَنِيَّ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّغَيِّرُ سَوَاتِيْعَكَ  
وَرِيْثًا وَّلِيَّاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ  
لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ ۝ يٰبَنِيَّ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ  
الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَتَزَعَّرُ عَنْهَا  
لِيَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِيْعَهُمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَوَقِيْلُهُ مِنْ  
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ

لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ  
لوگ نصیحت پکڑیں ۵

اے بنی آدم (دیکھنا کہیں) شیطان تمہیں بہکانے دے جس طرح  
تمہارے ماں باپ کو (بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے  
پکڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھادے وہ اور  
اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان  
کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے

۱۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا  
جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک

۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۸۷﴾ ---

۲۔ اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے  
اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور (جو) پرہیزگاری کا

جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ۰

﴿سورة الاعراف آیت ۲۶﴾

۳۔ ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے (مخلوں کے) نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ ہار یک دیا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنائیں گے (اور) تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھا کریں گے ۰

(کیا) خوب بدلہ اور (کیا) خوب آرامگاہ ہے ۰

﴿سورة الکہف آیت ۳۱﴾

۴۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک (طرح) کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی (کے ضرر) سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہئے ۰

﴿سورة الانبیاء آیت ۸۰﴾

۵۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں وہاں

لَا يُؤْمِنُونَ ۰

۳- أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَمْشُونَ

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ

سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِلِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ

الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۰

۴- وَاعْلَمْنَاهُ صِنْعَةً لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ

فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۰

۵- إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَمْشُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ

ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ

ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور وہاں ان کا

لباس ریشمی ہوگا ۰

﴿سورة الحج آیت ۲۳﴾

## لعان

۱۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے

تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے ۵

اور پانچویں (بار) یہ (کہے) کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ۵

اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے ۵

اور پانچویں (دفعہ) یوں (کہے) کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب (نازل ہو) ۵

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی (تو بہت سی

۱۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَةٌ شَهَدْتُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَةً شَهَدْتُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝



خراہیاں پیدا ہو جائیں مگر وہ صاحب کرم عمیم ہے) اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے ۵

— ﴿سورة النور آیت ۱۰۳۶﴾ —





۷۔ اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لئے گھر بھی برا ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲۵﴾ ---

۸۔ جو لوگ پرہیزگار (اور) برے کاموں سے بے خبر (اور) ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت (دونوں) میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۳﴾ ---

۹۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لئے (مگر) پھر قیامت کے دن ایک دوسرے (کی دوستی) سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا ۵

--- ﴿سورة العنکبوت آیت ۲۵﴾ ---

7- وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝  
8- إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَأَعْتَابُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝  
9- وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِثْقَالَ دُونَ اللَّهِ أَوْثَانًا مَمْدُودَةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نُصُرِينَ ۝  
10- إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝



۱۰۔ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کیلئے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۵۷﴾ ---



## لقمان

۱۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کیلئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پروا (اور) سزاوار حمد (وثناء) ہے ۵  
اور (اس وقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے ۵

--- ﴿سورة لقمان آیت ۱۳-۱۲﴾ ---

## لوح محفوظ

۱۔ خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے ۵  
--- ﴿سورة الرعد آیت ۳۹﴾ ---  
۲۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا (ان کے) اعمال ناموں میں (مندرج) ہے ۵  
(یعنی) ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے ۵  
--- ﴿سورة القمر آیت ۵۲-۵۳﴾ ---  
۳۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ

۱۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ وَمَنْ يَشْكُرْ  
فَاللَّهُ يَكْفُرْ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ  
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ  
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۖ

۱۔ يَتَّبِعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنِيبُوا ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۖ  
۲۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الذُّبُرِ ۖ وَكُلُّ صَغِيرٍ  
وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ۖ  
۳۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۖ إِنَّ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۖ  
۴۔ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۖ  
۵۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۖ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۖ

ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے (اور) یہ  
(کام) خدا کو آسان ہے ۵  
--- ﴿سورة الحديد آیت ۲۲﴾ ---  
۴۔ اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے ۵  
--- ﴿سورة التباء آیت ۲۹﴾ ---  
۵۔ (یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں) بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔  
لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ۵  
--- ﴿سورة البروج آیت ۲۲-۲۱﴾ ---



## لہو و لعب

۱۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو (ہاں) اس (قرآن) کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ (قیامت کے دن) کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے (اس روز) خدا کے سوانہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر وہ ہر (چیز جو روئے زمین پر ہے بطور) معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے ان کے لئے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لئے کہ کفر کرتے تھے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۷۰﴾ ---

۲۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور (ہمیشہ کی) زندگی (کا مقام) تو آخرت کا گھر ہے کاش یہ (لوگ) سمجھتے ۵

--- ﴿سورة العنکبوت آیت ۶۴﴾ ---

۱۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبَسَّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُسِيلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝  
 ۲۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَإَيْمَنِ الْحَيَوَانُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝  
 ۳۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝



۳۔ اور جب یہ لوگ سودا بکلتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں (کھڑے کا) کھڑا چھوڑ جاتے ہیں کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور

خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة الجمعة آیت ۱۱﴾ ---



## لیڈر اور عوام

۱۔ اس دن (کفر کے) پیشوا اپنے پیروؤں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور (دونوں) عذاب (الہی) دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے ۵

(یہ حال دیکھ کر) پیروی کرنے والے (حسرت سے) کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں اس طرح خدا ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۷﴾ ---

۲۔ اور (قیامت کے دن) سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہونگے تو ضعیف العقل متبع اپنے (رؤسائے) متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ (گریز اور) رہائی کی ہمارے لئے نہیں ہے ۵

﴿سورۃ ابراہیم آیت ۲۱﴾ ---

۳۔ جس دن ان کے منہ آگ میں اُلٹائے جائیں کہیں گے اے

۱۔ اذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّنَا كَرَّرْنَا فَنَتَّبِعَ اللَّهُ أَنعَابَهُ لَإِنتَبِهُنَا مِنَّا وَعَمَّا نَسُوا ۝ وَمَا هُمْ بِخارجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

۲۔ وَيَرْزُقُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ؕ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنَ الْقَبِيصِ ۝

۳۔ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَانُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

۴۔ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا آتَحْنُ

اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا ۵  
اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر ۵

﴿سورۃ الاحزاب ۶۶﴾ ---

۴۔ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آچکی تھی روکا تھا (نہیں) بلکہ تم ہی

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے (نہیں) بلکہ (تمہاری) رات دن کی چالوں نے (ہمیں روک رکھا تھا) جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہونگے ۵

--- ﴿سورۃ سباء آیہ ۳۲-۳۳﴾ ---

۵۔ اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنیٰ درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے تو کیا تم دوزخ (کے عذاب) کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ ۵  
بڑے آدمی کہیں گے کہ تم (بھی اور) ہم (بھی) سب دوزخ میں ہیں خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے ۵

--- ﴿سورۃ المؤمن آیہ ۲۸﴾ ---

صَدَّ دَلَمَّ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْدُ الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ يَا اللَّهُ وَجَعَلْ لَنَا آذَانًا ۝ وَأَسْرُوا الْقَدَامَةَ لَنَا رَأَوْا الْعَذَابَ ۝  
-s- وَإِذِ اتَّخَذُونَ فِي النَّارِ يُقُولُ الضَّعِيفُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنْ لَكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

## لیلۃ القدر

۱- حم ۵ اس کتاب روشن کی قسم ۵

کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تورتہ دکھانے والے ہیں ۵

اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کئے جاتے ہیں ۵

(یعنی) ہمارے ہاں سے حکم ہو کر پیشک ہم ہی (پیغمبر کو) بھیجتے ہیں ۵

(یہ) تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے ۵

شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے ۵

اس میں (روح الامین) اور فرشتے ہر کام کے (انتظام کے لئے)

اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں ۵

یہ (رات) (طلوع صبح تک) (امان اور) سلامتی ہے ۵

﴿سورۃ القدر آیت ۵۲﴾

۲- ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع)

کیا ۵

اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے ۵؟

## مالِ غنیمت

۱۔ مومنو! جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو خدا کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر خدا نے تم پر احسان کیا تو (آئندہ) تحقیق کر لیا کرو اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۹۲﴾ ---

۲۔ (اے محمد مجاہد لوگ) تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ کیا حکم ہے) کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۱﴾ ---

۳۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم (کفار سے) لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قربت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے اگر تم خدا پر اور اس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہو جو (حق و باطل میں) فرق کرنے کے دن (یعنی جنگ بدر میں) جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھینڑ ہو گئی اپنے بندے (محمد) پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۗ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

۲- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

۳- وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَأَنَّ السَّبِيلَ ۗ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُحِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۴- فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

۵- سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا ۗ

قادر ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲۱﴾ ---

۴۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ (کہ وہ تمہارے لئے) حلال طیب (ہے) اور خدا سے ڈرتے رہو بیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲۹﴾ ---

۵۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں یہ

چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے پھر کہیں گے (نہیں) تم تو ہم سے حسد کرتے ہو بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم ۵

--- سورة الحج آیت ۱۵ ---

### مباہلہ

۱۔ (یہ بات) تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا ۵

پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق (خدا سے) دعا لیتا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں ۵

نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ۗ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا  
كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْسَدُ وَنَنَا بَلْ  
كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

۱- الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُتَرِّينَ ۝ فَمَنْ  
حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا  
نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا  
وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝  
إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ  
اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے ۵

--- سورة آل عمران آیت ۶۰-۶۱ ---

## مستنبی

۱۔ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے ۵

اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا سادہ دکھاتا ہے ۵

مومنو! لے پالکوں کو ان کے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد دلی سے کرو (اس پر مواخذہ ہے) اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة الاحزاب آیت ۵۲﴾

۱- مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ  
أَزْوَاجَكُمْ لِيُنْظِرُوْنَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ  
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ  
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ  
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ  
وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۗ  
۲- الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ  
إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا  
مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۗ



۲۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں (ہو جاتیں) ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور خدا بڑا معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے ۵

﴿سورة المجادل آیت ۲﴾

## مٹی گارا

۱۔ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے (پہلے) مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ (انسان) ہو جا تو وہ (انسان) ہو گئے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۵۹﴾ ---

۲۔ اگر تم عجیب بات سنی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم (مرکر) مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہو گئے اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۵﴾ ---

۳۔ اور ہم نے انسان کو کھنکھانے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے ۵

--- ﴿سورة الحجر آیت ۲۶﴾ ---

- 1- إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝
- 2- وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ أُنزِلْنَا آتَانَا لِنُقِي خَلْقَ جَدِيدَةٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْتَابِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
- 3- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝
- 4- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عِذًّا نَّابَأًا قَرِيبًا ۚ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكٰفِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝



۳۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان (اعمال) کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا ۵

--- ﴿سورة النباء آیت ۲۰﴾ ---





## مجوس

۱۔ جو لوگ مومن (یعنی مسلمان) ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک خدا ان (سب) میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بیشک خدا ہر چیز سے باخبر ہے ۵

﴿سورۃ الحج آیت ۱۷﴾

## مچھلی

۱۔ تمہارے لئے دریا (کی چیزوں) کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے (یعنی) تمہارے اور مسافروں کے فائدے کیلئے اور جنگل (کی چیزوں) کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم (سب) جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہو ۵

﴿سورۃ المائدہ آیت ۹۶﴾

۲۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس لئے بھی (دریا کو تمہارے اختیار میں کیا) کہ تم خدا کے فضل سے (معاش) تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۱۴﴾

۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِیْنَ وَالنّٰصِرِیْنَ  
وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ  
یَوْمَ الْقِیَمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَهِیْدٌ ۵

۱۔ اٰجَلٌ لَّكُمْ صِیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرْمٌ  
عَلَيْكُمْ صِیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاَنْقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ اِلَیْهِ  
تُحْشَرُوْنَ ۵

۲۔ وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُ  
جُوَا مِنْهُ حِلِیَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَاَنْتَرٰی الْفُلُكَ مَوَآخِرَ فِیْهِ  
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْلَمُكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۵

۳۔ وَمَا یَسْتَوِی الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابًا  
وَهٰذَا یَلْبَسُ اَجَاحٌ وَّمِنْ كُلِّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِیًّا  
وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلِیَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَاَنْتَرٰی الْفُلُكَ فِیْهِ مَوَآخِرَ  
لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْلَمُكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۵

۳۔ اور دونوں دریا (مل کر) یکساں نہیں ہو جاتے یہ تو بیٹھا ہے  
پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا  
اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے  
ہو اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ (پانی کو) پھاڑتی چلی آتی  
ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ  
شکر کرو ۵

﴿سورۃ فاطر آیت ۱۲﴾

## محسن

۱۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں (یعنی بیبیوں) سے نکاح کرنے کا مقصد نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آگئی ہوں (نکاح کر لے) اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو۔ بشرطیکہ عقیقہ ہوں نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں (یعنی بیبیوں) کے لئے ہے اس کی آدھی ان کو (دی جائے) یہ (لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی) اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے

۱- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَيَنْتَظِرْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ بَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأَنْ يُكْفُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَنْ يُكْفُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَحَصَنَاتٌ غَيْرُ مُسْفِحاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ غَيْبِ أَعْيُنِنَا نَصْفَ مَا عَلَىٰ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۲- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الظَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

۳- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی (حلال ہیں) جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہونہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایمان کا منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا

--- ﴿سورة المائدة آیت ۵﴾ ---

۳۔ اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اتنی دڑے مارو۔

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۵﴾ ---

۲۔ آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے

اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۴﴾ ---

۳۔ جو لوگ پرہیزگار (اور) برے کاموں سے بے خبر (اور)

ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور

آخرت (دونوں) میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا ۵

(یعنی) قیامت کے روز) جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور

پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے ۵

--- ﴿سورة النور آیت ۲۳﴾ ---

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝

۴۔ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفٰطِرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

أَيْدِيَهُمْ وَأَيْدِيُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝



۱۔ وَهَمَّ مِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۝ وَمِنْ أَهْلِ

الْمَدِينَةِ بَقَرَةٌ مَّرْدُودٌ عَلَى النَّفَاقِ ۝ لَا تَعْلَمُهُمْ وَتَعْلَمُهُمْ

سَعَدَ بِهِمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝

۲۔ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۝

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۝

وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۝ إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝



### مدینہ منورہ

(یہاں) تمہارے (ٹھہرنے کا) مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک  
گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے  
گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا  
چاہتے تھے ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۱۳﴾ ---



۱۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض بدو منافق ہیں اور بعض مدینے  
والے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے  
ہیں ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے۔ پھر وہ بڑے عذاب کی طرف  
لوٹائے جائیں گے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۱۰﴾ ---

۲۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ

## مذاق اڑانا

۱۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آگھیرا ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۰﴾ ---

۲۔ جو (ذی استطاعت) مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو (بیچارے غریب) صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے (اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں) ان پر جو (منافق) طعن کرتے اور ہنستے ہیں خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کیلئے تکلیف دینے والا عذاب (تیار) ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۷۹﴾ ---

۳۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح (ایک وقت) ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے ۵

--- ﴿سورة هود آیت ۲۸﴾ ---

1- وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

2- الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۝ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

3- وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۝ قَالَ إِن تَسْخَرُونِي أَقَا نَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝

4- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۝ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۝ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۝ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝



۴۔ مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برانا م رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برانا م (رکھنا) گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۱۱﴾ ---



## مذہبی پیشوا

۱۔ بیشک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے مطابق انبیاء جو (خدا کے) فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں اور مشائخ اور علماء بھی کیونکہ وہ کتابِ خدا کے نگہبان مقرر کئے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے (یعنی حکمِ الہی کا یقین رکھتے تھے) تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۴۴﴾ ---

۲۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بیشک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں؟ ۵

بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟

بلاشبہ وہ بھی برا کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ المائدہ آیت ۶۲، ۶۳﴾ ---

۳۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے

۱- اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا  
التَّيْمُونُ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّسُوْلُوْنَ  
وَالْاَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفَظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ  
شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِالَّذِيْ تَمَنَّا  
قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝  
۲- وَتَرَى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يَسٰرِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَآكُلُوْا السَّخْتِ ۝ لَيْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝  
لَوْ اَنَّ يَتَّهَمُ الرَّسُوْلُوْنَ وَالْاَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْاِثْمُ  
وَآكُلُوْا السَّخْتِ ۝ لَيْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝  
۳- اِتَّخَذُوْا اَحْبَابًا هُمْ وِرَثٰٓةٌ لَهُمْ اَرَبَابًا قِيْنَ دُوْنَ اللّٰهِ  
وَالْمَسِيْحِ ابْنِ مَرْيَمَ ۝ وَمَا اَمْرٌ وَّآلَا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا  
وَاحِدًا ۝ اِلَّا اِلٰهٌ اَوْ هُوَ سُبْحٰنَةُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝  
۴- يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَابِ الرَّهْبٰنِ  
لَيَاكُوْنُوْنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ  
اللّٰهِ ۝ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا

سوا خدا بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے ۵

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۳۱﴾ ---

۳۔ مومنو! (اہل کتاب کے) بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور (ان کو) راہِ خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذابِ الیم

﴿سورة التوبة آیت ۳۴﴾

## مذہبی تعصب

۱۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لیکر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ (انبیاء) کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے ۵  
اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں (نہیں) بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۸۸﴾

۲۔ جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر (و برکت) نازل ہو اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۰۵﴾

۳۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

۱۔ اَفْكَمَآ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّا لَا تُهَوُّوْا اَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذٰبْتُمْ وَفَرِقْنٰ اَتَقْتُلُوْنَ ۝ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۝ بَلْ لَعَنَّاكَمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَفَقِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

۲۔ مَا يُوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّزَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۝ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ ۝ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

۳۔ وَكَثِيْرٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُوْكُمْ مِنْكُمْ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كَفٰرًا ۝ اَحْسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ ۝ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۝ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۝ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۴۔ وَقَالُوْا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَن كَانَ هُوْدًا ۝ اَوْ نَصْرًا ۝ يٰۤاَهْلَ الْاِمْلٰكِ اَمَّا يَتَذَكَّرْنَ ۝ اَقْلٰمًا ۝ قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(دوسرا) حکم بھیجے۔ بیشک خدا ہر بات پر قادر ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۰۹﴾

۳۔ اور (یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں (اے پیغمبر ان سے) کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۱۱﴾

۵۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے

ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں۔ حالانکہ وہ کتاب (الہی) پڑھتے ہیں اسی طرح بالکل انہیں کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو (کچھ) نہیں جانتے (یعنی مشرک) تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۱۳﴾ ---

۶۔ اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو (کتاب) مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تا کہ وہ (اسلام سے) برگشتہ ہو جائیں ۵

اور اپنے دین کے پیرو کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا (اے پیغمبر) کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے (وہ یہ بھی کہتے ہیں) یہ بھی (نہ ماننا) کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش والا (اور) علم والا ہے ۵ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے

۵۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ قَالَ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

۶۔ وَقَالَتِ طٰٓئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا بِالَّذِیْ اُنزِلَ عَلَی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَجَآءَ النَّهَارِ وَالْفُرُوْا اٰخِرَةً لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۗ وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا بِمَنْ تَبِعَ دِیْنَكُمْ ۗ قُلْ اِنَّ الْهُدٰی هَدٰی اللهُ ۗ اَنْ یُّؤْتٰی اَحَدًا مِّنْ مَّا اُوْتِیْتُمْ اَوْ یَحْجُوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ ۗ یُوْتِیْهِ مَن یَّشَآءُ ۗ وَاللهُ وٰسِعٌ عَلِیْمٌ ۗ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَن یَّشَآءُ ۗ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝

۷۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ اٰتُوْا نَصِیْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ یُؤْمِنُوْنَ بِالْحَبِیْبِ وَالطَّٰعُوْتِ وَیَقُوْلُوْنَ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَآءِ اَهْدٰی مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَبِیْلًا ۝

فضل کا مالک ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۷۲-۷۳﴾ ---

۷۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۵۱﴾ ---

مزید حوالے: البقرہ: ۱۰-۱۳-۲۵-۲۶-۲۹-۹۰-۱۳۶-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲

## مرثد

۱۔ یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر (کر کافر ہو) جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخ (میں جانے) والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے ۵

﴿سورة البقرة آیت ۲۱۷﴾

۲۔ جس دن بہت سے منہ سفید ہونگے اور بہت سے سیاہ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہونگے (ان سے خدا فرمائے گا) کیا تم ایمان لا کر کافر ہونگے تھے؟ سو (اب) اس کفر کے بدلے عذاب (کے مزے) چکھو ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۰۶﴾

۳۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا راستہ دکھائے گا ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۳۷﴾

۱۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبِهِتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۵

۲۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۵

۳۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۵

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَسُوفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ سَخِيانٍ يُضِلُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۵

۳۔ ۱۔ ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا (اور) جاننے والا ہے ۵

﴿سورة المائدة آیت ۵۴﴾



۵۔ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے شیطان نے (یہ کام) ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول (عمر کا وعدہ) دیا

یہ اس لئے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی (کتاب) سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے

تو اس وقت (ان کا) کیسا (حال) ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے (اور) ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔

یہ اس لئے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اسکی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا

--- ﴿سورۃ محمد آیت ۲۸﴾ ---

## مردوزن کے درجات میں برابری

۱۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا تم ایک دوسرے کی جنس ہو تو جو لوگ میرے لئے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور

۵۔ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَلَّذِينَ كُرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ۗ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۗ



۱۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذُكِّرُوا أَوْ أَنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُؤْتُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَاتِلُوا لِي لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۗ

۲۔ وَلَا تَسْتَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ

قتل کئے گئے میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ (یہ) خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۹۵﴾ ---

۲۔ اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور خدا سے اس کا فضل (و کرم) مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ

خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۳۲﴾ ---

۳۔ اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۲۴﴾ ---

۴۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۹۷﴾ ---

۵۔ (جو لوگ خدا کے آگے سراطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی) مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راستباز مرد اور راستباز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت

نیز دیکھئے: عورت

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۵

3- وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۵

4- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ

حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۵

5- إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ

وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِبِينَ وَالصَّائِبَاتِ وَالْحَافِظِينَ

فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۗ

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۵



کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لئے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۳۵﴾ ---



## مساجد

۱۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کئے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں ساعی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ۵

— ﴿سورة البقرہ آیت ۱۱۴﴾ —

۲۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ (کر کے نماز پڑھا) کرو اور مسلمانو تم جہاں ہوا کرو اسی (مسجد) کی طرف رخ کیا کرو (یہ تاکید) اس لئے (کی گئی ہے) کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ مگر ان میں سے جو ظالم ہیں (وہ الزام دیں تو دیں) سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو ۵

— ﴿سورة البقرہ آیت ۱۵۰﴾ —

۳۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا (قبلے کی طرف) رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو اس نے جس طرح تم کو

۱- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝  
۲- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَلَا تَمِمْ عَنِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَائِكُمْ لَتَهْتَدُنَّ ۗ

۳- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۗ  
۴- يٰٓأَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ  
۵- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۗ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۗ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ

ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہو گے ۵

— ﴿سورة الاعراف آیت ۲۹﴾ —

۳۔ اے بنی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ خدا بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں

رکھتا ۵

— ﴿سورة الاعراف آیت ۳۱﴾ —

۵۔ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں ان لوگوں کے سب اعمال

## مسافر

۱۔ (اے محمد) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہ (جو چاہو خرچ کرو لیکن) جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی) ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱۵﴾ ---

۲۔ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۲۶﴾ ---

۳۔ جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلویا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور (پیغمبر کے) قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجتمندوں کے اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے سو جو چیز

۱- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝  
۲- وَإِذَا الْقُرَىٰ حَقَّتْ وَالْيَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَلَا تَجِدْ لِرَبِّكَ دِينَاً ۝  
۳- مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ ۗ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۗ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝



تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہو اور خدا سے ڈرتے رہو بیشک خدا سخت عذاب دینے والا ہے ۵

--- ﴿سورة الحشر آیت ۷﴾ ---



## مساوات کا تصور

۱۔ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتیں گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تا کہ رستگاری حاصل کرو ۵

--- ﴿سورة المائدة آیت ۱۰۰﴾ ---

۲۔ کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (خدا کی طرف سے) آتا ہے کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور (کیوں) نہیں کرتے؟ ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۵۰﴾ ---

۳۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقلمند ہیں ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۱۹﴾ ---

۴۔ بھلا جو موسیٰ ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ۵

--- ﴿سورة السجدة آیت ۱۸﴾ ---

۵۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ۵

اور نہ اندھیر اور روشنی ۵

- 1- قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَيْبُ وَالظَّاهِرُ وَلَوْ اعْتَدْتُمْ كَثْرَةً  
الْغَيْبِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا اُولِيْ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝
- 2- قُلْ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ  
وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلِكٌ ۚ اِنْ اَتَيْتُمُوْا اِيَّامِيْ اِلَىٰ قُلْ هَلْ  
يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝
- 3- اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْزَالَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ  
هُوَ اَعْمٰى ۚ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝
- 4- اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوِي ۝
- 5- وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ وَلَا الظُّلُمٰتُ  
وَلَا النُّوْرُ ۚ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۚ وَلَا الْحُرُوْرُ ۚ وَمَا يَسْتَوِي  
الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۚ
- 6- اَفَمَنْ هُوَ قَانِتٌ اِنَّا نَالِ الْبَلِ سَاجِدًا وَقَانِبًا يُحْذِرُ الْاٰخِرَةَ وَيَجْهَدُ  
رَحْمَةً رَّبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا  
يَعْلَمُوْنَ ۚ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝
- 7- وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

اور نہ سایہ اور دھوپ ۵

اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔

--- ﴿سورة فاطر آیت ۲۲ تا ۲۹﴾ ---

۶۔ (بھلا مشرک اچھا ہے) یا وہ جو راز۔ توں میں زمین پر

پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور

اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہ وہ بھلا جو لوگ علم رکھتے

ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ (اور) نصیحت تو

وہی پکڑتے ہیں جو عقلمند ہیں ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۹﴾ ---

۷۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں۔ اور نہ ایمان لانے والے نیکو کار اور نہ بدکار برابر ہیں (حقیقت یہ ہے کہ) تم بہت کم غور

کرتے ہو ۵

﴿سورة المؤمن آیت ۵۸﴾

۸۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ۵

﴿سورة تم السجده آیت ۲۴﴾

۹۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے (اور) ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی۔ یہ جو دعویٰ

کرتے ہیں برے ہیں ۵

﴿سورة الجاثیة آیت ۲۱﴾

۱۰۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں۔ اہل بہشت تو کامیابی

حاصل کرنے والے ہیں ۵

﴿سورة الحشر آیت ۲۰﴾

الضالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيئَةِ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ۵

8- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۵

9- أَوْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَعْنَاهُمْ وَمَا لَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۵

10- لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۵



1- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ السَّمَاءِ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۵



1- قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

والا ہے ۵

﴿سورة نبی اسرائیل آیت ۱﴾



## مسجد الحرام

۱۔ (اے محمد) ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا منہ مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ) کی طرف پھیر لو۔ اور تم لوگ جہاں ہو کرو (نماز پڑھنے کے وقت)

## مسجد الاقصیٰ

۱۔ وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد الاقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ سننے والا (اور) دیکھنے

اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ (نیا قبلہ) ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں ۵

--- ﴿سورة البقره آیت ۱۴۴﴾ ---

۲۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ (کر کے نماز پڑھا) کرو اور مسلمانو تم جہاں ہوا کرو اسی (مسجد) کی طرف رخ کیا کرو (یہ تاکید) اسلئے (کی گئی ہے) کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ مگر ان میں سے جو ظالم ہیں (وہ الزام دیں تو دیں) سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو ۵

--- ﴿سورة البقره آیت ۱۵۰﴾ ---

۳۔ اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو۔ کافروں کی یہی سزا ہے ۵

--- ﴿سورة البقره آیت ۱۹۱﴾ ---

۴۔ مومنو! خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی (جو خدا کی نذر کر دیے گئے ہوں اور) جن کے گلوں میں پٹے

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝  
 ۲- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمِمْ يَمِينِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝  
 ۳- وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا لَهُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قُتِلُوا فَمَا قُتِلُوا لَهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْرٍ أَنْ صَادُوا ۚ وَكَمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر (یعنی بیت اللہ) کو جارہے ہوں اور) اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام اتار دو تو (پھر اختیار ہے کہ) شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو ۵

اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے ۵

﴿سورة المائدة آیت ۲﴾

۵۔ اور (اب) ان کیلئے کوئی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد محترم (میں نماز پڑھنے) سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اسکے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ۵

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب (کا مزہ) چکھو ۵

﴿سورة الانفال آیت ۲۴-۲۵﴾

۶۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۵

﴿سورة التوبة آیت ۱۹﴾

۷۔ مومنو! مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۵

5- وَمَا لَهُمْ اَلَّا يَعِدُّوْهُمْ اَللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَ ؕ اِنْ اَوْلِيَاؤُهَا اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلَكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مَكَاةً وَتَصَدِيَةً ۝ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

6- اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ يَا لَلّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۝ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝  
7- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

8- سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰى

(اور) حکمت والا ہے ۵

﴿سورة التوبة آیت ۲۸﴾

۸۔ وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے ۵

﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱﴾



## مسجد قبا

۱۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا (اور نماز پڑھایا) کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں (اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے) ۵

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

--- ﴿سورۃ التوبہ آیت ۱۰۸﴾ ---

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا  
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

۱۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا الْمَسْجِدَ الَّذِي بَنَيْنَا عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ  
أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فَمِنْ رِجَالِكُمُ الَّذِينَ يَنْتَهَرُونَ أَنْ يُنْتَهَرُوا وَاللَّهُ  
يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ  
مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ  
شَقَاةٍ جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

## مسکین

۱۔ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ

﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۶﴾

۲۔ مگر وہ گھائی پر سے ہو کر نہ گزرا

اور تم کیا سمجھتے کہ گھائی کیا ہے؟

کسی (کی) گردن کا چھڑانا

یا بھوک کے دن کھانا کھلانا

یتیم رشتہ دار کو

یا فقیر خا کسار کو

۳۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلاتا ہے

یہ وہی (بد بخت) ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے

۱۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَلَا تَبْذُرْ تَبذِيرًا

۲۔ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ  
فَكَّ رَقَبَةً ۚ أَوْ أَطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْقَبَةٍ ۚ لِيَتِمَّ  
ذَامَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ مَسْكِينًا ذَامَقْرَبَةٍ ۚ

۳۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ ۚ قَدْ لِكَ الَّذِي يَدْعُ  
الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ



اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لئے (لوگوں کو) ترغیب نہیں دیتا

﴿سورۃ الماعون آیت ۳﴾



## مسلمانوں کے باہمی تعلقات

۱۔ مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۵۹﴾ ---

۲۔ (اے محمد مجاہد لوگ) تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ کیا حکم ہے) کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۱﴾ ---

۳۔ مومنو! جب (کفار کی) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تا کہ مراد حاصل کرو ۵ اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑانہ کرنا کہ (ایسا کرو گے تو) تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲۵﴾ ---

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

۲۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ وَسْوَءٌ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

۴۔ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

۲۔ محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں ۵

--- ﴿سورة فتح آیت ۲۹﴾ ---

## مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات

۱۔ مومنو! کسی غیر (مذہب کے آدمی) کو اپنا رازدار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی (اور فتنہ انگیزی کرنے) میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ (جس طرح ہو) تمہیں تکلیف پہنچے ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو (کینے) ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنادی ہیں ۵

دیکھو تم ایسے (صاف دل) لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو (اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے) اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں (ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں (ان سے) کہہ دو کہ (بد بختو) غصے میں مر جاؤ۔ خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۱۸﴾ ---

۲۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برانہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا (نہ) کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فریق کے اعمال (ان کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے ۵

۱۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطٰنَۃٍ مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا یَاۡلُوْنَکُمْ خَبٰۤیۡۤآٓ وَدُوۡۤا مَا عٰیۡنُکُمْۙ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْۢ مِّنْ اَفۡوَاهِہِمۡۙ وَمَا تُخْفِیۡۤنَ صُدُوْرُہُمَا کِبٰرٌۢ قَدْ بَیۡنَا لَکُمُ الْاٰیٰتِۚ اِنْ کُنۡتُمْ تَعۡقِلُوْنَۙ مَاۤ اَنْتُمْۤ اَوْلَآءٌۙ تُحِبُّوۡنَہُمۡ وَلَا یُحِبُّوۡنَکُمْ وَتُوۡمِنُوۡنَ بِالکِتٰبِ کَلِیۡۤمٌۙ وَاِذَا لَقِیۡتُمُوۡہُمْ قَالُوۡۤا اٰمَنَّاۙ وَاِذَا خَلَوۡا عَضُوۡا عَلَیۡکُمْ الْاِنۡۡۤاۤمِلۡ مِنَ الْغِیۡظِۙ قُلۡ مُّوۡتُوۡۤا بِعِیۡظِکُمْۙ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیۡمٌۢ بِذٰتِ الصُّدُوۡرِۙ وَلَا تَسۡبُوۡۤا الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ فِیۡسَبُّوۡا اللّٰہَ عَدُوًّاۙ وَیَغۡیۡرُ عَلَیۡہِۙ کَذٰلِکَ زَیۡۤنَۃٌ لِّکُلِّ اُمَّۃٍۙ عَلَیۡہُمۡ نَزۡۤاۤمٌۙ ثُمَّ اِلَی رَیۡبِہُمۡ مَّرۡجِعٌۙ فِیۡنَبِّئِہُمۡ بِمَا کَانُوۡۤا یَعۡمَلُوۡنَۙ

۲۔ وَخُذِ الْعَفۡوَ وَاْمُرْ بِالْعُرۡفِ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الْجَہِلِیۡنَۙ

۳۔ وَاِنْ جَآءَکُمُ السَّلٰمُ فَاٰجِزۡ لَہَا وَتَوَكَّلۡ عَلَی اللّٰہِؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُۙ

۴۔ وَاِنْ اٰحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ لَیۡنَ اسۡتَجَارَکَ فَاٰجِرۡہُ حَتّٰی یَسۡمِعَ کَلِمَۃٍ مِّنَ اللّٰہِ ثُمَّ اَبۡلِغۡہُ مَاۡمَنَہُۙ ذٰلِکَ بِاَنۡہُمۡ قَوْمٌ لَا یَعۡلَمُوۡنَۙ

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۰۸﴾ ---

۳۔ (اے محمد) عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور

جاہلوں سے کنارہ کر لو ۵

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۱۹۹﴾ ---

۴۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الانفال آیت ۶﴾ ---

۵۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو

یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے۔ پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو۔ اس لئے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں ۵

بھلا مشرکوں کے لئے (جنہوں نے عہد توڑ ڈالا) خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیونکر (قائم) رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ (اپنے عہد پر) قائم رہیں تو تم بھی (اپنے قول و قرار پر)

قائم رہو بیشک خدا پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۶﴾ ---

۶۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی

کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو ۵

--- ﴿سورة النجم آیت ۲۹﴾ ---

## مسح

۱۔ (وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے) جب فرشتوں نے

(مریم سے کہا) کہ مریم خدام کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسح (اور مشہور) عیسیٰ ابن مریم

ہوگا (اور جو) دنیا اور آخرت میں با آبرو اور (خدا کے) خاصوں

میں سے ہوگا ۵

اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر (دونوں حالتوں میں) لوگوں

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ  
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ  
فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۵  
۶- فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا  
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۗ



۱- إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يٰرَبِّمَنَ اِنَّ اللّٰهَ يَشْرِكُ بِكَلِمَتِي مِّنْهُ ۗ  
اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۗ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ  
وَكَهْلًا وَمِنَ الضّٰلِيْنَ ۗ

۲- وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ  
وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِن سُبُّوْهُ لَهْمُ ۗ وَان  
اللّٰذِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ

سے (یکساں) گفتگو کرے گا اور نیکو کاروں میں ہوگا ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۴۵﴾ ---

۲۔ اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر (کہلاتے) تھے قتل کر دیا ہے (خدا نے ان کو ملعون

کر دیا) اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا

بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے بارے

میں اختلاف کرتے ہیں وہ انکے حال سے شک میں پڑے ہوئے

ہیں۔ اور پیرویِ نطن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا ۵

بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور خدا غالب (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۵۸، ۱۵۷﴾ ---

۳۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بیشک کافر ہیں۔ (ان سے کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۱۷﴾ ---

۴۔ مسیح ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ (مریم خدا کی) ولی (اور) سچی فرمانبردار (تھیں۔ دونوں انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے

عَلِمُوا إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلْمِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

۳۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ كَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنَزِّلَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۴۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأُمَّةٌ صَدِيقَةٌ مَّا كُنَّا بِكُلِّنَ الطَّعَامِ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نَبِّئُن لَّهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ آلِي يُوْقَلُونَ ۝

دیکھو ہم ان لوگوں کیلئے اپنی آیتیں کس طرح کھول کر بیان کرتے

ہیں پھر (یہ) دیکھو کہ یہ کدھرا لٹے جا رہے ہیں ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۷۵﴾ ---

## مشیتِ ایزدی

۱۔ (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۱۷﴾ ---

۲۔ اور خدا جس کو چاہتا ہے بیشمار رزق دیتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱۳﴾ ---

۳۔ اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱۳﴾ ---

۴۔ اور خدا (کو اختیار ہے) جسے چاہے بادشاہی بخشے اور بڑا

کشائش والا (اور) دانا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ ۲۳۷﴾ ---

۵۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے

شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں

جو غفلت مند ہیں ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۶۹﴾ ---

۶۔ وہی تو ہے جو (ماں کے) پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری

صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت

کے لائق نہیں ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۶﴾ ---

۱۔ بِدِيْعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ  
كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

۲۔ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

۳۔ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

۴۔ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكًا مَّن يَّشَاءُ ۙ وَاللّٰهُ وَاَسِعَ عَلِيْمٌ ۝

۵۔ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَّن يَّشَاءُ ۙ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ  
خَيْرًا كَثِيْرًا ۙ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ ۝

۶۔ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۙ لَّا اِلٰهَ  
اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

۷۔ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَّن يَّشَاءُ ۙ وَاللّٰهُ وَاَسِعَ  
عَلِيْمٌ ۙ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَّن يَّشَاءُ ۙ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ  
الْعَظِيْمِ ۝

۸۔ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيْكُمْ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ هُوَ  
قَبِيْلُكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۙ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَاللّٰهُ  
يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهٰوٰتَ

۷۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا

ہے دیتا ہے اور خدا کشائش والا (اور) علم والا ہے ۵

وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے

فضل کا مالک ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۷۳﴾ ---

۸۔ خدا چاہتا ہے کہ (اپنی آیتیں) تم سے کھول کھول کر بیان

فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی

کرے اور خدا جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جو لوگ اپنی خواہشوں

کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر  
دور جا پڑو ۵

خدا چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان (طبعاً) کمزور  
پیدا ہوا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۸﴾ ---

۹۔ تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام  
کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ  
تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح  
خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۶﴾ ---

۱۰۔ اور تمہارا پروردگار (بے پروا) اور صاحبِ رحمت ہے اگر  
چاہے (تو اسے بندو) تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن  
لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں  
کی نسل سے پیدا کیا ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۴﴾ ---

۱۱۔ اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو اس کے سوا اس کا کوئی  
دور کر نیوالا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ  
پہنچاتا ہے اور وہ بخشے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۱۰۷﴾ ---

أَنْ تَسِيلُوا مِيلاً عَظِيماً ۝ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّفَ عَنْكُمْ  
وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۝

۹۔ فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يُهَيِّجَ يَهَيِّجْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ  
يُرِيدُ أَنْ يُضَلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ  
فِي السَّمَاءِ ۝ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ  
لَا يُؤْمِنُونَ ۝

۱۰۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۝ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ  
وَيَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ  
ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ۝

۱۱۔ وَإِنْ يَسَسَّكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۝ وَإِنْ  
يُرِيدْ يَخَيِّرْ فَلَا رَادَّ لِضَلِيلِهِ ۝ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ  
عِبَادِهِ ۝ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

۱۲۔ إِنْ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝

۱۳۔ يَتَّبِعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيَتَّقُوا ۝ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

۱۴۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

۱۲۔ بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے ۵

--- ﴿سورة هود آیت ۱۰۷﴾ ---

۱۳۔ خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے (قائم  
رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے ۵

--- ﴿سورة الرعد آیت ۲۹﴾ ---

۱۴۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ  
اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۴۰﴾ ---



۱۵۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم (سب) کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو (اس دن) ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۹۳﴾ ---

۱۶۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو (کتاب) ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے (دلوں سے) محو کر دیں۔ پھر تم اس کے لئے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ ۵  
مگر (اس کا قائم رہنا) تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۸۷﴾ ---

۱۷۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو (اس کا) اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالاتر ہے ۵

--- ﴿سورۃ القصص آیت ۸۶﴾ ---

۱۸۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھردوں گا ۵

--- ﴿سورۃ السجدہ آیت ۱۳﴾ ---

۱۹۔ کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے (تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے) اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں

۱۵۔ وَكُوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَاَنْتُمْ لَعِنَةٌ مِّنْ قَبْلِ اللّٰهِ سَمِيْعَةٌ ۝۱۶- وَكَيْنَ شِئْنَا لَنذٰهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لَمْ نَلَا تُحٰدِثْكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۝۱۷- اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اِنْ فَضَلْتَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْدًا ۝۱۸- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱۹- قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۝۲۰- وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وٰلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ۝۲۱- اِنَّهَا اَمْرٌ ۝۲۲- اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۲۳- اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ۝۲۴- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ

۱۷۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱۸- وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱۹- قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۝۲۰- وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وٰلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ۝۲۱- اِنَّهَا اَمْرٌ ۝۲۲- اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۲۳- اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ۝۲۴- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ

۱۸۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۱۹- قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۝۲۰- وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وٰلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ۝۲۱- اِنَّهَا اَمْرٌ ۝۲۲- اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۲۳- اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ۝۲۴- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ

۱۹۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۝۲۰- وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وٰلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ۝۲۱- اِنَّهَا اَمْرٌ ۝۲۲- اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۲۳- اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ۝۲۴- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ

۲۰۔ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وٰلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ۝۲۱- اِنَّهَا اَمْرٌ ۝۲۲- اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۲۳- اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ۝۲۴- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ

۲۱۔ اِنَّهَا اَمْرٌ ۝۲۲- اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۲۳- اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ۝۲۴- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ

۲۲۔ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۲۳- اِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ۝۲۴- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ

گے اور نہ مددگار ۵

--- ﴿سورۃ الاحزاب آیت ۱۷﴾ ---

۲۰۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے ۵

--- ﴿سورۃ یس آیت ۸۲﴾ ---

۲۱۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف سے رستہ دکھا دیتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الشوری آیت ۱۳﴾ ---

۲۲۔ (تمام) بادشاہت خدا ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے

اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشا ہے ۵

یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے

بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا (اور) قدرت والا ہے ۵

--- ﴿سورة الشوری آیت ۵۰-۴۹﴾ ---

## معاشرتی درجہ بندی

۱۔ اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی

ہے اس کی ہوس مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے

جو انہوں نے کئے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں

نے کئے اور خدا سے اس کا فضل (و کرم) مانگتے رہو کچھ شک نہیں

کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۲﴾ ---

۲۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لئے کہ خدا نے بعض کو بعض

سے افضل بنایا ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۳﴾ ---

۳۔ جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھ رہتے (اور لڑنے سے جی

يَشَاءُ اِنَّا كَا وَنَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُوْرُ اُوْنُوْرُ جِهْمُ  
ذُكْرًا وَاِنَّا كَا وَنَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيْبًا اِنَّهٗ  
عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۵

۱- وَلَا تَتَمَتَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰی بَعْضٍ ۙ لِلرِّجَالِ  
نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۙ  
وَاسْتَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيْمًا ۵

۲- اَلرِّجَالُ قَوٰمُوْنَ عَلٰی النِّسَاءِ ۙ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰی  
بَعْضٍ ۙ وَمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۙ

۳- لَا يَسْتَوِي الْقُعُوْدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرًا وَّوَالِي الضَّرْرِ  
وَالْعُجُوْدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ فَضَّلَ  
اللّٰهُ الْعٰجِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلٰی الْقُعُوْدِيْنَ

چراتے) ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو خدا کی راہ میں اپنے

مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر

اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور (گو) نیک

مزید حوالے مشیت ایزدی: البقرہ: ۲۰-۹۰-۱۰۵-۱۳۲-۲۴۰-۲۵۱-۲۵۳-۲۵۵-۲۶۱-۲۷۲-آل عمران: ۱۳-۲۶-۳۷-۴۰-۴۵-۱۲۹-۱۷۹-النساء: ۳۷-

۳۸-۱۳۳-المائدہ: ۶-۱۸-۵۳-الانعام: ۳۹-۴۱-۷۳-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱

وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۹۵﴾ ---

۳۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بیشک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۶۵﴾ ---

۵۔ اور خدا نے رزق (دولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟ ۵

--- ﴿سورة النمل آیت ۷۱﴾ ---

۶۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے ۵

--- ﴿سورة الزخرف آیت ۳۲﴾ ---

دَرَجَاتٍ ۞ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۞ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞  
 4- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفًا فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞  
 5- وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ لَهُمْ فهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعَنَانِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞  
 6- أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۞  
 7- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَحَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْحَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

۷۔ مومنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو خدا تم کو کشادگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة المجادل آیت ۱۱﴾ ---

## معجزات انبیاء

۱۔ اور جب تم نے (موسیٰ سے) کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آگھیرا اور تم دیکھ رہے تھے ۵

پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو ۵

اور بادل کا تم پر سایہ کئے رکھا اور (تمہارے لئے) من و سلوی اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۵۷ تا ۵۵﴾

۲۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے (خدا سے) پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاشی پتھر پر مارو (انہوں نے لاشی ماری) تو پھر اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر (کے پانی پی) لیا۔

﴿سورۃ البقرہ آیت ۶۰﴾

۳۔ اور جب ہم نے تم سے عہد (کر) لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا۔

﴿سورۃ البقرہ آیت ۶۳﴾

۴۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا ۵

۱۔ وَاذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً

فَاخَذْنَا لَكُمْ الضُّعْفَةَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ نُمَّ بَعَثْنَاكُمْ

مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ

الغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلٰوٰى كُلَّوَا مِنْ طَيِّبٰتِ

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

۲۔ وَاِذْ اسْتَسْقٰى مُوسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

فَاَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اٰثِنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ

مَشْرَبَهُمْ

۳۔ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَّرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

۴۔ وَاِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَعْنَا فِيْهَا وَاَللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ

تَكْتُمُوْنَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُخَيِّى اللّٰهُ الْمُوْتِى

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

۵۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مَلٰٓئِكَةِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوْتُ

فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَيَقِيْنَةٌ مِّمَّا تَرَكَ اَلْ مُوسٰى وَاَلْ

هُرُوْنَ تَحْمِلُهٗ الْمَلٰٓئِكَةُ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰيَةً لِّكُمْ اِنْ

تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی ساکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۷۳ تا ۷۲﴾

۵۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی (بخشنے والی چیز) ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لئے ایک بڑی نشانی

۶۔ یا اسی طرح اس شخص کو (نہیں دیکھا) جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس (کے باشندوں) کو مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا۔ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی (اور) سو برس تک (اس کو مردہ رکھا) پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ (مرے) رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا (نہیں) بلکہ سو برس (مرے) رہے ہو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ (اتنی مدت میں مطلق سڑی) بسی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو (جو مر پڑا ہے غرض ان باتوں سے) یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کیلئے (اپنی قدرت کی) نشانی بنائیں اور (ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیونکر جوڑے دیتے اور ان پر) (کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے ۵

اور جب ابراہیم نے (خدا سے) کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرے گا خدا نے فرمایا کیا تم نے (اس بات کو) باور نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن (میں دیکھنا) اس لئے (چاہتا ہوں) کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۷۔ اُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اٰلِي يَتِيحِي هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةً عَامًا ثُمَّ بَعَثَهُ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامًا فَانظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ ۚ وَانظُرْ اِلَى جِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِلنَّاسِ ۚ وَانظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اِنِّيْ كَيْفَ نَتَّبِعِي الْمَوْتُ قَالَ اَوَلَمْ تُوْمِنُ ط قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ط قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰۤاٰتِيْنِكَ سَعِيًّا ۙ وَاَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

۸۔ كَلِمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْيَحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۙ قَالَ لَبَّرِيْمَ اٰلِي لِكَ هٰذَا ۙ قَالَتْ هُوَ مِنْ

نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگالو (اور ٹکڑے ٹکڑے کرادو) پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۲۶۰﴾

۷۔ ذکر یا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے (یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے) پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولیں خدا کے

ہاں سے (آتا ہے) بیشک خدا جسے چاہتا ہے بیمار رزق دیتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۳۷﴾ ---

۸۔ میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے (سچ بچ) جانور ہو جاتا ہے اور اندھے اور برص کو تندرست کر دیتا ہوں اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے (قدرت خدا کی) نشانی ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۳۹﴾ ---

۹۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں ۵ مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے ۵ فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ (دکھاؤ) ۵ موسیٰ نے اپنی لاشی (زمین پر) ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اُڑدھا ہو گیا ۵

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۵

۸۔ اِنِّي اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفَعُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنُ اللَّهُ ۵ وَاُبْرِيءُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُنْحِي الْمَوْتِ يَأْذِنُ اللَّهُ ۵ وَاَتَيْتُكُمْ بِمَا تَاْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ لِي يَبْوِتُكُمْ ۵ اِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۵

۹۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۵ حَقِيقٌ عَلَيَّ اَنْ لَا اَقُولَ عَلَيَّ اللَّهُ اِلَّا الْحَقُّ ۵ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۵ قَالَ اِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۵ فَاَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۵ وَنَزَعْنَا مِنْهُ لِيْلَتَهُ فَاِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِرِيْنَ ۵

۱۰۔ قَالُوا يَهُوسَىٰ اِمَّا اَنْ تُلْقَى وَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ تَحْتِ الْمَلٰٓئِكَةِ ۵ قَالَ اَلْقُوا فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاَسْتَرٰهُمُوهُمْ وَاَجَاوُزٌ يُّسْحَرُ بِهَا ۵ وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰٓى

اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق (تھا) ۵

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۱۰۳-۱۰۸﴾ ---

۱۰۔ (جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو) جادو گروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم (جادو کی چیز) ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں ۵ (موسیٰ نے) کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے (جادو کی چیزیں) ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا (یعنی نظر بندی کر دی) اور (لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر) انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا ۵ اور (اس وقت) ہم نے موسیٰ کی طرف وحی

جیسی کہ تم بھی اپنی لالچی ڈالو وہ فوراً (سانپ بن کر)  
جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نکل  
جائے گی ۵

(پھر) تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا  
اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے ۵

اور (یہ کیفیت دیکھ کر) جادوگر سجدے میں گر پڑے ۵

(اور) کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے ۵

(یعنی) موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ۵

--- ﴿سورۃ الاعراف آیت ۱۱۵ تا ۱۲۲﴾ ---

۱۱۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان  
لا چکے (لا چکے) ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ  
کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ ۵

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ اور جو لوگ ظالم  
ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق  
کر دیئے جائیں گے ۵

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار  
انکے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم  
سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح  
(ایک وقت) ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے ۵

اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے

أَنْ لَقِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ فَوَقَعَ  
الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ فَغَلَبُوا هَذَاكَ  
وَ انْقَلَبُوا صُغِيرِينَ ۚ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُدُجًا ۚ  
قَالُوا امْكُتُوا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۚ

۱۱۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ  
آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ وَاصْنَعِ  
الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا  
إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ  
قَيْنَ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ مِنِّي فَإِنِّي أَسْخَرُ مِنْكُمْ  
كَمَا تَسْخَرُونَ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَمَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ  
يُجْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا  
وَفَارَ التَّوَرُّوتُ فَلْنَا حِمْلًا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِثْلٍ  
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ  
مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ  
مَجْرَهُا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَهِيَ

رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ ۵

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے  
(نوح کو) حکم دیا کہ ہر قسم (کے جانداروں) میں سے جوڑا جوڑا  
یعنی دو (دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ) لے لو اور جس  
شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے (کہ ہلاک ہو جائے گا) اس کو چھوڑ  
کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور  
ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے ۵

(نوح نے) کہا کہ خدا کا نام لیکر (کہ اسی کے ہاتھ میں) اس کا  
چلنا اور ٹھہرنا (ہے) اس میں سوار ہو جاؤ بیشک میرا پروردگار بخشنے

والامہربان ہے

اور وہ ان کو لے کر (ہوفان کی) لہروں میں چلنے لگی (لہریں کیا تھیں) گویا پہاڑ (تھے) اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو (کشتی سے) الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو ۵

اس نے کہا کہ میں (ابھی) پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں (اور نہ کوئی بچ سکتا ہے) مگر اس پر خدا رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا ۵ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جو دی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ۵

--- ﴿سورة ہود آیت ۳۶ تا ۴۳﴾ ---

۱۲۔ اور (یہ بھی کہا کہ) اے قوم! یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی (یعنی معجزہ) ہے تو اسکو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں (جہاں چاہے) چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گیا ۵

مگر انہوں نے اس کی کوئی کاٹ ڈالیں۔ تو (صالح نے) کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن (اور) فائدے اٹھا لویہ وعدہ ہے کہ

تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْحًا إِنِّي وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبَيِّنُ ارْتَبًا مَعْنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ۵ قَالَ سَأُوْبِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَمَ وَحَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُهْرَقِينَ ۵ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبِسْمَاءِ أَقْلَبِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۵

12۔ وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ قَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۵ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَشْعَوْنَ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرَ مَكْدُوبٍ ۵ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۵ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ ۵ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۵ الْآلِ إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۵ أَلَا بُعْدًا لِشُمُودٍ ۵

جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچالیا اور اس دن کی رسوائی سے (محفوظ رکھا) بیشک تمہارا پروردگار طاقت ور (اور) زبردست ہے ۵

اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو پتنگھاڑ (کی صورت میں عذاب) نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے ۵ گویا کبھی ان میں بے ہی نہ تھے سن رکھو کہ شمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو شمود پر پھینکا ہے ۵



۱۳۔ یہ میرا کرتہ لجاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو وہ پینا ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ  
اور جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ (بوڑھا) بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے

وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں (بتلا) ہیں

جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتہ یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ پینا ہو گئے۔ (اور بیٹوں سے) کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

--- ﴿سورۃ یوسف آیت ۹۳ تا ۹۶﴾ ---

۱۴۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں بیٹے کا نہیں خواہ برسوں چلتا رہوں  
جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اسے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا

--- ﴿سورۃ الکہف آیت ۶۰ تا ۶۱﴾ ---

۱۵۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ

۱۳۔ اِذْهَبُوا بِقِيصِي هَذَا فَالْقَوَّةُ عَلَى وَجْهِ ابْنِي يَا بَاتِ بَصِيرًا ۚ وَ اَنْتُوْنِي يَا اَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۗ وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَاجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفْتِدُوْنِي ۗ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۗ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ الْاُفْهَ عَلَى وَجْهِهِ فَاَرْتَدَّ بِصِيْرًا ۗ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ

۱۴۔ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتْنٰهٖ لَا اَبْرٰحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِ حَقْبًا ۗ فَلَمَّا اَبْلُغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۗ

۱۵۔ فَتَادِبُهٗا مِنْ تَحْتِهَا اِلَّا تَحْزِنٰنِيْ ۗ قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۗ وَهَرَمٰنِيْ اِلَيْكَ بِحِذِّعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۗ فَكَلِمٰنِيْ وَاَشْرٰنِيْ وَفَرَمٰنِيْ عَيْنًا ۗ

۱۶۔ قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۗ اَنْدِنِي الْكِتٰبَ وَجْعَلْنِيْ نَبِيًّا ۗ وَجْعَلْنِيْ مُبْرِكًا اٰمِيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصِنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ

پیدا کر دیا ہے

اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ تازہ کھجوریں گھڑ پڑیں گی

تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو

۱۶۔ (بچے نے) کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے

اور میں جہاں ہوں (اور جس حال میں ہوں) مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے

اور (مجھے) اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا (بنایا ہے)  
اور سرکش و بد بخت نہیں بنایا ۵

اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مردوں گا اور جس دن زندہ  
کر کے اٹھایا جاؤ گا مجھ پر سلام (درحمت) ہو ۵  
یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں (اور یہ) سچی بات ہے جس میں لوگ  
شک کرتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ مریم آیت ۲۳۲-۲۳۰﴾ ---

۱۷۔ (پھر سامری سے) کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ ۵  
اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی  
تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے (مٹی کی) ایک مٹھی بھری پھر اس  
کو (پھڑے کے قالب میں) ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے  
(اس کام کو) اچھا بنایا ۵

(موسیٰ نے) کہا جاتھ کو (دنیا کی) زندگی میں یہ (سزا) ہے کہتا  
رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لئے ایک اور وعدہ ہے (یعنی  
عذاب کا) جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی (پوچھا) پر تو  
(قائم و) متکلف تھا اسکو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی  
(راکھ) کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے ۵

تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز  
پر محیط ہے ۵

--- ﴿سورۃ طٰہ آیت ۹۸-۹۵﴾ ---

حَيًّا ۚ وَبِزَاءِ يٰوَالِدَتِي ۚ وَكَمْ يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ  
عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝ ذَلِكَ  
17- عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝  
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۝ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ  
يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا  
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۝ قَالَ قَاذِهِبُ فَإِن لَّكَ فِي  
الْحَيٰوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِن لَّكَ مَوْعِدًا لَّنِ  
تُخْلَفُهُ ۚ وَانظُرِي إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا  
لَنَنْحَرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۚ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ  
الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝  
18- قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝  
قُلْنَا إِنَّا كُنتُم بِرَدَا ۚ وَسَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَآرَادُوا بِهِ  
كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِينَ ۚ  
19- وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا  
فَاعِلِينَ ۝

۱۸۔ (تب وہ) کہنے لگے کہ اگر تمہیں (اس سے اپنے معبود کا انتقام  
لینا اور) کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔  
ہم نے حکم دیا (اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر) (موجب)  
سلامتی (بن جا) ۵

--- ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۷۸-۷۶﴾ ---

۱۹۔ اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح  
کرتے تھے اور جانوروں کو بھی (مسخر) کر دیا تھا اور ہم ہی (ایسا)  
کرنے والے تھے ۵

--- ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۷۹﴾ ---

۲۰۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع (فرمان) کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی (یعنی شام) اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں ۵

اور دیوؤں (کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان) میں سے بعض ان کے لئے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے ۵

--- ﴿سورة الانبياء آیت ۸۲﴾ ---

۲۱۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو! ہمیں (خدا کی طرف سے) جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے بیشک یہ (اسکا) صریح فضل ہے ۵ اور سلیمان کے لئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے گئے اور وہ قسم دار کئے گئے تھے ۵

یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو پھل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو ۵

تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں

20- وَلَسَلِمِينَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۝ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝

21- وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْذَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ وَإِن هَذَا لَهَوَ الْفَضْلِ الْمُبِينِ ۝ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّى إِذَا تَوَاعَىٰ وَادِ التَّمَلُّقِ قَالَتْ نَبَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَتَبَسَّضًا جَاكِلًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝

22- قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْمَنُ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْذَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ وَإِن هَذَا لَهَوَ الْفَضْلِ الْمُبِينِ ۝ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۝ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝

داخل فرما ۵

--- ﴿سورة النمل آیت ۱۹﴾ ---

۲۲۔ (سلیمان نے) کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے ۵

جنات میں سے ایک قوی بیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت (بھی) حاصل ہے (اور) امانت دار

(بھی) ہوں ۵

ایک شخص جس کو کتاب (الہی) کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کئے دیتا ہوں جب (سیمان نے) تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پروا (اور) کرم کرنے والا ہے ۵

--- سورة النحل آیت ۲۸-۳۰ ---

۲۳۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ جب تم کو اسکے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچادیں گے اور (پھر) اسے پیغمبر بنا دیں گے ۵

تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھالیا اس لئے کہ (نتیجہ یہ ہونا تھا کہ) وہ ان کا دشمن اور (ان کے لئے موجب) غم ہو بیشک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر چوک گئے ۵

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ (یہ) میری اور تمہاری (دونوں کی) آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ

عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ  
طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي  
لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرْنَا يَأْتِيَنَّاهُ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۵

۲۳۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذْخِفِيهِ عَلَيْهَا  
فَالْقِيَةَ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ؕ إِنَّا رَآدُوهُ  
إِلَيْكَ وَجَاءَ عِلْمُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۵ قَالَتْ لَقَدْ  
أُوتِيَ الْفِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ  
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۵ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ  
قَرَّةٌ عَيْنٍ لِّيَ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۗ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ  
نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۵ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ  
مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِتَبْذُرَهُ بِهٖ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا  
عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۵ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ  
قُصِّيهٖ ۗ قُبِّرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ  
وَحَزَمْنَا عَلَيْهِ الْمِرَاصِمَ مِن قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ

پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ (انجام سے) بے خبر تھے ۵

اور موسیٰ کی ماں کا دل بیقرار ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس (غصے) کو ظاہر کر دیں غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں ۵

اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان (لوگوں) کو کچھ خبر نہ تھی ۵

اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر (دانیوں کے) دودھ حرام کر دیے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ

تمہارے لئے اس (بچے) کو پالیں اور اس کی خیر خواہی (سے پرورش) کریں ۵

تو ہم نے (اس طریق سے) ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے لیکن یہ اکثر نہیں جانتے ۵

— ﴿سورۃ القصص آیت ۱۳۷﴾ —

۲۳۔ اور ہوا کو ہم نے (سلیمان کا تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور ان کے لئے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اسکو ہم (جہنم کی) آگ کا مزہ چکھائیں گے ۵

وہ جو چاہتے یہ ان کے لئے بناتے یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے (لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں اے داؤد کی اولاد (میرا) شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں ۵

— ﴿سورۃ سبا آیت ۱۳﴾ —

۲۵۔ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے ۵

جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے ۵

اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی ۵

پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ (قابل ملامت) (کام) کرنے

عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ يَكْفُلُونَكَ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿۲۴﴾  
 قَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آقِيهِ كَيْ تَفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ  
 أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۵﴾  
 ۲۴۔ وَلِلسُّلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُوهُمَا نَهْرًا وَوَالْحَمَلَةَ وَاسْتَغْنَاهُ  
 عَيْنَ الظُّلْمِ ۖ وَوَالْحَيَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ  
 رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزُغْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنَ عَذَابِ السَّعِيرِ  
 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ  
 كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۖ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۖ وَ  
 قَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿۲۵﴾

۲۵۔ وَإِن يُوَسَّسْ لِيَوْمَ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ  
 الْمَشْحُونِ ۚ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۚ  
 فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۚ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ  
 الْمُسَبِّحِينَ ۚ لَلَبْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ فَنَبَذْنَاهُ  
 بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۚ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًا مِّن يَّتَّقِي ۚ  
 وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۲۶﴾

والے تھے ۵

پھر اگر وہ (خدا کی) پاکی بیان نہ کرتے ۵

تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اسی کے پیٹ

میں رہتے ۵

پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا ۵

اور ان پر کدو کا درخت اگایا ۵

اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ (لوگوں) کی طرف (پیغمبر بنا کر)

بھیجا ۵

— ﴿سورۃ الصافات آیت ۱۳۹﴾ —

۲۶۔ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے (اور) بیشک وہ رجوع کرنے والے تھے ۵

ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ (خدا کے) پاک (کا) ذکر کرتے تھے ۵

اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرمانبردار تھے ۵

﴿سورۃ ص آیت ۱۹ تا ۲۶﴾

۲۷۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ (بارالہا) شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے ۵

(ہم نے کہا کہ زمین پر) لات مارو (دیکھو) یہ (چشمہ نکل آیا) نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو (شیریں) ۵

اور ہم نے ان کو اہل (وعیال) اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشنے (یہ) ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کیلئے نصیحت تھی ۵

﴿سورۃ ص آیت ۲۱ تا ۲۳﴾

26- وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ إِذْ أَعْتَدْنَا آلِهَةَ آوَابٍ ۖ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ

مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ ۖ وَالظَّلِيلَ مَحْسُورَةً ۖ

كُلُّ لَهٍ آوَابٍ ۖ

27- وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ۖ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ

بِنُصُوبٍ وَعَذَابٍ ۖ أُرْكُضُ بِرَجْلِكَ ۖ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ

وَشَرَابٌ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

وَذِكْرَى لِرَأُولِي الْآلِبَابِ ۖ



## معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۱۔ وہ جو (محمد) رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کیلئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان (کے سر) پر (اور گلے میں) تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نوران کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں

﴿سورة الاعراف آیت ۱۵۷﴾

۲۔ تم لوگوں نے ان (کفار) کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا اور (اے محمد) جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں

۱- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَخْيَرَ الَّذِي بَعَدَ وَنَا  
مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أُولَئِكَ  
يَا الْمَعْرُوفِ وَيَنْتَهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ  
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي  
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ  
وَاتَّبَعُوا النَّبِيَّ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ  
۲- فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ  
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ  
۳- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ  
أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ  
عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۚ ثُمَّ  
أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ  
جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ  
الْكَافِرِينَ ۚ  
۴- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں

﴿سورة الانفال آیت ۷﴾

۳۔ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور (جنگ) حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹھے پھیر کر پھر گئے

پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل

فرمائی اور (تمہاری مدد کو فرشتوں کے) لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے (آسمان سے) اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے ۵

--- ﴿سورة التوبه آیت ۲۶۲۵﴾ ---

۴۔ وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں بیشک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۱﴾ ---

۵۔ اور (کافر) کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں ۵  
کیا ان لوگوں کیلئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کیلئے اس

المحرام إلى المسجد الأقصى الذي برکنا حوله لئلا  
من آیتنا ۱۰ إله هو السميع البصیر ۱۰  
۵- وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّمَا  
الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ  
أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ  
لَرْحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝  
۶- إِنْ تَقْرَبْتِ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَبْرُ ۝ وَإِنْ يَدْرُوا آيَةً  
يُغْرَضُوا وَيَقُولُوا إِنَّهُمْ مُّسْتَمِرُّونَ ۝

میں رحمت اور نصیحت ہے ۵

--- ﴿سورة العنكبوت آیت ۵۱۵﴾ ---

۶۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا ۵  
ور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں  
کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے ۵

--- ﴿سورة القمر آیت ۲۱﴾ ---



## معراج

۱۔ وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱﴾ ---

۲۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ۵  
کہ تمہارے رفیق (محمد) نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں ۵  
اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں ۵  
یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے ۵  
ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ۵  
(یعنی جبرائیل) طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے ۵  
اور وہ (آسمان کے) اونچے کنارے میں تھے ۵  
پھر قریب ہوئے اور اور آگے بڑھے ۵  
تو وہ کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم ۵  
پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا ۵  
جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا ۵  
کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ ۵

۱۔ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٗ مِنْ الْاَيْتَانِ ۙ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۙ  
۲۔ وَاللَّجْمِ اِذَا هَوٰی ۙ مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوٰی ۙ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ۙ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی ۙ عَلَیْہَا شَدِیْدُ الْقُوٰی ۙ ذُو مِرَّةٍ ۙ فَاسْتَوٰی ۙ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی ۙ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلٰی ۙ فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی ۙ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی ۙ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی ۙ اَفْتَمَرْتُوْہٗ عَلٰی مَا یُرٰی ۙ وَلَقَدْ رَاٰ نَزْلَہٗ الْاُخْرٰی ۙ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۙ عِنْدَہَا جَنَّةُ الْمَاوٰی ۙ اِذْ یَغْشٰی السِّدْرَہٗ مَا یَغْشٰی ۙ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی ۙ لَقَدْ رَاٰ مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہٖ الْکُبْرٰی ۙ



اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے ۵  
پر لی حد کی پیری کے پاس ۵  
اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے ۵  
جبکہ اس پیری پر چھار ہا تھا جو چھار ہا تھا ۵  
ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ (حد سے) آگے بڑھی۔  
انہوں نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کی کتنی ہی بڑی بڑی  
نشانیاں دیکھیں ۵

--- ﴿سورۃ النجم آیت ۱۸﴾ ---

## مغفرت

۱۔ اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۲۱﴾ ---

۲۔ (اور دیکھنا) شیطان (کا کہانہ ماننا وہ) تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۲۶۸﴾ ---

۳۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کیلئے بخشش اور اجر عظیم ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۹﴾ ---

۴۔ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں خدا نے ان کے دل تقویٰ کے لئے آزمائے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے ۵

--- ﴿سورة الحجرات آیت ۳﴾ ---

۵۔ بیشک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے ۵

--- ﴿سورة النجم آیت ۳۲﴾ ---

۱- وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْحَيٰتِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاٰذِنِهٖٓ وَ يَبِيْنُ

اٰيٰتِهٖٓ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

۲- الشَّيْطٰنُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۗ وَاللّٰهُ يَعِدُّكُمْ

مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاَسِعَ عَلِيْمٌ ۝

۳- وَعَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً

وَاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

۴- اِنَّ الَّذِيْنَ يَغْضُوْنَ اَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ

الَّذِيْنَ اٰمَنَ اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ

عَظِيْمٌ ۝

۵- عَلِمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝

۶- اِعْلَمُوْا اَنَّهَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُمْ وَّرِيْثَةٌ

وَتَنقَاطُخُ بَيْنَكُمْ وَاَنْتُمْ كٰتِرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۗ

كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكٰفِرَ نَبٰٓئُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۗ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ

شَدِيْدٌ ۗ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ

۶۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت

(و آرائش) اور تمہارے آپس میں فخر (وستائش) اور مال و اولاد

کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب (دخواست) ہے (انکی مثال

ایسی ہے) جیسے بارش کہ (اس سے کھیتی اگتی اور) کسانوں کو کھیتی

بھلی لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتی ہے پھر (اسے دیکھنے والے) تو

اس کو دیکھتا ہے کہ (پک کر) زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی

ہے۔ اور آخرت میں (کافروں کیلئے) عذاب شدید اور

(مومنوں کے لئے) خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور

کی زندگی تو متاع فریب ہے ۵

(بندو) اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی (طرف) جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کیلئے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اسکے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے ۵ اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے ۵

— ﴿سورة المدیة آیت ۲۱۲﴾ —

## مقام انسانیت

۱۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھٹکھٹاتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جب اس کو (صورت انسانیت میں) درست کر لوں اور اس میں اپنی (بے بہا چیز یعنی) روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ۵

تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے ۵

مگر شیطان ۵

— ﴿سورة الحجر آیت ۲۱۲﴾ —

۲۔ اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ ۝

سَا يَقْوَا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  
كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝



۱- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰوٰتٍ  
مِّنْ حَمٰٓءٍ مَّسْنُوٰنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَعَعْتُ فِيْهِ مِّنْ  
رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰتٍ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ  
اٰجْمَعُوْنَ ۝ اِلَّا اِبْلِیْسَ ۝

۲- وَاللّٰهُ اٰخَرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ  
شَيْۤئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

۳- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِی الْوُجُوْدِ وَالْبَعْرَ وَرَزَقْنٰهُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقِنَا فَتَعْظِيْمًا ۝

نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل (اور ان

کے علاوہ اور اعضا) بخشے تاکہ تم شکر کرو ۵

— ﴿سورة النحل آیت ۷۸﴾ —

۳۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جھگ اور دریا میں

سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر

## فضیلتِ دی

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۷۰﴾ ---

۴۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں

نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن

--- ﴿سورۃ لقمان آیت ۲۰﴾ ---

۵۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاق پڑاق جھگڑنے لگا

اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہہ (جب) ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟

--- ﴿سورۃ یس آیت ۷۷﴾ ---

۶۔ خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں یہی خدا تمہارا پروردگار ہے پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے

--- ﴿سورۃ المؤمن آیت ۶۳﴾ ---

4- اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظٰهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتٰبٍ مُّبِينٍ ۝

5- اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّاسِيًّا خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝

6- اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمٰوٰءَ بِنَآءٍ ۗ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ ۗ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبَرَّكَ اَللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

7- اَللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيْهِ بِاَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

۷۔ خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اسکے

حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے

(معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے

(حکم) سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان

کے لئے اس میں (قدرتِ خدا کی) نشانیاں ہیں

--- ﴿سورۃ الباقیہ آیت ۱۳﴾ ---

۸۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ (اور) خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا (اور) سب سے خبردار ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحجرات آیت ۱۳﴾ ---

۹۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی

اور طور سینین کی

اور اس امن والے شہر کی ۵

کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے ۵

--- ﴿سورۃ التین آیت ۲۱﴾ ---

## مکر و فریب

۱۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کئے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہیں کو ہے اور (اس سے) بے خبر ہیں ۵

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کونسا محل ہے اور (وہ اپنی پیغمبری کے عنایت فرمائے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا اس لئے کہ مکاریاں کرتے تھے ۵

۸۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

۹۔ وَالزَّيْتُونَ ۖ وَالرِّبِّيُّونَ ۖ وَطُورِ سِينِينَ ۖ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۗ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

۱۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَسْأَلُوا فِيهَا

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ وَإِذَا جَاءَهُمْ

آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِنْ مَّا أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ ۗ

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَّا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۝

۲۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

أَوْ يُخْرِجُوكَ ۗ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

الْمُكِينُ ۝

۳۔ وَإِذْ آذَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَأٍ مَّسَّتْهُمُ إِذْ هُمْ

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۲۳﴾ ---

۲۔ اور (اے محمد اس وقت کو یاد کرو) جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا (وطن سے) نکال دیں تو (ادھر تو) وہ چال چل رہے تھے اور (ادھر) خدا چال چل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الانفال آیت ۳۰﴾ ---

۳۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد (اپنی) رحمت سے آسائش) کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں حیلے کرنے

لگتے ہیں کہہ دو کہ خدا بہت جلد حیلہ کرنے والا ہے اور جو حیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ یونس آیت ۲۱﴾ ---

۴۔ کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھنسا دے یا (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آجائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۲۵﴾ ---

۵۔ اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا ۵

--- ﴿سورۃ فاطر آیت ۱۰﴾ ---

۶۔ اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی ۵

یعنی (انہوں نے) ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلانا (اختیار کیا) اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ

مَكْرًا فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۵

4- أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۵  
أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۵


5- وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ۵

6- وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا تَقْوَرًا ۗ اِسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۗ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۗ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ۗ فَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَكَفَىٰ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۵



اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدیل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے ۵

--- ﴿سورۃ فاطر آیت ۲۲، ۲۳﴾ ---



## مکہ مکرمہ

۱۔ پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کیلئے مقرر کیا گیا تھا وہی

ہے جو کے میں ہے بابرکت اور جہان کیلئے موجب ہدایت ۵

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے

کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس (مبارک) گھر میں داخل

ہو اس نے امن پالیا اور لوگوں پر خدا کا حق (یعنی فرض) ہے کہ جو

اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم

کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۹۶﴾ ---

۲۔ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے

گاؤں (یعنی مکے) کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد

رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس

میں کچھ شک نہیں دلاؤ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا

اور ایک فریق دوزخ میں ۵

--- ﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۷﴾ ---

۱- اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى

لِّلْعَالَمِينَ ۗ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۗ وَ

مَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَبِاللّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّةُ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ

عَلِيْمٌ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

۲- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ

وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ فَرِيقٌ فِي

الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝

۳- وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ

مِنْ بَعْدِ اِنْ اٰظَقَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝

۳۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان (کافروں) پر فتیاب کرنے

کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے

روک دیئے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الفتح آیت ۲۴﴾ ---

## ملازمین

۱۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور قبیلوں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقاء پہلو (یعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور) تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا ۵

— ﴿سورة النساء آیت ۳۶﴾ —

۲۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی لگا ہوں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش (یعنی زیور کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھ رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجوں اور اپنی (ہی قسم کی) عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدا کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے

1- وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْحَارِثِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِثِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

2- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَابِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ وَمَا تَوَنَّىٰ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةٌ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

واقف نہ ہوں (غرض ان لوگوں کے سوا) کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات) کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں (ایسے طور سے زمین پر) نہ ماریں کہ (جھنکار کا نوں میں پہنچے اور) ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنو سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤں ۵

— ﴿سورة النور آیت ۳۱﴾ —



## ملکہ سبا

۱۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو! ہمیں (خدا کی طرف سے) جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے بیشک یہ (اسکا) صریح فضل ہے ۵

اور سلیمان کے لئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے گئے اور وہ قسم دار کیے گئے تھے ۵

یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو ۵

تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پردردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما ۵

اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہد ہد نظر نہیں آتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ۵

میں اسے سخت مزادوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے (یعنی بے قصوری کی) دلیل صریح پیش کرے ۵

ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہد ہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس (شہر) سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں ۵

۱۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَاطِقَ الظُّلُمِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِبْتِ وَالْإِنْسِ وَالظُّلُمِ فَهَمَزُ نُورٍ عَوْنٍ ۝ حَتَّى إِذَا اتَوَا عَلَى وَادِ النَّهْلِ ۖ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ ۖ لَا يَحْطِئُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ وَتَفَقَّدَ الظُّلُمِ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ أَرَادَ مِنَ الْعَابِدِينَ ۖ لَأَعْدِيئَهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ أَوْ لَا أَدَّبْتَهُ ۖ أُولَٰئِكَ يَتَّبِعِي بَسُلْطِينَ مُبِينِينَ ۝ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ حِطُّ بِهِ ۖ وَجَدْتُكَ مِنْ سَبَأَ بَنِي يَاقِينَ ۖ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۖ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْطَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۖ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يَخْرِجُ

میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور

ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے ۵

میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر

دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے پس وہ رستے پر نہیں آتے ۵

(اور نہیں سمجھتے) کہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کیوں

سجدہ نہ کریں ۵

خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے

(سلیمان نے) کہا (اچھا) ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے

یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں

ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور (مضمون یہ ہے) کہ شروع خدا کا

نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (بعد اس کے یہ) کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر

میرے پاس چلے آؤ (خط سنا کر) کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں

مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو (اور اصلاح نہ دو) میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں

وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجئے گا (اس کے مال پر) نظر کر لیجئے گا

اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں

اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد

کیا جواب لاتے ہیں جب (قاصد) سلیمان کے پاس پہنچا تو (سلیمان نے) کہا کیا تم

الْحَبِّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ  
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ  
 أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝ إِذْ هَبَّ بِكَلْبِي هَذَا فَالِقَهُ إِلَيْهِمْ  
 ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ  
 إِنَّيَأُلْقَى إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۝ إِنَّكَ مِنْ سُلَيْمِينَ وَإِنَّهُ  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلِيٌّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۝  
 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَنتُمُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى  
 تَشْهَدُونِ ۝ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ يُدْعَى وَ  
 الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۝ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا  
 دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ  
 يَفْعَلُونَ ۝ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِمَا يَرْجِعُ  
 الْمُرْسَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْدُونَنِي بِمَالٍ مِمَّا  
 آتَيْنَا اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَيْتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝  
 رَاجِعْ إِلَيْهِمْ فَمَا لَكُمُ اللَّيْلُ لَأَقْبَلَ لَهُمْ بِهَا وَتَغْوَجَّتْهُمْ  
 مِنْهَا آذِلَّةً وَهُمْ صُغُرُونَ ۝ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي

مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہو گے

ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے

(سلیمان نے) کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت

میرے پاس لے آئے

خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے

(سلیمان نے) کہا (اچھا) ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے

یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں

ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور (مضمون یہ ہے) کہ شروع خدا کا

نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے (بعد اس کے یہ) کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر

میرے پاس چلے آؤ (خط سنا کر) کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں

مجھے مشورہ دو جب تک تم حاضر نہ ہو (اور اصلاح نہ دو) میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں

وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے تو جو حکم دیجئے گا (اس کے مال پر) نظر کر لیجئے گا

اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں

اور اسی طرح یہ بھی کریں گے اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد

کیا جواب لاتے ہیں جب (قاصد) سلیمان کے پاس پہنچا تو (سلیمان نے) کہا کیا تم

الْحَبِّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ  
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ  
 أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝ إِذْ هَبَّ بِكَلْبِي هَذَا فَالْقِيَهُ إِلَيْهِمْ  
 ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ  
 إِنَّيَأُلْقِي إِلَيْكَ كِتَابًا كَرِيمًا ۝ إِنَّكَ مِنْ سُلَيْمِينَ وَإِنَّهُ  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلِيٌّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۝  
 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَنتُمُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى  
 تَشْهَدُونِ ۝ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ يُدْعَى وَ  
 الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۝ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا  
 دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ  
 يَفْعَلُونَ ۝ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِمَا يَرْجِعُ  
 الْمُرْسَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْدُونَنِي بِمَالٍ مِمَّا  
 آتَيْنَا اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَيْتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝  
 رَاجِعْ إِلَيْهِمْ فَمَا لَكُمُوهُمْ بِجُودٍ لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَتَغْوِجَتَهُمْ  
 وَمِنْهَا آذِلَّةٌ وَهُمْ ضَاغِرُونَ ۝ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي

مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہو گے

ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے

(سلیمان نے) کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت

میرے پاس لے آئے

جنات میں سے ایک قوی بیگل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت (بھی) حاصل ہے (اور) امانت دار (بھی) ہوں ۰

ایک شخص جس کو کتاب (الہی) کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے سے آپ کے پاس حاضر کئے دیتا ہوں جب (سلیمان نے) تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پروا (اور) کرم کرنے والا ہے ۰

(سلیمان نے) کہا کہ ملکہ کے (امتحانِ عقل کے) لئے اس کے تخت کی صورت بدل دو دیکھیں کہ وہ سوچ رہتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوچ نہیں رکھتے ۰ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو ہی ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی (سلیمان کی عظمت و شان کا) علم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہیں ۰ اور وہ جو خدا کے سوا (اور کی) پرستش کرتی تھی (سلیمان نے) اس کو اس سے منع کیا (اس سے پہلے تو) وہ کافروں میں سے تھی ۰

بِعَرِّهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝ قَالَ عِفْرِيَّتُ مِمَّنْ الْحِجَّتِ أَنَا تَيْبِكَ بِقَبْلِ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَسْلُوَنِي ؕ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝ قَالَ تَكَرُّوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرًا فَتَهْتَبِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَلِكُنَّ أَعْرَاشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۚ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۚ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



(پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے جب اس نے اس کے (فرش) کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور (کپڑا اٹھا کر) اپنی پنڈلیاں کھول دیں سلیمان نے) کہا یہ ایسا محل ہے جس کے (بچے بھی) شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور (اب) میں سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں ۰

--- ﴿سورۃ النمل آیت ۲۴ تا ۳۱﴾ ---



## منافق

۱۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ۵

یہ (اپنے پندار میں) خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں مگر (حقیقت میں) اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں ۵

ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا ۵

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ۵

دیکھو یہ بلاشبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے ۵

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے ۵

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو (ان

۱۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُكذِّبُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

۲۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ

(سے) کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور (پیروانِ محمد سے) تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں ۵

ان (منافقوں) سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دینے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں ۵

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۶۳﴾ ---

۲۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو

(کتاب) تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں اور شیطان (تویہ) چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے ۵

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف (رجوع کرو) اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور زکے جاتے ہیں ۵

تو کیسی (ندامت کی) بات ہے کہ جب ان کے اعمال (کی شامت) سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا ۵

ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے خدا اس کو (خوب) جانتا ہے تم ان (کی باتوں) کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں ۵

۳۔ تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو حالانکہ خدا نے ان کو انکے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستے

إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا كَمِثْلِ الْقَافِرِينَ فَمَنْ يَرْجُوا يَوْمَ الْقِيَامِ فَمَنْ يَضِلُّهُمْ ضَلَالًا بُعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

۳۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

۴۔ يَكْفُرُ الْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

۵۔ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ قَالَُوا

پر لے آؤ۔ اور جس شخص کو خدا گمراہ کر دے تم اس کے لئے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۸۸﴾ ---

۳۔ (اے پیغمبر) منافقوں (یعنی دورے لوگوں) کو بشارت سنا دو کہ ان کیلئے دکھ دینے والا عذاب (تیار) ہے ۵

۵۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے ۵

جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے

--- ﴿سورة النساء آیت ۶۳﴾ ---

ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اور اگر کافروں کو (فتح) نصیب ہو۔ تو (ان سے) کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں (کے ہاتھ) سے بچایا نہیں تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا

منافق (ان چالوں سے اپنے نزدیک) خدا کو دھوکا دیتے ہیں۔ (یہ اس کو کیا دھوکا دیں گے وہ) انہیں کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ست اور کابل ہو کر (صرف) لوگوں کے دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم

بیچ میں پڑے لنگ رہے ہیں نہ ان کی طرف (ہوتے ہیں) نہ ان کی طرف اور جس کو خدا بھٹکائے تو تم اس کے لئے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے

﴿سورة النساء آیت ۱۳۴﴾

۶۔ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہونگے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے

﴿سورة النساء آیت ۱۳۵﴾

أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ ۚ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۚ قَالُوا أَلَمْ نَسْعُدْكُمْ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى ۚ يُدْأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يُذَكَّرُونَ ۚ اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ۚ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكُنْ تَجْدَلَهُ سَبِيلًا ۚ

6- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۚ

7- الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

۷۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس (یعنی ایک ہی طرح کے) ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور (خرچ کرنے سے) ہاتھ بند کئے رہتے ہیں انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافق نافرمان ہیں

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے وہی ان

کے لائق ہے اور خدا نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب (تیار) ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۶۷-۶۸﴾ ---

۸۔ جو (ذی استطاعت) مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو (بیچارے غریب) صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے (اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں) ان پر جو (منافق) طعن کرتے اور بھتے ہیں خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کیلئے تکلیف دینے والا عذاب (تیار) ہے ۵

تم ان کے لئے بخشش مانگو یا نہ مانگو (بات ایک ہے) اگر ان کے لئے ستر دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۷۹-۸۰﴾ ---

۹۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے (کے شہر) میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں (اپنے کردار سے) باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن ۵

وَالْكَافِرُنَا رَجَهْمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَاهُمْ اللَّهُ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۵

۸- الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي  
الْصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
فَيَسْتَكْبِرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ۵ اِسْتَعْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ  
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۵ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۵

۹- لَيْسَ لِمَنْ يَمُنُّ بِالْغَيْبِ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحَاوِرُونَكَ  
فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۵ مَلْعُونِينَ ۵ إِنْ مِمَّا تُغْفَرُونَ أَوْ خِدُوا  
وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا ۵

۱۰- يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَبَشِّرُهُمْ ذَلِكَ  
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۵ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۵

(وہ بھی) پھنکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے۔ اور  
جان سے مار ڈالے گئے ۵

--- ﴿سورة الاحزاب آیت ۶۰﴾ ---

۱۰۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان  
کے ایمان) کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے  
(تو ان سے کہا جائے گا کہ) تم کو بشارت ہو (کہ آج تمہارے  
لئے) باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہو  
گے یہی بڑی کامیابی ہے ۵



تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ  
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ  
 لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا  
 وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ۝ فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ سُورَةٌ بَابٌ  
 بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝  
 يُنَادُوا لَهُمْ لَعْنُ مَعْلَمٍ ۝ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتِنًا  
 أَنْفُسِكُمْ ۝ وَتَرْتَمَتُمْ وَأَنْتُمْ تَخْفَوْنَ ۝ وَعَذَّبْنَا  
 الْأَمَانِيَّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ  
 اللَّهِ ۝ وَعَذَّبْنَاكُمْ بِاللَّهِ الْعَزُورِ ۝ فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ  
 مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ أَمَا لَكُمْ التَّارُوتُ  
 وَبَنِي الْمِصْيَرِ ۝

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ  
 ہماری طرف نظر (شفقت) کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی  
 حاصل کریں ۝

تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کولوٹ جاؤ اور (وہاں) نور تلاش  
 کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس  
 میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو  
 رحمت ہے اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب  
 (واذیت) ۝

تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم (دنیا میں) تمہارے  
 ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا  
 میں ڈالا اور (ہمارے حق میں حوادث کے) منتظر رہے اور (اسلام  
 میں) شک کیا اور (الاطائل) آرزوؤں نے تم کو دھوکا دیا یہاں  
 تک کہ خدا کا حکم آپہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو (شیطان)  
 دعا باز و دعا دیتار ہا ۝

تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ (وہ) کافروں ہی سے

(قبول کیا جائے گا) تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے (کہ) وہی

تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے ۝

--- ﴿سورة الحمد آیت ۱۵ تا ۱۲﴾ ---

## منصب نبوت

۱۔ جس طرح (مجملہ اور نعمتوں کے) ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب (یعنی قرآن) اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے ۵

--- ﴿سورة البقرة آیت ۱۵۱﴾ ---

۲۔ اے پیغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا) اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا بیشک خدا مکروں کو ہدایت نہیں کرتا ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۶۷﴾ ---

۳۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف (پیغام خدا کا) پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۹۹﴾ ---

۴۔ وہ جو (محمد) رسول (اللہ) کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے

۱- كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

۲- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

۳- مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝

۴- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِينُ الَّذِي يَجِدُونَ فِي سُنُّهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کیلئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان (کے سر) پر (اور گلے میں) تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۱۵۷﴾ ---

## من وسلوی

۱۔ اے آل یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لئے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوی نازل کیا ۵

(اور حکم دیا کہ) جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا اور نہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا ۵ اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا ۵

--- ﴿سورۃ ط آیت ۸۱﴾ ---

۱- یٰۤاٰیۤتِۤیۤ اِسْرَآءِیۡلَ قَدْ اٰنۡجٰنٰکُمۡ مِّنۡ عَدُوِّکُمْ وَاَعَدۡنَا لَکُمۡ جَانِبَ الطُّورِ الْاَیۡمٰنَ وَنَزَّلۡنَا عَلَیۡکُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلٰوٰی ۝ کُلُوۤا مِمَّنۡ طَیَّبَتۡ مَا رَزَقۡنٰکُمۡ وَلَا تَطۡغَوۡا فِیۡہِ فِیۡحَیۡۃِ عَلَیۡکُمۡ عَظٰیۡۃٌ ۚ وَمَنۡ یَّجۡلِلِ عَلَیۡہِ عَظٰیۡۃٌ فَقَدۡ هَوٰی ۝

۱- وَمَا كَانَ لِتَقِیۡنَ اَنْ تَمُوۡتَ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰہِ کِتٰبًا مَّوۡجَّہًا ۝  
 ۲- اٰیۡنَ مَا تَلۡکُمۡ نُوۡا یُدۡرِکُکُمُ الْمَوۡتُ وَلَکُمۡ فِیۡہِۃٌۢ بَرُوۡۤجٌ مَّشٰیۡدَۃٌ ۝  
 ۳- وَہُوَ الْقَٰہِرُ فُوۡقَ عِبَادِہٖ وَیُرِیۡسِلُ عَلَیۡکُمۡ حَفَظَۃً ۝ ط حٰتٰی اِذَا جَآءَ اَحَدَکُمُ الْمَوۡتُ تُوۡفِیۡتُہٗ رُسُلَنَا وَہُمۡ لَا یَعۡرِطُوۡنَ ۝  
 ۴- وَکُوۡ تَرٰی اِذِ الظَّٰلِمُوۡنَ فِیۡ عَمۡرَتِ الْمَوۡتِ وَالْمَلٰٓئِکَۃُ

## موت

۳۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے ۵

--- ﴿سورۃ الانعام آیت ۶۱﴾ ---

۴۔ اور کاش تم ان ظالم (یعنی مشرک) لوگوں کو اس وقت دیکھو

۱۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے (اس نے موت کا) وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے ۵

--- ﴿سورۃ آل عمران آیت ۱۴۵﴾ ---

۲۔ (اے جہاد سے ڈرنے والو) تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ بڑے بڑے مخلوق میں رہو ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۷۸﴾ ---

من وسلوی: مزید حوالے: البقرہ: ۵۷

جب موت کی تختیوں میں (بتلا) ہوں اور فرشتے (ان کی طرف عذاب کیلئے) ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں۔ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اسلئے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے ۵

اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے اور جو (مال و متاع) ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے (شفیع اور ہمارے) شریک ہیں (آج) تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعویٰ تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۹۳-۹۴﴾ ---

۵۔ اور ہر ایک فرقے کے لئے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے جب وہ آجاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۳۳﴾ ---

۶۔ اور (اے پیغمبر)) ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ۵ ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے ۵

--- ﴿سورة الانبياء آیت ۳۳-۳۵﴾ ---

۷۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری رو میں

بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ  
الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ  
آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ  
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى  
مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ  
تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

5- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ  
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

6- وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَقَابِينَ وَمَتَّعَهُمُ  
الْخُلْدُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ  
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۝ وَاللَّيْنَةُ تُرْجَعُونَ ۝

7- قُلْ يَتَوَقَّعُ مَلَائِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ  
تُرْجَعُونَ ۝

8- اللَّهُ يَتَوَقَّعُ الْإِنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا  
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطَّعَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ

قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے ۵

--- ﴿سورة السجده آیت ۱۱﴾ ---

۸۔ خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی رو میں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں (ان کی رو میں) سوتے ہیں (قبض کر لیتا ہے) پھر جن پر موت کا حکم کر چکا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کیلئے چھوڑ دیتا ہے جو لوگ فکر کرتے

ہیں ان کیلئے اس میں نشانیاں ہیں ۵

--- ﴿سورة الزمر آیت ۴۲﴾ ---

۹۔ اور موت کی بیہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگئی۔ (اے انسان) یہی (وہ حالت ہے) جس سے تو بھاگتا تھا ۵

--- ﴿سورۃ ق آیت ۱۹﴾ ---

۱۰۔ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس (بات) سے عاجز نہیں ۵

کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں ۵

--- ﴿سورۃ الواقعة آیت ۶۰﴾ ---

۱۱۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے (خدا) کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا ۵

--- ﴿سورۃ الجحد آیت ۸﴾ ---

۱۲۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے ۵

--- ﴿سورۃ المنافقون آیت ۱۱﴾ ---



أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٩﴾  
 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٠﴾  
 نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۖ عَلَىٰ أَنْ  
 نُكَيِّدَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾  
 قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ  
 تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾  
 وَلَنْ يَجْرَأَ اللَّهُ أَنْفُسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾



دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ (اور) نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو

غفلتند ہیں ۰

--- ﴿سورة الزمر آیت ۹﴾ ---

۶۔ بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کیلئے کھول دیا ہو اور وہ اپنے

پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو (تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح

ہو سکتا ہے) پس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت

ہور ہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں ۰

--- ﴿سورة الزمر آیت ۲۲﴾ ---

۷۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے

نیکو کار اور نہ بدکار برابر ہیں (حقیقت یہ ہے کہ) تم بہت کم

غور کرتے ہو ۰

--- ﴿سورة المؤمن آیت ۵۸﴾ ---

۸۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم

ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک

کرتے ہے (اور) ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی۔ یہ جو

دعویٰ کرتے ہیں برے ہیں ۰

--- ﴿سورة الباقیة آیت ۲۱﴾ ---

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ لَئِيَّا بَابٍ ۞

6- أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۗ  
فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ  
مُّبِينٍ ۝

7- وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ۝

8- أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ وَمَا يُجْعَلُونَ ۗ

9- لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ أَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ هُمُ الْقَائِمُونَ ۝

10- أَفَمَنْ يَتَّبِعِ مَكِيدَاتِنَا عَلَىٰ وَجْهِ آهْدَىٰ أَمَّنْ يَتَّبِعِ سَوِيًّا  
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝



۹۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں۔ اہل بہشت تو کامیابی

حاصل کرنے والے ہیں ۰

--- ﴿سورة المشر آیت ۲۰﴾ ---

۱۰۔ بھلا جو شخص چلتا ہو امنہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے

پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟ ۰

--- ﴿سورة الملک آیت ۲۲﴾ ---



## مومن اور متقی کی صفات

۱۔ الم۔ یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں (کہ کلام خدا ہے۔ خدا سے) ڈرنے والوں کی رہنما ہے ۵

جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۵

اور جو کتاب (اے محمد) تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے (پیغمبروں پر) نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں ۵

یہی لوگ اپنے پروردگار (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں

﴿سورة البقرہ آیت ۵۲﴾

۲۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے

اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۱۶۵﴾

۳۔ جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے

محفوظ رکھ ۵

۱۔ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝  
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ  
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۝ وَالْآخِرَةُ  
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

۲۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ  
يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعَذَابِ ۝

۳۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ  
وَالْقَنِيتِينَ ۝ وَالْمُنْفِقِينَ ۝ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝

۴۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ  
يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

یہ وہ لوگ ہیں جو (مشکلات میں) صبر کرتے اور سچ بولتے اور  
عبادت میں لگے رہتے اور (راہ خدا میں) خرچ کرتے اور  
اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں ۵

﴿سورة آل عمران آیت ۱۶۷﴾

۳۔ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا  
عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو (خدا سے) ڈرنے  
والوں کے لئے تیار کی گئی ہے ۵

جو آسودگی اور ننگی میں (اپنا مال خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں  
اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا

نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے ۵

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۳۳﴾ ---

۵۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ۵

(اور) وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس

میں سے (نیک کاموں میں) خرچ کرتے ہیں ۵

یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لئے پروردگار کے ہاں (بڑے

بڑے) درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲۴﴾ ---

۶۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جائیں اور ان کے مال خرید لئے

ہیں (اور انکے) عوض میں ان کے لئے بہشت (تیار کی) ہے یہ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝  
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا  
اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِدُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا  
اللَّهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

۵۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا  
تَلَّيْتْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ  
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۗ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

۶۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ  
لَّهُمُ الْجَنَّةَ ۗ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۗ  
وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ  
أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي  
بَالَيْعَتُمْ بِهِ ۗ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ أَلَمْ يَكُنْ  
الْعَيْدُونَ الْحَمْدُ وَالنَّاسُ كُفُورًا ۗ

لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے

بھی ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا

پورا کرنا اسے ضرور ہے اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون

ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی

بڑی کامیابی ہے ۵

توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے۔ حمد کرنے والے

روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے ۵



نیک کاموں کا امر کرنے والے بری باتوں سے منع کرنے والے  
خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے (یہی مومن لوگ ہیں)  
اور اے پیغمبر مومنوں کو (بہشت کی) خوشخبری سنا دو

— ﴿سورة التوبآیت ۱۱۳﴾ —

۷۔ جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے  
اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا  
ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور  
برے حساب سے خوف رکھتے ہیں

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے (مصائب پر)  
صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے ان کو  
دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے  
برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے عاقبت کا

گھر ہے

— ﴿سورة الرعدآیت ۲۷﴾ —

۸۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز  
پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے  
کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے  
اختیار میں ہے

— ﴿سورة الحج آیت ۳۱﴾ —

الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

۷- الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ  
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ  
رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ  
وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى  
الدَّارِ

۸- الَّذِينَ إِذْ مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

۹- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ  
فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُهِهُمُ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى  
أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ

۹۔ بیشک ایمان والے راستگار ہو گئے

جو نماز میں عاجز و نیاز کرتے ہیں

اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں

اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں

اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں

مگر اپنی بیویوں سے یا (کنیزوں سے) جو ان کی ملک ہوتی ہیں

کہ (ان سے مباشرت کرنے سے) انہیں ملامت نہیں

اور جوان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ (خدا کی مقرر کی ہوئی) حد سے نکل جانے والے ہیں ۵

اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں ۵

اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ۵

یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں ۵

(یعنی) جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے۔ (اور) اس میں ہمیشہ رہیں گے ۵

--- سورة المؤمنون آیت ۱۱۱ ---

۱۰۔ اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں ۵

اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور (عجز و ادب سے) کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں ۵

اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار روزخ کے عذاب و ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے ۵

اور روزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے ۵

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس

ابْتغَىٰ وَرَاعَىٰ لَكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُغَيِّبُونَ  
وَعَهْدٌ عَلَيْهِمْ يُسِرُّونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ۝

10- وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ

هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝

وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ لَيْسَ لَهُمْ سُبْحًا وَوَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرُفَ عَلَيْنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۝ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

عَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا

انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

يَلْقَ أَكْرَامًا ۝ يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ

مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَ

جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز

طریق (یعنی شریعت کے حکم) سے اور بدکاری نہیں کرتے۔

اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا ۵

قیامت کے دن اس کو دو ناعذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے

ہمیشہ اس میں رہے گا ۵

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کئے تو ایسے لوگوں

کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے

والا مہربان ہے ۵

اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بیشک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے ۵

اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں ۵

اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے (بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں) ۵

اور وہ جو (خدا سے) دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے (دل کا چین) اور اولاد کی طرف سے آنکھ

کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا ۵

ان (صفات) کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیئے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے

ساتھ ملاقات کریں گے ۵

اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے ۵

--- سورة الفرقان آیت ۶۲-۶۷ ---

۱۱۔ (جو لوگ خدا کے آگے سراطاعت ختم کرنے والے ہیں یعنی) مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور

فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی

کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے

مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَاتِلًا يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝  
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝  
وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْزُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝  
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا  
صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ شَاءُوا وَسَلَامًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتٌ  
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

۱۱۔ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ  
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ  
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِئِيْنَ وَالصَّابِئَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ  
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  
اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

۱۲۔ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَمَا  
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْتُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ

شک نہیں کہ ان کے لئے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۵

--- سورة الاحزاب آیت ۳۵ ---

۱۳۔ (لوگو) جو (مال و متاع) تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا (ناپائیدار) فائدہ ہے اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم

رہنے والا ہے (یعنی) ان لوگوں کیلئے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ۵

اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں ۵ اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۵ اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم (و تعدی) ہو تو (مناسب طریقے سے) بدلہ لیتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الشوریٰ آیت ۳۶-۳۹﴾ ---

۱۳۔ محمد خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خدا کے آگے) جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں (کثرت) سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ (وہ) گویا ایک کھیتی ہیں جس نے (پہلے زمین سے) اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلانے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الفتح آیت ۲۹﴾ ---

يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كَلِمَةَ الْإِيمَانِ وَالْقَوَاعِصِ  
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ  
وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُقْفُونَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝  
13- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۝ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ  
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا  
بِمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَلْوَانٍ سُوِّدًا ۝ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۝  
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۝ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَعَهُ  
فَأَسْتَفْظَ ۝ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْفَةٍ يَغْبُطُ الزُّرَّاعَ لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ  
وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ قَفْرًا وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝  
14- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ  
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا  
مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَفِي  
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ۝

۱۴۔ بیشک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں (بیش کر رہے) ہونگے ۵ (اور) جو جو (نعمتیں) ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے ۵ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے ۵ اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے ۵ اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (دونوں) کا حق ہوتا ہے ۵

--- ﴿سورۃ الذاریات آیت ۱۵-۱۶﴾ ---

## مہر

۱۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھا لو ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۴﴾ ---

۲۔ مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اور (دیکھنا) اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو انہیں (گھروں میں) مت روک رکھنا ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں (تو روکنا مناسب نہیں) اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو ہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے ۵

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لیتا۔ بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو گے؟ ۵

اور تم دیا ہوا مال کیونکر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد و امان بھی لے چکی ہیں ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۱﴾ ---

۱- وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۵

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَنِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۵ وَإِن أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهَا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَتَائِكُمْ وَلَئِنَّمَا مُمِيتًا ۵ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ وَقَدْ أَقْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّمَّا قَالُوا غَلِيظًا ۵

۳- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۵ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۵

۴- قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِيُكُونَ عَلَيْكَ حَرَجًا ۵ وَكَانَ اللَّهُ

۳۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کرو اور اگر مقرر کر نیلے بعد آپس کی رضا مندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ بیشک خدا سب کچھ جاننے والا ۵ (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۲﴾ ---

۴۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو (مہر واجب الادا) مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے (یہ) اس لئے (کیا گیا ہے) کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے اور خدا

بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورة الاحزاب آیت ۵۳﴾

۵۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو (یعنی کفار کو واپس دے دو) اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کئے دیتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے ۵

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے (اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو پھر تم ان سے جنگ کرو) اور ان سے تم کو نفیست ہاتھ لگے (تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو) (اس مال میں سے) اتنا دیدو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو ۵

عَفُورًا رَّحِيمًا ۵

5- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ نَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَلَا تُسَيِّئُوا بِعَيْصِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَأَقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِمَّنْ لَكُمْ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَاللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِذْنِهِ ۚ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَمِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِنِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَأْذِنُ مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْنِي مِنَ الْحَقِّ ۗ

## مہمان نوازی

کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی تھی۔ اور وہ تم سے شرم کرتے تھے (اور کہتے نہیں تھے) لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا ۵

﴿سورة الاحزاب آیت ۵۳﴾

۱۔ مومنو! پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب

۲۔ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے بھی (جواب

میں) سلام کہا (دیکھا تو) ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان

تو اپنے گھر جا کر ایک (بھنا ہوا) موٹا بچھڑا لائے

(اور کھانے کیلئے) ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول

کیوں نہیں کرتے؟

اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ

کھینچے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی

--- ﴿سورۃ الذاریات آیت ۲۳ تا ۲۸﴾ ---

## میاں بیوی کے جھگڑے

۱۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف

مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں

سے مقرر کرو وہ اگر صلح کر ادینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت

پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں

سے خبر دار ہے

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۳۵﴾ ---

۲۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی

کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرار داد

پر صلح کر لیں اور صلح خوب (چیز) ہے اور طبیعتیں تو بخل کی طرف

مہمان نوازی: القمر: ۳۷- نیز دیکھئے: میاں بیوی کے حقوق و فرائض

2- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ الْهَيْمِ الْمَكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ قَرَأَرْنَا لِي أَهْلِيهِمْ فَبَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَتَسْكُرُوا بِعِلْمِ عَلِيمٍ



1- وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

2- وَإِنْ أَمْرًا تَخَافْتُمْ مِنْ بَعْضِهِمَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

3- وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

مائل ہوتی ہیں اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا

تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۲۸﴾ ---

۳۔ اور اگر میاں بیوی (میں موافقت نہ ہو سکے) اور ایک

دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی

کر دے گا۔ اور خدا بڑی کشائش والا (اور) حکمت والا ہے

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۱۳۰﴾ ---



## میاں بیوی کے حقوق و فرائض

1- وَكُنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْكَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

2- لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَاللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

3- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۗ وَاللّٰهُ يَفْضِلُ الَّذِي هُوَ عَلَى بَعْضٍ  
وَّهِيَ اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

1۔ اور عورتوں کا حق (مردوں پر) ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق (مردوں کا حق) عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے ۵

﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۲۸﴾

۲۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کئے۔ اور خدا سے اس کا فضل (دکرم) مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۳۲﴾

۳۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لئے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں ۵

﴿سورۃ النساء آیت ۳۳﴾



## میانہ روی

۱۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا (یعنی بہت تنگ) کر لو  
(کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں) اور نہ بالکل ہی کھول دو کہ سبھی کچھ  
دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ  
جاوے

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۹﴾ ---

۲۔ اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا  
طریقہ اختیار کرو

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۱۰﴾ ---

۳۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بچاڑاتے ہیں اور نہ تنگی  
کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ  
نہ کم

--- ﴿سورۃ الفرقان آیت ۶۷﴾ ---

۴۔ اور اپنی چال میں اعتدال کے رہنا اور (بولتے وقت) آواز  
نیچی رکھنا کیونکہ (اوپنی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں  
کہ) سب سے بری آواز گدھوں کی ہے

--- ﴿سورۃ لقمان آیت ۱۹﴾ ---

۱- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا  
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿١﴾  
۲- وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٢﴾  
۳- وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ  
ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٣﴾  
۴- وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ  
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٤﴾

## بیثاق

۱۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ تو چند شخصوں کے سوا تم سب (اس عہد سے) منہ پھیر کر پھر بیٹھے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۸۲﴾ ---

۲۔ اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد (پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر پیرا ذمہ لیا (یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا) انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا۔ (خدا نے) فرمایا کہ تم (اس عہد و بیان کے) گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۸۱﴾ ---

۳۔ تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات (کتاب) کو اپنے

۱- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

۲- وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۗ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

۳- فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَتَسُوأ حَقًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرْنَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ

مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی (ایک نہ ایک) خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور (ان سے) درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۵

اور جو لوگ (اپنے تئیں) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے

لئے دشمنی اور کینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۱۳۱﴾ ---

۴۔ پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ (بے تامل) اس دنیائے ادنیٰ کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیئے جائیں گے اور (لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں) اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آجاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس (کتاب) میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے اور آخرت کا گھر پر بہزگاروں کیلئے بہتر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ۵

--- ﴿سورة الاعراف آیت ۱۶۹﴾ ---

۵۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے۔ وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو (جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین (کے معاملات) میں مدد طلب

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

۴- فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوهَا ۚ أَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالذَّارِ الْأَخِيرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝  
۵- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَتَصَرَّوْا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝  
۶- الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۗ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ

کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے۔ مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں (صلح کا) عہد ہو (مدد نہیں کرنی چاہئے) اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۷۲﴾ ---

۶۔ جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے ۵ اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں ۵



## ناپ تول

۱۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا) تو انہوں نے کہا کہ اے قوم! خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور (اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو) مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا ۵  
اور قوم! ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو ۵

اگر تم کو (میرے کہنے کا) یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لئے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں ۵

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۸۶ تا ۸۳﴾ ---

۲۔ اور جب (کوئی چیز) ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور (جب تول کر دو تو) ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۳۵﴾ ---

۳۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الانبیاء آیت ۲۷﴾ ---

۱۔ وَآلِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْقُرُوا عَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُونَ ۝ وَيَقُولُوا قِفُوا هَذَا بِالْمِيزَانِ ۖ وَلَا تَجْسُوا النَّاسَ بِأَشْيَاءِهِمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفسِدِينَ ۖ يَكْتُمُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ ۲۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلتُمْ وَرَبُّوْا بِالْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

۳۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَلَّمْنَا بِهَا حُسَيْنًا ۝

۴۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعْنَا وَوَضَعْنَا الْمِيزَانَ ۖ ۚ أَلَّا تَقْفُوا فِي الْمِيزَانِ ۖ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۖ ۝ ۵۔ وَيَلِّ لِّلْمُطْفِفِينَ ۖ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ ۚ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۖ ۚ

۳۔ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی ۵

کہ ترازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو ۵

اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو۔ اور تول کم مت کرو ۵

--- ﴿سورۃ الرحمن آیت ۹۲﴾ ---

۵۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لئے خرابی ہے ۵

جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں ۵

اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں ۵

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے ۵

(یعنی) ایک بڑے (سخت) دن میں ۵

جس دن (تمام) لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونگے ۵

--- ﴿سورة المطففين آیت ۶۲﴾ ---

## ناسخ و منسوخ

۱۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۰۶﴾ ---

۲۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر (اسکا یہ حال تھا کہ) جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں (وسوسہ) ڈال دیتا تھا تو جو (وسوسہ) شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے۔ پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور خدا علم والا (اور) حکمت والا ہے ۵

غرض (اس سے) یہ ہے کہ جو (وسوسہ) شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے۔ بے شک ظالم پر لے درجے کی مخالفت میں ہیں ۵

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۖ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۙ  
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ

۱۔ مَا نَسَخْنَا مِنْ آيَةٍ وَأَنْدَسَهَا نَاتٍ بَخِيرٍ قَبْلِهَا أَوْ مَثَلًا لِّمَنْ  
تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ

۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ  
إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ الْفُلَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۙ

فَيَسَّخِرُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ ۙ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ

فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ  
قُلُوبُهُمْ ۙ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۙ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ  
فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۙ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۙ

(یعنی وحی) تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۵۳﴾ ---

## ناشکری

۱۔ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کونسی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا (پھر) ملنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی ۵

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو ناامید (اور) ناشکرا (ہو جاتا) ہے ۵

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو (خوش ہو کر) کہتا ہے کہ (آہا) سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بیشک وہ خوشیاں منانے والا (اور) فخر کرنے والا ہے ۵

--- ﴿سورۃ ہود آیت ۱۰ تا ۱۸﴾ ---

۲۔ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو ۵

پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں ۵

تاکہ جو (نعمتیں) ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو (مشرکوں) دنیا میں فائدے اٹھا لو عنقریب تم کو (اس کا انجام) معلوم ہو جائے گا ۵

--- ﴿سورۃ النحل آیت ۵۵ تا ۵۷﴾ ---

۳۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے (یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے) تو جن کو تم پکارتے ہو سب اس (پروردگار) کے سوا گم

۱۔ وَلَئِن آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوقًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ وَلَئِن آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِتْنَهُ لَيَتَوَّسَّ كُفُورًا ۝ وَلَئِن آذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّآءٍ مَّسْتَهْلِكَةٍ لَّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۝ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝

۲۔ وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرْفُ فَأَلْیَبُوا تَحْوِرُونَ ۝ ثُمَّ إِذَا كُفَّ الضَّرْعُ عَنْكُمْ أَذْفَرُوا فَأَفْرَقُوا مِّنْكُمْ بَرِيئًا يَشْكُرُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

۳۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرْفُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاتُنَا ۝ فَلَمَّا أَنْجَلْنَاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۝ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝

۴۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تم کو (ڈوبنے سے) بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہیں اور انسان ہے ہی ناشکرا ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۶۷﴾ ---

۳۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے ۵

تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں سو (خیر) فائدے اٹھا لو عنقریب تم کو (اس کا انجام) معلوم ہو جائے گا ۵

--- ﴿سورۃ الروم آیت ۲۳ تا ۲۴﴾ ---

۵۔ اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پروا ہے اور وہ اپنے بندوں کیلئے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کرو گے تو وہ اسکو تمہارے لئے پسند کرے گا اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے ۵

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا (اور) اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کیلئے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ (لوگوں کو) اس کے رستے سے گمراہ کرے کہہ دو کہ (اے کافر نعمت) اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھالے پھر تو تو دوزخیوں میں ہوگا ۵

— ﴿سورة الزمر آیت ۸۷﴾ —

5- اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى عَنكُم وَاَكْبَرُ لَا يَرْضٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خُوْلَتْ نِعْمَةٌ مِنْهُ لِيَسٰى مَا كَانَ يَدْعُو اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلُوبًا تَمَتَّعَتْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۝ اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ۝

1- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذَنَّا لَهُمْ اَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ حَتَّمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝  
2- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا صُمُّوْا وَكُنْتُمْ فِي الضُّلُمٰتِ مِمَّنْ يَشٰى اللّٰهُ

## نافرمانوں کی مثال

۱۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کیلئے برابر ہے۔

۱۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کیلئے برابر ہے۔

— ﴿سورة البقرہ آیت ۶۷﴾ —

وہ ایمان نہیں لانے کے ۵

۲۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے

خدا نے انکے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں

ہیں (اس کے علاوہ) اندھیرے میں (پڑے ہوئے) ۵

ناشکری: مزید حوالے: یونس: ۱۲-۲۲-۲۳- نبی اسرائیل: ۸۳- الروم: ۵۱- لقمان: ۳۲- الزمر: ۳۹-۵۱- حم السجده: ۳۹-۵۱-

نیز دیکھئے: شکر



جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا

دے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۳۹﴾ ---

۳۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے (حکیم خدا) سن لیا مگر (حقیقت میں) نہیں سنتے ۵

کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گو نکلے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے ۵

اور اگر خدا ان میں نیکی (کامادہ) دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر (بغیر صلاحیت ہدایت کے) سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۲۳﴾ ---

۴۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۵۵﴾ ---

۵۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ کچھ بھی (سنتے) سمجھتے نہ ہوں؟ ۵ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے (بھالتے) نہ ہوں ۵

--- ﴿سورة یونس آیت ۳۳﴾ ---

۶۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا

يُضِلُّهُ ۖ وَمَنْ يَشَأْ يُعَمِّلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

3- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّرُ الْبِكُمْ الَّذِينَ

لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَكُوِّعِلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرٌ إِلَّا سَمِعْتُمْ

وَكَوِّعِلِمْتُمْ لَتَكُونُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝

4- إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ ۝

5- وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الضَّمْمَ وَكُوِّعِلِمْتُمْ

كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تَهْدِي

الْعُمَىٰ وَكُوِّعِلِمْتُمْ لَتَكُونُوا لَا يُبْصِرُونَ ۝

6- وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ

سَبِيلًا ۝

7- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ

نَبَىٰ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ ۖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ

يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ

اور (نجات) کے رستے سے بہت دور ۵

--- ﴿سورة بنی اسرائیل آیت ۷۲﴾ ---

۷۔ اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں نعل (پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں) اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے ۵

--- ﴿سورة الكهف آیت ۵۷﴾ ---

۸۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل (ایسے) ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان (ایسے) ہوتے کہ ان سے سن سکتے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں (وہ) اندھے ہوتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۳۶﴾ ---

۹۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ۵  
یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ ۵  
(نہیں) یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الفرقان آیت ۲۳، ۲۴﴾ ---

۱۰۔ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو (بات) نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو ۵  
اور نہ اندھوں کو گمراہی سے (نکال کر) رستہ دکھا سکتے ہو تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ النمل آیت ۸۱، ۸۰﴾ ---

۱۱۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ۵

فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۵

۸۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۵

۹۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۵  
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۵

۱۰۔ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الضَّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَكُوتَا مُدْبِرِينَ ۵ وَمَا أَنْتَ بِهَدَى الْعُصْبَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۵

۱۱۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۵ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۵ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۵ وَمَا يَسْمَعُ الْأَشْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۵

اور نہ اندھیر اور روشنی ۵

اور نہ سایہ اور دھوپ ۵

اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ خدا جس کو چاہتا ہے سنا

دیتا ہے۔ اور تم ان کو جو قبروں میں (مدفون) ہیں سنا نہیں سکتے ۵

--- ﴿سورۃ قاطر آیت ۲۲، ۱۹﴾ ---

مزید حوالے: البقرہ: ۱۸- الانعام: ۶- ۵۲- ۱۰۴- ۱۲۳- ہود: ۲۳- الرعد: ۱۹- الانبیاء: ۳۵- الفرقان: ۷۳- الروم: ۵۲- ۵۳-

لقمان: ۷- نساء: ۹- المؤمن: ۸۷- نجم السجدہ: ۳۳- الزخرف: ۴۰- محمد: ۲۳- ۲۴

## نامہ اعمال

۱۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو (بہ صورت کتاب) اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اور قیامت کے روز (وہ) کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا ۵  
(کہا جائے گا کہ) اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے ۵

--- ﴿سورۃ نبی اسرائیل آیت ۱۲۱﴾ ---

۲۔ تو جس کا (اعمال) نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائیگا وہ (دوسروں سے) کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ (اعمال) پڑھئے ۵  
مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب (کتاب) ضرور ملے گا ۵  
پس وہ (شخص) من مانے عیش میں ہوگا ۵  
(یعنی) اونچے (اونچے نچے مخلوق کے) باغ میں ۵  
جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ۵  
جو (عمل) تم ایام گذشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ۵  
اور جس کا نامہ (اعمال) اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائیگا وہ کہے گا  
اے کاش مجھ کو میرا (اعمال) نامہ نہ دیا جاتا ۵  
اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے ۵  
اے کاش موت (ابدالاً باد کیلئے میرا کام) تمام کر چکی ہوتی ۵  
(آج) میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ۵

۱- وَكَلَّ إِنْسَانَ الزَّمَنَةَ طَيَّرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنَخَّرَجُ لَهُ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝ إِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ  
كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝  
۲- فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَذَا مَا أقرَّوْا  
كِتَابِيَةَ ۖ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حَسَابِيَةَ ۖ فَهُوَ  
فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۖ  
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۖ  
وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أُوْتِ  
كِتَابِيَةَ ۖ وَلَمْ أَدْرِمَا حَسَابِيَةَ ۖ يَلَيْتَهَا كَانَتْ  
الْقَاضِيَةَ ۖ مَا آغْنَىٰ عَنِّي مَا لِي ۖ هَلَكَ عَنِّي  
سُلْطَنِيَّةٌ ۖ

۳- وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا  
تَفْعَلُونَ ۖ  
۴- فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَحْسَابُ  
حِسَابًا ۖ يَسِيرًا ۖ وَيَتَقَلَّبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۖ وَأَمَّا

(ہائے) میری سلطنت خاک میں مل گئی ۵

--- ﴿سورۃ الحاقة آیت ۲۹﴾ ---

۳۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں ۵

عالی قدر (تمہاری باتوں کے) لکھنے والے ۵

جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الانفطار آیت ۱۲﴾ ---

۴۔ تو جس کا نامہ (اعمال) اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ۵

اس سے حساب آسان لیا جائے گا ۵

اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا ۵

اور جس کا نامہ (اعمال) اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا

وہ موت کو پکارے گا

اور دوزخ میں داخل ہوگا

--- ﴿سورة الانشقاق آیت ۷-۱۲﴾ ---

۵۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو انکے اعمال

دکھادیئے جائیں

تو جس نے ذرہ بھرتیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا

اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا

--- ﴿سورة الزلزال آیت ۶﴾ ---

## نان و نفقہ

۱۔ (مطلقہ) عورتوں کو (ایام عدت میں) اپنے مقدور کے مطابق

وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کیلئے تکلیف نہ دو

اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر

وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت

دو اور (بچے کے بارے میں) پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو

اور اگر باہم ضد (اور نا اتفاق) کرو گے تو (بچے کو) اس کے (باپ

کے) کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی

مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝

وَيَضَلِّي سَعِيرًا ۝

5- يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسَ أَسْتَاتًا ۗ لِيُؤْذُوا أَعْمَالَهُمْ ۗ فَمَنْ

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

1- أَسَلْتُهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْدِكُمْ وَلَا

تُضَارُّوهُمْ لِنَصِيحَتِنَا عَلَيْهِمْ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأْتُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِئْتَرْتُمْ لَكُمْ آخَرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ

مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

صاحبِ وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اور

جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے

موافق خرچ کرے خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو

اس کو دیا ہے اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشنے گا

--- ﴿سورة الطلاق آیت ۶﴾ ---

نامہ اعمال: مزید حوالے: بنی اسرائیل: ۳۱-۱-۱۳: لطفیقین: ۷-۹-۱۸-۲۱- نیز دیکھئے: اعمال کا دوزخ

نان و نفقہ: نیز دیکھئے: میاں بیوی کے حقوق و فرائض

## نذر

۱۔ اور تم (خدا کی راہ میں) جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نذر مانو۔  
خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۲۷۰﴾ ---

۲۔ اور لوگوں میں حج کے لئے ندا کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور  
دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور (دراز) رستوں سے چلے آتے ہوں  
(سوار ہو کر) چلے آئیں ۵

تاکہ اپنے قائدے کے کاموں کے لئے حاضر ہوں اور (قربانی  
کے) ایام معلوم میں چہار پایاں مویشی (کے ذبح کے وقت) جو  
خدا نے ان کو دیئے ہیں ان پر خدا کا نام لیں۔ اس میں سے تم خود  
بھی کھاؤ اور فقیر در ماندہ کو بھی کھلاؤ ۵

پھر چاہئے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نذریں پوری کریں  
اور خانہ قدیم (یعنی بیت اللہ) کا طواف کریں ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۲۹۲﴾ ---

۳۔ جو نیکو کار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں  
کافور کی آمیزش ہوگی ۵

۱- وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا  
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۵

۲- وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ  
ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۵ لِيَشْهَدُوا  
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى  
مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا  
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۵ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفْتَهُمْ وَلِيُؤْفُوا  
نُدُورَهُمْ وَيُطْلِقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۵

۳- إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۵  
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَيُؤْفُونَ  
بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۵

یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس  
میں سے (چھوٹی چھوٹی) نہریں نکال لیں گے ۵  
یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل  
رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں ۵

--- ﴿سورۃ الدھر آیت ۷۵﴾ ---

## نشہ

۱۔ مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو۔ نماز کے پاس نہ جاؤ ۵

--- ﴿سورۃ النساء آیت ۴۳﴾ ---

۲۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے ۵

(اے مخاطب) جس دن تو اس کو دیکھے گا (اس دن یہ حال ہوگا کہ) تمام دودھ پلانے والی عورتوں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہونگے بلکہ (عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے) بیشک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے ۵

--- ﴿سورۃ الحج آیت ۲۱﴾ ---

## نظر بد

(داخل ہونے کیلئے) باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی نال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی اور بیشک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۵

--- ﴿سورۃ یوسف آیت ۶۷﴾ ---

۱۔ اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا۔ (بیشک) حکم اسی کا ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہئے ۵

اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے

۲۔ اور کافر جب (یہ) نصیحت (کی کتاب) سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے ۵

(اور لوگو) یہ (قرآن) اہل عالم کے لئے نصیحت ہے۔ ۵

﴿سورۃ القلم آیت ۵۲-۵۱﴾

## نفس

۱۔ اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس (امارہ انسان کو) برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے بیشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے ۵

﴿سورۃ یوسف آیت ۵۳﴾

۲۔ ہم کو روز قیامت کی قسم ۵

اور نفس لوامہ کی (کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کئے جائیں گے) ۵

﴿سورۃ القیمہ آیت ۲۱﴾

۳۔ اے اطمینان پانے والی روح! ۵

اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ۵

تو میرے (ممتاز) بندوں میں شامل ہو جا ۵

۲- وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَرْفِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۵

۱- وَمَا أَهْوَىٰ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۵

۲- لَا أُقْسِمُ بِبَيْمَةِ الْقِيَامَةِ ۵ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۵

۳- يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۵ ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً ۵ فادخلي في عبادي ۵ وادخلي جناتي ۵

۴- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۵ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۵ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۵ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۵

اور میری بہشت میں داخل ہو جا ۵

﴿سورۃ النجم آیت ۲۴-۲۳﴾

۳۔ اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا ۵

پھر اس کو بدکاری (سے بچنے) اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی ۵

کہ جس نے (اپنے) نفس (یعنی روح) کو پاک رکھا وہ مراد کو

پہنچا ۵

اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا ۵

﴿سورۃ الشمس آیت ۱۰-۹﴾

## نکاح

۱۔ اور (مومنو) مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا۔ کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے اور (اسی طرح) مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا۔ کیونکہ (مشرک مرد) سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ (مشرک لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں ۵

﴿سورة البقرہ آیت ۲۲۱﴾

۲۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دودو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جسکے تم مالک ہو اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے ۵

﴿سورة النساء آیت ۳﴾

۳۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے

۱- وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَلَا مِمَّا مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَكَوْنُوْا عَجِبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۗ وَكَعْبِدُ مُمُوْمِيْنَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَكَوْنُوْا عَجِبْتُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۗ وَيُبَيِّنُ اِلَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۗ  
 2- وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسُطُوْا فِى الْيَمِيْنِ فَاَلْجُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْبِئْسَاءِ مَثْوًى ۗ وَتِلْكَ رُبِّيْعٌ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةٌ ۙ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوِلُوْا ۗ  
 3- وَلَا تَنْكُحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ الْبِئْسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۙ وَمَقْتًا ۙ وَسَاءَ سَبِيْلًا ۙ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخْوَالُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرِیَّاءُكُمْ ۗ اللَّاتِيْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۗ فَلَا

نکاح نہ کرنا مگر (جاہلیت میں) جو ہو چکا (سو ہو چکا) یہ نہایت بے

حیائی اور (خدا کی) ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا ۵

تم پر تمہاری ماں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں

اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ ماں جنہوں نے تم کو دودھ

پلایا ہو اور رضاعی بہنیں اور سائیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن

عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم

پرورش کرتے ہو (وہ بھی تم پر حرام ہیں) ہاں اگر ان کے ساتھ

تم نے مباشرت نہ کی ہو تو (ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح



کر لینے میں) تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور تمہارے ضلبی بیٹوں کی عورتیں بھی۔ اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے) مگر جو ہو چکا (سو ہو چکا) بے شک خدا بخشنے والا (اور) رحم والا ہے ۵

اور شوہر والی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں) مگر وہ جو (اسیر ہو کر لوٹریوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں آجائیں (یہ حکم) خدا نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان (محرمات) کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو بشرطیکہ (نکاح سے) مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۳ تا ۲۴﴾ ---

۳۔ آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی (حلال ہیں) جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا ۵

--- ﴿سورة المائدہ آیت ۵﴾ ---

جَمَاعَةً عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَتَّخِذُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ  
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مَعْزِرِينَ  
أَخْدَانِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ  
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

4- الْزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا  
يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝  
6- وَاللَّكُفُورُ الْأَيْمَانِي مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأَمَّا بَلَّغْتُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

۵۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ (یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا) مومنوں پر حرام ہے ۵

۶۔ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں (نکاح کر دیا کرو) اگر وہ مفلس ہو گئے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا اور

خدا (بہت) وسعت والا (اور سب) کچھ جاننے والا ہے ۵

اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاکدامنی کو اختیار کئے (رہیں)

یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے ۵

--- سورة النور آیت ۳۲-۳۳ ---

## نور

۱- یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے (پھونک مار کر) بجھا دیں اور خدا اپنے نور کو پورا کئے بغیر رہنے کا نہیں۔ اگرچہ کافروں کو برائی لگے ۵

--- سورة الف آیت ۸ ---

۲- خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل (ایسی صاف شفاف ہے کہ) گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلا یا جاتا ہے (یعنی) زیتون کہ نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے (بڑی) روشنی پر روشنی (ہو رہی ہے) خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور خدا (جو) مثالیں بیان فرماتا ہے (تو) لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اور خدا ہر چیز

وَأَسِعَ عَلَيْهِمْ ۝ وَكَانَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا  
حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝

يُؤَيِّدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ  
نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمَشْكُوفَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  
الْمِصْبَاحُ فِي رُجَا حَةٍ ۝ الرُّجَا حَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ  
يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا  
عَرَبِيَّةٌ ۝ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ۝ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ  
عَلَىٰ نُورٍ ۝ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۝ وَيَضْرِبُ اللَّهُ  
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۝ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

أَقْبَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَكَ لِالإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ  
رَّبِّهِ ۝ قَوْلٌ لِّلْقَاسِمِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۝ أُولَٰئِكَ  
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

سے واقف ہے ۵

--- سورة النور آیت ۳۵ ---

۳- بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لئے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو (تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے) پس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہے ۵

--- سورة الزمر آیت ۲۲ ---

نکاح: مزید حوالے: البقرہ: ۱۰۴-۲۲۸-النساء: ۱۹-۲۵-۱۲۹-۱۳۰-النور: ۲۶-الممتحنہ: ۱۰-۱۲

نیز دیکھیے: تعدد ازواج - طلع - طلاق - کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں - کن عورتوں سے نکاح جائز ہے

## نیک اعمال کی جزاء

۱۔ جو شخص نیک اعمال کریگا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۹۷﴾ ---

۲۔ اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کے ہو گئے تو ایسے لوگوں کے لئے اونچے اونچے درجے ہیں ۵

(یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا ۵

--- ﴿سورة طہ آیت ۷۵﴾ ---

۳۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی دیا ہی ملے گا اور جو نیک کام کریگا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا ۵

--- ﴿سورة المؤمن آیت ۲۰﴾ ---

۴۔ مومنو! خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے اور تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة الحدید آیت ۲۸﴾ ---

۱- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنَجْزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۲- وَمَنْ يَأْتِهِمْ مُّؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ  
الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جَدُّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَنْ تَزَكَّىٰ ۝

۳- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا حِيَزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ  
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا  
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

۵- الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرُ الَّذِينَ  
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ حَدُّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ ۝

۵۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں ۵

ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ابداً ابادان میں رہیں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ (صلہ) اس کیلئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے ۵

--- ﴿سورة البینة آیت ۸۷﴾ ---

## نیکی

۱۔ (یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کئے دیتے ہو حالانکہ تم کتاب (خدا) بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں؟

--- ﴿سورة البقرة: آیت ۲۲﴾ ---

۲۔ اور ہر ایک (فرقے) کیلئے ایک سمت (مقرر) ہے جدھر وہ (عبادت کے وقت) منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو تم جہاں ہو گے خدا تم سب کو جمع کرے گا بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے

--- ﴿سورة البقرة: آیت ۱۲۸﴾ ---

۳۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب (کو قبلہ سمجھ کر ان) کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور (خدا کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور قییموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں (کے چھڑانے) میں (خرچ کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کا رزار کے وقت ثابت قدم

۱۔ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ؕ

۲۔ وَلٰكِنْ وَّجْهَةٌ هُوَ مَوْلٰیہَا فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ؕ اِنَّ مَّا تَكُوْنُوْنَ اِیَّاتٍ بِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَمِیْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ؕ

۳۔ لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتٰبِ وَالرَّسُوْلِ ؕ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰی حُبِّہٖ ذَوٰی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالسَّكِیْنِ وَالْبِنِ السَّبِیْلِ ؕ

وَالسَّآلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ ؕ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ؕ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِہُمْ اِذَا عٰهَدُوْا ؕ وَالصَّٰبِرِیْنَ فِی

الْبَآسِءِ وَالضَّرَآءِ وَحِیْنَ الْبَآسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ؕ

۴۔ وَكَيْسَ الَّذِیْۤ اٰنَ تَاْتُوْا الْبِیُوْتِ مِنْ ظُھُوْرِہَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰتَى الْبِیُوْتِ مِنْ اَبْوَابِہَا وَاَقْوَمَ الصَّلٰوةَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ؕ

رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (خدا سے) ڈرنے والے ہیں

--- ﴿سورة البقرة: آیت ۱۷۷﴾ ---

۳۔ اور نیکی اس بات میں نہیں کہ (احرام کی حالت میں) گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکو کار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو

اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ

--- ﴿سورة البقرة: آیت ۱۸۹﴾ ---

۵۔ (مومنو!) جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں (راہ خدا میں) صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۹۲﴾ ---

۶۔ جو آسودگی اور تنگی میں (اپنا مال خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے ۵

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۱۳۳﴾ ---

۷۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقاء پہلو (یعنی پاس بیٹھے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور) تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۳۶﴾ ---

۸۔ اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور

۵۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

۶۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِبِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسَيْنِينَ ۝

۷۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

۸۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝  
۹۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

۱۰۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ

خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے ۵

--- ﴿سورة المائدہ: آیت ۲﴾ ---

۹۔ جو لوگ نیکو کار ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے ۵

--- ﴿سورة النحل آیت ۳۰﴾ ---

۱۰۔ خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں

سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور) تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو ۵

﴿سورۃ النحل آیت ۹۰﴾

۱۱۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے ۵

اور یہ بات ان ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں ۵

﴿سورۃ حم السجدہ آیت ۲۵﴾

۱۲۔ جو نیک کام کریگا تو اپنے لئے اور جو برے کریگا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ۵

﴿سورۃ حم السجدہ آیت ۲۶﴾

### نیند

۱۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا ۵

﴿سورۃ الفرقان آیت ۴۷﴾

يَهَيِّئُ عَنِ الْقَسَمَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۖ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

۱۱۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۖ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝  
۱۲۔ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝



۱۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَأْسَؤُا وَالتَّوَمَّاتَ لِتُبَيِّنَ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝  
۲۔ وَ مِنْ آيَاتِهِ مَنَّا مُكِّمًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝  
۳۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَأْسَؤًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمُ سُبُعًا ۖ سُدَادًا ۝

۲۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اسکے فضل کا تلاش کرنا جو لوگ سنتے ہیں ان کیلئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں ۵  
﴿سورۃ الروم آیت ۲۳﴾

۳۔ اور نیند کو تمہارے لئے (موجب) آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا ۵  
اور دن کو معاش (کا وقت) قرار دیا ۵

﴿سورۃ النباء آیت ۱۱۶﴾

تفسیر: عزید حوالے: البقرہ: ۳-۱۹۵-۲۶۱-۲۶۳-آل عمران: ۱۱۵-النساء: ۱۱۳-الاعراف: ۵۷-یونس: ۲۶-طہ: ۱۱۳-المومنون: ۹۶-القصص: ۲۳

## والدین کے حقوق

۱۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھا پے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا ۵

اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں (شفقت سے) پرورش کیا ہے تو بھی ان (کے حال) پر رحمت فرما ۵

--- ﴿سورۃ بنی اسرائیل آیت ۲۳﴾ ---

۲۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف نہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے (پھر اس کو دودھ پلاتی ہے) اور (آخر کار) دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے (اپنے نیز) اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی (کہ) تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے ۵

اور اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا۔ ہاں دنیا (کے کاموں) میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری

۱- وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رِبَّكَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِقْرَابًا يَلْعَنُ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۝

۲- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حِمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۖ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

۳- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حِمْلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ

طرف لوٹ کر آتا ہے۔ تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا ۵

--- ﴿سورۃ لقمان آیت ۱۵﴾ ---

۳۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اسکی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جتا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور چالیس برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر

صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي ۖ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَّ الصَّدَقَاتِ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ ۝ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَقْبِلَا مَا آتَيْتُمَا مِنِّي إِن أُخْرِجُوا فَقَدْ خَلَقْتُ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۖ وَمَا يَسْتَفِيدُونَ مِنِّي إِلَّا أَسَاطِيرَ الْأُولِينَ ۝ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأُولِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝

گزار ہوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے اور میرے لئے میری اولاد میں اصلاح و (تقویٰ) دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں ۝

یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے (اور یہی) اہل جنت میں (ہونگے) (یہ) سچا وعدہ (ہے) جو ان سے کیا جاتا تھا ۝

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف! تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں (زمین سے) نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے (ہوئے کہتے) تھے کہ کبخت ایمان لا۔ خدا کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگایہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ۝

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی (دوسری) امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا۔ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے ۝

--- ﴿سورة الاحقاف آیت ۱۸ تا ۲۵﴾ ---



## وحدت نسل انسانی

۱۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور (قطع سودت) ارحام سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱﴾

۲۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر (تمہارے لئے) ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کے لئے ہم نے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ۵

﴿سورة الانعام آیت ۹۸﴾

۳۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ (اور) خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے ۵

﴿سورة الحجرات آیت ۱۳﴾

۱- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝  
 2- وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝  
 3- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝



۱- إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ  
 2- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

## وحی

۱۔ (اے محمد) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔

﴿سورة النساء آیت ۱۶۳﴾

۲۔ اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب

سے پوچھ لو ۵

﴿سورة النحل آیت ۳۳﴾

۳۔ اور کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام (کے ذریعے) سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القاء کرے بے شک وہ عالی رتبہ (اور) حکمت والا ہے ۵

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے (قرآن) بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک (اے محمد) تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو ۵  
(یعنی) خدا کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہونگے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا ۵

--- سورة الشوری آیت ۵۳ تا ۵۱ ---

۴۔ کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائیگا اور تمہارے ساتھ کیا (کیا جائیگا) میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے ۵

--- سورة الاحقاف آیت ۹ ---

۵۔ تارے کی قسم جب عاقب ہونے لگے ۵  
کہ تمہارے رفیق (محمد) نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں ۵  
اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں ۵  
یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے ۵

نیز دیکھئے: رسالت و نبوت

3- وَمَا كَانَ لِيَشِيرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي  
حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۗ مَا  
كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ  
نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ  
لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۗ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ الْآلَاءِ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۗ  
4- قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي  
وَلَا بِكُمْ ۗ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ  
مُّبِينٌ ۝  
5- وَالْحَجَرُ إِذَا هُوَ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۗ وَمَا يَنْطِقُ  
عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ عَلَيْهِ شَدِيدُ  
الْقُوَىٰ ۗ  
6- لَا تَحْزَنْ بِمَ لِسَانِكَ لَنَسْجَلُ بِهِ ۗ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ  
فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۗ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا نَبَأَهُ ۗ

ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ۵

--- سورة النجم آیت ۵ تا ۱ ---

۶۔ اور (اے محمد) وحی کے پڑھنے کیلئے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ  
اس کو جلد یاد کر لو ۵

اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے ۵

جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم (اسکو سنا کرو) پھر اسی طرح  
پڑھا کرو ۵

پھر اس (کے معانی) کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے ۵

--- سورة الطہ آیت ۱۶ تا ۱۹ ---

## وراثت

۱۔ خداتہماری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو کل تر کے میں ان کا دو تہائی۔ اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا تر کے میں چھٹا حصہ بشرطیکہ میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ۔ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اسکے ذمے ہو عمل میں آئیگی) تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ اور خدا سب کچھ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے ۵

اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولاد ہو تو تر کے میں

ترہا حصہ عورتیں (لکن تقسیم سے) (کی تعمیل) کے

۱- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً ففَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِحْجًا وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبِيهِ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسَ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّاتِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبِيُّ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّاتِ يُوَصِّيَنَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۚ وَلَهُنَّ الرِّبِيُّ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّاتِ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخَرُ فَأُوْحَتٌ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا

بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو

انکے ذمے ہو کی جائیگی) اور جو مال تم (مرد) چھوڑ مرو۔ اگر

تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اور

اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ (یہ حصے) تمہاری وصیت

(کی تعمیل) کے بعد جو تم نے کی ہو اور (ادائے) قرض کے

(بعد تقسیم کئے جائیں گے) اور اگر ایسے مرد یا عورت کی

میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن

ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ (یہ تقسیم) کے

تو سب ایک تہائی میں شریک ہونگے (یہ حصے بھی) بعد اداۓ وصیت و قرض بشرطیکہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو (تقسیم کیے جائیں گے) یہ خدا کا فرمان ہے اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۲﴾

۲۔ مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور (دیکھنا) اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو انہیں (گھروں میں) مت روک رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں (تو روکنا مناسب نہیں) اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے ۵

﴿سورة النساء آیت ۱۹﴾

۳۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے تو (حق داروں میں تقسیم کر دو کہ) ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے ۵

﴿سورة النساء آیت ۲۳﴾

۴۔ (اے پیغمبر) لوگ تم سے (کلالہ کے بارے میں) حکم (خدا)

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ  
يُؤْتِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا  
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَكَّرْنَ مِنْكُمْ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ  
تَأْتِيَنَّ بِفَأْخِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُنَّ حُوشًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

۳- وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

۴- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرٌ أَمَلَكَ  
لَيْسَ لَهُ وَكَلَةٌ أَوْ كَلَةٌ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا  
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَكَلٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ  
مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ

دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ) اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا۔ اور اگر (مرنے والے بھائی کی) دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی۔

اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے چلے وارث ہوں تو

مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے (یہ احکام) خدا تم سے

اس لئے بیان فرماتا ہے کہ بھگتے نہ پھر اور خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۷۶﴾ ---

۵۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار خدا کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۷۵﴾ ---



وسوسہ

۱۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں ۵

--- ﴿سورة ق آیت ۱۶﴾ ---

۲۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ۵

(یعنی) لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی ۵

لوگوں کے معبود برحق کی ۵

مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

۵ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



۱- وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلَّمَ مَا تُوسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَخَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

۲- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْغَيْثِ وَالنَّاسِ ۝



(شیطان) وسوسہ انداز کی برائی سے جو (خدا کا نام سن کر) پیچھے

ہٹ جاتا ہے ۵

جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ۵

(خواہ وہ) جنات سے (ہو) یا انسانوں میں سے ۵

--- ﴿سورة الناس آیت ۶﴾ ---

## وصیت

۱۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آجائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کیلئے دستور کے مطابق وصیت کر جائے (خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے) ۵

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس (کے بدلنے) کا گناہ انہیں لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بیشک خدا سنتا جانتا ہے ۵

اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے (کسی وارث) کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ (وصیت کو بدل کر) وارثوں میں صلح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بیشک خدا بخشنے والا (اور) رحم والا ہے ۵

— سورة البقرہ آیت ۱۸۰/۱۸۱ —

۲۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام (یعنی نکاح) کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور خدا زبردست حکمت والا ہے ۵

— سورة البقرہ آیت ۲۳۰ —

۱- كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ  
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ ۗ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى  
الَّذِينَ يَبْدِلُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ فَمَنْ خَافَ مِنْ  
مُؤْتَمِرِينَ جَنَاحًا أَوْ إِمَامًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ

۲- وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً  
لِّأَرْوَاحِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَا  
جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۖ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ  
حِينَ الْوَصِيَّةُ الْإِثْنُ ذَوَاعِدِلْ مِنكُمُ أَوْ آخَرِينَ مِنْ غَيْرِكُمْ  
إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ  
تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ  
لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ

۳۔ مومنو! جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت

(کا نصاب) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم (مسلمانوں) میں سے

دو مرد عادل (یعنی صاحب اعتبار) گواہ ہوں۔ یا اگر (مسلمان نہ

میں اور) تم سفر کر رہے ہو اور (اس وقت) تم پر موت کی مصیبت

واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو (فخصوں کو) گواہ (کر لو)

اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو (عصر کی) نماز

کے بعد کھڑا کر دو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت

کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی

شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے ۵  
 پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے (جھوٹ بول کر) گناہ  
 حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں  
 سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو (میت سے) قرابت  
 قریب رکھتے ہوں۔ پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت  
 ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی  
 ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں ۵

اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں  
 یا اس بات سے خوف کریں کہ (ہماری) قسمیں ان کی قسموں کے  
 بعد رد کر دی جائیں گی اور خدا سے ڈرو اور (اس کے حکموں کو گوش  
 ہوش سے سنو اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

﴿سورة المائدہ آیت ۱۰۸﴾

## وضو

۱۔ مومنو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک  
 ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں (دھولیا  
 کرو) اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو (نہا کر) پاک ہو جایا کرو اور

إِنَّا إِذَا لَيْنَ الْأَيْمِينَ ۝ فَإِنْ عَمِرَ عَلَىٰ الْهَمَا اسْتَحَقَّا إِنَّمَا  
 فَأَخْرَجَ يَقُولُ مِنْ مَقَامِهِمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْأَوْلِيَيْنَ فَيَقْسِمْنَ بِاللَّهِ شَهَادَةً تَأْتِي مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا  
 وَمَا اعْتَدَيْنَا ۚ إِنَّا إِذَا لَيْنَ الظُّلُمِينَ ۝ ذَلِكَ آدَتِي  
 أَنْ يَأْتُوا بِاللَّهِ شَهَادَةً عَلَىٰ وَجْهَيْهَا أَوْ يُخَافُونَ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ  
 بَعْدَ آيَاتِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
 الْفَاسِقِينَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
 وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ  
 كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  
 أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
 عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
 عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر  
 آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو  
 پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم) کر لو۔  
 خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں  
 پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو ۵

﴿سورة المائدہ آیت ۶﴾

## ہاتیل و قاتیل

۱۔ اور (اے محمد) ان کو آدم کے دو بیٹوں (ہاتیل اور قاتیل) کے حالات (جو بالکل) سچے (ہیں) پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے (خدا کی جناب میں) کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہوگئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی (تب قاتیل ہاتیل سے) کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ خدا پر ہیزگاروں ہی کی (نیاز) قبول فرمایا کرتا ہے ۵

اور اگر تو مجھے قتل کرنے کیلئے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کیلئے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے ۵

میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر (زمرہ) اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے ۵ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا ۵

۱۔ وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ  
مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَمْ يَنْقَبِلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتِلْتُمْ  
قَالَ إِنَّمَا يَنْقَبِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَيْسَ سَطَتْ  
إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِسَاطِدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي  
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِأُنْحَى  
إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝  
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ ۝ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ  
لِيُزِيدهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتِهِ وَقَالَ يُوَيْلَا لِمَى أَخَذْتَ  
أَكُونَ وَمِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْآتَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ  
الْمُتَدَمِّرِينَ ۝

اب خدا نے ایک کو ابھجا جو زمین کریدنے لگا تا کہ اسے دکھائے  
کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیونکر چھپائے۔ کہنے لگا اے ہے مجھ سے  
اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کو تے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش  
چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا ۵



## ہجرت

- ۱۔ جو لوگ ایمان لائے اور خدا کیلئے وطن چھوڑ گئے اور (کفار سے) جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خدا بخشنے والا (اور) رحمت کرینو والا ہے ۵
- ۲۔ تو جو لوگ میرے لئے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کئے گئے میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بیستوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ (یہ) خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے ۵

— (سورۃ آل عمران آیت ۱۹۵) —

- ۳۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے ۵

۱- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ أُولَٰئِكَ يُرْجَوْنَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۵

۲- قَالِ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي

سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ

جَنَّاتٍ جَدِّدٍ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدِ

اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ۵

۳- إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَلْفُسِهِمْ قَالُوا

فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۖ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۖ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ

فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۖ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے

ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں ۵

قریب ہے کہ خدا ایسوں کو معاف کر دے اور خدا معاف کرنے

والا (اور) بخشنے والا ہے ۵

اور جو شخص خدا کی راہ میں گھریا چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی

جگہ اور کشائش پائیگا۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف

ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا

ثواب خدا کے ذمے ہو چکا۔ اور خدا بخشے والا مہربان ہے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۰۰ تا ۱۰۶﴾ ---

۴۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں ان کیلئے۔ خدا کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی ہے ۵

--- ﴿سورة الانفال آیت ۷۳﴾ ---

۵۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو بچنے والے ہیں ۵

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لئے نعمت ہائے جاودانی ہے ۵ (اور وہ) ان میں ابدالاً بادر ہیں گے کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلہ (تیار) ہے ۵

--- ﴿سورة التوبة آیت ۲۰﴾ ---

۶۔ اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے۔ ان کو خدا اچھی روزی دے گا اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ۵

أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

4- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَتَصَرَّوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۝  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

5- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرًا ۚ إِنَّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ  
وَرِضْوَانٍ ۖ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ  
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

6- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا  
أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ  
لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لَيُدْخِلَنَّهُمُ اللَّهُ  
مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

7- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ  
الْمُؤْمِنَاتُ مَطْهُرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ

وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور

خدا تو جاننے والا (اور) بردبار ہے ۵

--- ﴿سورة الحج آیت ۵۸﴾ ---

۷۔ مومنو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو

ان کی آزمائش کرو۔ (اور) خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے

سوا اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو

کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز اور جو کچھ انہوں نے

عَلِمَتُمُوهِنَ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا بِذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَأَقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاحُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

1- قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ

2- قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهُ

3- فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعْدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَىٰ

(ان پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو۔ اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو (یعنی کفار کو واپس دیدو) اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے (اپنی عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کئے دیتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے ۝

اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے (اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو) پھر تم ان سے جنگ کر دو اور (ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے) تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دیدو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو ۝

--- ﴿سورة الممتحنة آیت ۱۱۰﴾ ---

## ہدایت و گمراہی

کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ

تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس طرح

خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے ۝

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۲۵﴾ ---

۱- کہہ دو کہ خدا کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت ہے۔

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۱۲۰﴾ ---

۲- (اے پیغمبر) کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے۔

--- ﴿سورة آل عمران آیت ۷۳﴾ ---

۳- تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام

۴۔ اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے

سیدھا راستہ دکھاتا ہے ۵

﴿سورۃ یونس آیت ۲۵﴾

۵۔ کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق

آچکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق

میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا

ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ۶

﴿سورۃ یونس آیت ۱۰۸﴾

۶۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور جو

گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی

دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں

عذاب نہیں دیا کرتے ۷

﴿سورۃ نبی اسرائیل آیت ۱۵﴾

۷۔ جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ

کرے تو تم اس کے لئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے ۸

﴿سورۃ الکہف آیت ۱۷﴾

۸۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

۴- وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

۵- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ

اهْتَدَىٰ فَأَنْتُمْ بِهِتَدَىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

۶- مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

يُضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ

حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

۷- مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ لَنْ تَجِدَ لَهُ

وَلِيًّا مُّرْشِدًا

۸- قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ

إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَاقِعًا لِلشَّاعَةِ لَمْ يَعْلَمُونَ

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ

اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةَ الضَّالِّينَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ

مہلت دیئے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے

جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو (اس

وقت) جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے ۵

اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے

اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے

کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں ۶

﴿سورۃ مریم آیت ۷۵﴾

۹۔ اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو (کہیں بھی) روشنی نہیں مل سکتی ۵

﴿سورة النور آیت ۲۹﴾

۱۰۔ مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ۵ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ۵

﴿سورة الروم آیت ۲۹﴾

۱۱۔ اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ۵ اور جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ۵

﴿سورة الزمر آیت ۲۶﴾

۱۲۔ اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں ۵

﴿سورة الشوری آیت ۲۲﴾

۱۳۔ اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لئے (ہدایت کا) کوئی رستہ نہیں ۵

﴿سورة الشوری آیت ۲۶﴾

خَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

9- وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

10- بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي

مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُورٍ ۝

11- وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ

مِنْ مُضِلٍّ ۝

12- وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۝

13- وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝

14- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ قَالَ لَهَا مُطَوَّرَهَا وَتَقْوَاهَا ۝

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝



۱۳۔ اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا ۵

پھر اس کو بدکاری (سے بچنے) اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی ۵

کہ جس نے (اپنے نفس) یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد

کو پہنچا ۵

﴿سورة النفس آیت ۹۵﴾





۳۔ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں (جو بادلوں کے پانی سے) بھری ہوئی (ہوتی ہیں) اور ہم ہی آسمان سے مینہ برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے ۵

﴿سورة الحجر آیت ۲۲﴾

۴۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مینہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک (اور نضر ہوا) پانی برساتے ہیں ۵

﴿سورة الفرقان آیت ۴۸﴾

۵۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اسکے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) طلب کرو جب نہیں کہ تم شکر کرو ۵

﴿سورة الروم آیت ۴۶﴾

۶۔ مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو (اس نے) تم پر (اس وقت) کی جب فوجیں تم پر (حملہ کرنے کو) آئیں۔ تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر (نازل کئے) جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے ۵

﴿سورة الاحزاب آیت ۹﴾

۷۔ اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں

۳- وَارْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَقْبَلَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۵  
 ۴- وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۵  
 ۵- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَسْتَغْفِرُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۵  
 ۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۵  
 ۷- وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِسَ سَحَابًا فَأَسْقِيَهُ إِلَى بَلَدٍ مَحْبُوبٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۵  
 ۸- وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۵ إِنَّ يَكْفُرُ بِرِيحِ الرِّيحِ فَيُظَلِّلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۵ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَصْغَرُونَ ۵

پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا ۵

﴿سورة قاطر آیت ۹﴾

۸۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں (جو) گویا پہاڑ (ہیں) اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لئے ان (باتوں) میں قدرت خدا کے نمونے ہیں ۵

﴿سورة الشورى آیت ۳۲﴾

۹۔ رہے عبادان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا  
خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو (اے  
مخاطب) تو لوگوں کو اس میں (اس طرح) ڈھسے (اور مرے)  
پڑے (دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تھے)  
بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے

--- ﴿سورة الحاقة آیت ۸۵﴾ ---

## یا وہ گوئی

۱۔ سو منو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر (ان  
کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر  
قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر  
ظاہر بھی کر دی جائیں گی (اب تو) خدا نے ایسی باتوں (کے  
پوچھنے) سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے  
اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں (مگر  
جب بتائی گئیں تو) پھر ان سے منکر ہو گئے

--- ﴿سورة المائدة آیت ۱۰۲﴾ ---

۲۔ پینک ایمان والے رستگار ہو گئے

جو نماز میں بجز و نیاز کرتے ہیں

۹- وَأَمَّا عَادًا فَاهْتَكُوا بَيْعَ صِرْعَاتِيَّةٍ ۖ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ  
سَبْعَ لَيَالٍ وَتَلَيَنَّ آيَاتِهِمْ ۖ فَصَوَّمَا ۖ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا  
صَرْغِي ۖ كَالَّذِينَ أَعْبَأُ تَخْلِبَ خَاوِيَةً ۖ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ  
مِنْ بَاقِيَةٍ ۖ

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ  
تَسْوِكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ  
عَنْهَا ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۖ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ  
أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۖ

۲- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۗ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۗ

۳- وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا  
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۗ

اور جو یہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں

--- ﴿سورة المؤمنون آیت ۳۲﴾ ---

۳۔ اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں

اور جب جاہل لوگ ان سے (جاہلانہ) گفتگو کرتے ہیں تو سلام

کہتے ہیں

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۶۳﴾ ---

مزید حوالے: آل عمران: ۱۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰

ص: ۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰



۴۔ اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب انکو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں ۵

--- ﴿سورة الفرقان آیت ۷۲﴾ ---

۵۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال تم کو سلام ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں ۵

--- ﴿سورة القصص آیت ۵۵﴾ ---

### یتیم

۱۔ (اے محمد) لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ (خدا کی راہ میں) کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہہ (جو چاہو خرچ کر لیکن) جو مال خرچ کرنا چاہو وہ (درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی) ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو (سب کو دو) اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۱۵﴾ ---

۲۔ اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کی حالت کی (اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا (یعنی خرچ اکٹھا رکھنا) چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔

۴- وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝  
۵- وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا  
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۝



۱- يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ  
الَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝  
۲- وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ  
تَخَالَطَوْهُم فَاخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝  
۳- وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَنْهَابَ بِالْقُلُوبِ ۗ  
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۗ  
وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتْلُوهَا مَاتَابَ لَكُمْ مِنْ

بیشک خدا غالب (اور) حکمت والا ہے ۵

--- ﴿سورة البقرہ آیت ۲۲۰﴾ ---

۳۔ اور یتیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو (اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو۔ اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے ۵

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں

انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو  
دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا  
اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کر سکو گے  
تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جس کے تم مالک ہو اس سے تم  
بے انصافی سے بچ جاؤ گے ۵

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ اپنی خوشی  
سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھا لو۔  
اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لئے سبب  
معیشت بنایا ہے مت دو (ہاں) اس میں سے ان کو کھلاتے  
اور پہناتے رہو اور ان سے محقول باتیں کہتے رہو ۵

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر (بالغ  
ہونے پر) اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے  
حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے (یعنی  
بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے) اس کو فضول خرچی  
اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو (ایسے مال  
سے قطعی طور پر) پرہیز رکھنا چاہئے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب  
طور پر (یعنی بقدر خدمت) کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان

النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
وَإِنَّمَا لِلنِّسَاءِ صِدُقْتُهُنَّ نَخْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ وَلَا تَوْلُوا السُّفَهَاءَ  
أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَمْتُم مِّنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا  
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ  
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝  
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ وَ  
إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينُ

کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو خدائی  
(گواہ اور) حساب لینے والا کافی ہے ۵

جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے تھوڑا ہو یا بہت اس میں  
مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے (خدا کے)  
مقرر کئے ہوئے ہیں ۵

اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار اور یتیم  
اور محتاج آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور  
شریں کلامی سے پیش آیا کرو ۵

اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہئے جو (ایسی حالت میں ہوں کہ:) اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو (کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا) پس چاہئے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں ۵

جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر رکھتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۱۰۴﴾ ---

۴۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقاء پہلو (یعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) اور) تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا ۵

--- ﴿سورة النساء آیت ۲۶﴾ ---

۵۔ (اے پیغمبر) لوگ تم سے (یتیم) عورتوں کے بارے میں

فَارزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَلْيَخْشَ  
الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۝  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ  
يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  
نَارًا ۝ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝

4- وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْبَالِغُ مِنَ الْإِحْسَانِ  
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا  
فَعُورًا ۝

5- وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا  
يُنزِلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي نِسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ  
مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَكَرِهْنَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ  
مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا بِالْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا  
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

کرنے کے) معاملے میں اجازت دیتا ہے اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اور (نیز) بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں اور یہ (بھی) حکم دیتا ہے کہ (یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو) اور

جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے ۵

۶۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا گراہیے طریق سے کہ

بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے ۵

--- ﴿سورة الانعام آیت ۱۵۲﴾ ---

۷۔ نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے ۵

اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو ۵

اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو ۵

اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو ۵

--- ﴿سورة الحجر آیت ۲۰ تا ۲۱﴾ ---

۸۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا ۵

--- ﴿سورة النحی آیت ۹﴾ ---

۹۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلاتا ہے ۵

یہ وہی (بد بخت) ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ۵

--- ﴿سورة الماعون آیت ۲۱﴾ ---



6- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

أَشُدَّهُ ۝

7- كَلَّا بَلْ لَا تَهْتَمُونَ بِالْيَتِيمِ ۝ وَلَا تَحْصُونَ عَلَىٰ

طَعَامِ السَّكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَبًّا ۝

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

8- فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

9- أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّمِّينَ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ

الْيَتِيمَ ۝



## یہود و نصاریٰ

۱۔ اور آخر کار (ذلت (ورسوائی) اور محتاجی (وبے نوئی) ان سے چمٹادی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے یہ اس لئے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور (اس کے) نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے (یعنی) یہ اس لئے کہ نافرمانی کئے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۶۱﴾ ---

۲۔ اور (یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جا سکتا۔ گاہ یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں (اے پیغمبر ان سے) کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۱۱﴾ ---

۳۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں۔ حالانکہ وہ کتاب (الہی) پڑھتے ہیں اسی طرح بالکل انہیں کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو (کچھ) نہیں جانتے (یعنی مشرک) تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۱۳﴾ ---

۱- وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝  
۲- وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ آمَانَاتُكُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝  
۳- وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيَّةُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرِيَّةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ إِنَّكُم مِّمَّن يَتَّبِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝  
۴- وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرِيَّةُ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ ۖ وَلَئِن تَابَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝  
۵- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ

خدا کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے پیغمبر) اگر تم اپنے پاس علم (یعنی وحی خدا) کے آجانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو (عذاب) خدا سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہو گا نہ کوئی مددگار ۵

--- ﴿سورۃ البقرہ آیت ۱۲۰﴾ ---

۵۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت (کو دیکھو گے کہ) ان سے جھٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خدا اور (مسلمان) لوگوں کی بناہ

۴۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں

ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لئے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور (اس کے) پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لئے کہ یہ نافرمانی کئے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے ۵

--- سورة آل عمران آیت ۱۱۲ ---

۶۔ اور جو لوگ (اپنے تئیں) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لئے دشمنی اور کینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا ۵

--- سورة المائدہ آیت ۱۴ ---

۷۔ اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے (نہیں) بلکہ تم اس کی مخلوقات میں (دوسروں کی طرح کے) انسان ہو وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور (سب کو) اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۵

--- سورة المائدہ آیت ۱۸ ---

يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦﴾

۶- وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِنَّا قَهْمًا فَسُوءًا حَقًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٧﴾

۷- وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلَ خَلْقٍ ۚ يُخَفِّرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

۸- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾

۹- وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ۚ يُنفِثُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ

۸۔ اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں میں سے ہوگا بیشک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۵

--- سورة المائدہ آیت ۵۱ ---

۹۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ (گردن سے) بندھا ہوا ہے (یعنی اللہ بخیل ہے) انہیں کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس

طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور (اے محمد) یہ (کتاب) جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا۔ اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کیلئے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کیلئے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بھادیتا ہے اور یہ ملک میں فساد کیلئے دوڑتے پھرتے ہیں اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ۵

— ﴿سورة المائدہ آیت ۶۳﴾ —

۱۰۔ (اے پیغمبر) تم دیکھو کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اسلئے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے ۵


— ﴿سورة المائدہ آیت ۸۲﴾ —

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا  
وَلُفْرًا ۖ وَالْقِينَاتِ يَنْهَمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ  
كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعَوْنَ فِي  
الْأَرْضِ فَسَادًا ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ ۝  
-10- لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ  
أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا  
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذٰلِكَ بِأَن مِّنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهَبَانًا  
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَلْبِزُونَ ۝

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا  
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں  
کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا اور جانتا ہے..... الانعام 115





بن قطب انٹرنیشنل

ISBN 978-969-9445-00-2



9 789699 445002 >